دنیا کا اولین
قرآن حکیم
تمام متوقع متشابہات سے مزین حاشیہ اور
انتہائی اہم معلومات پر مشتمل ضمیمہ کیساتھ
حفاظ کرام، قراء کرام وعلمائے کرام کے لئے بے مثال تحفہ
القرآن الکریم
مع
تشریح المُتشابِہات
مؤلفین
"قرآنی کمپیوٹر" قاری عبدالحلیم نور اللہ مرقدہ
"فرزندِ روحانی" قاری محمد سلیم رفیق عفا اللہ عنہ
الحافظ پبلشرز
مدرسہ حفظ القرآن، اسلم روڈ، کراچی، پاکستان

دنیا کا اولین

قرآن حکیم

تمام متوقع متشابہات سے مزین حاشیہ اور
انتہائی اہم معلومات پر مشتمل ضمیمہ کیساتھ

حفاظ کرام، قراء کرام وعلمائے کرام کے لئے بے مثال تحفہ

القرآن الکریم

مع
تشریح المتشابہات

مؤلفین
"قرآنی کمپیوٹر" قاری عبدالحلیم نوّر اللہ مرقدہٗ
"فرزندِ روحانی" قاری محمد سلیم رفیق عفا اللہ عنہٗ

الحافظ پبلشرز
مدرسہ حفظ القرآن، اسلم روڈ، کراچی، پاکستان

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ سَبْعُ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٣ مٰلِكِ يَوْمِ
الدِّيْنِ ۝٤ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ
نَسْتَعِيْنُ ۝٥ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٦
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

۱۔ المؤمن ۶۵ نیز «الحمد للّٰہ» ضمیمہ ۱ میں اور «الحمد للّٰہ ربّ العٰلمین» ضمیمہ ۲ میں ہے۔
۲۔ النمل ۳۰ اور حٰم السجدۃ ۲ جبکہ «ھو الرحمٰن الرّحیم» البقرۃ ۱۶۳ اور الحشر ۲۲ میں آیا ہے۔

ع ۷

١۔ ضمیمہ ٣
٢۔ ضمیمہ ٤
٣۔ ضمیمہ ٥
٤۔ النسآء ٦٠ اور ١٦٢
٥۔ صرف یہیں جبکہ «وهم بالآخرة هم یوقنون» النمل ٣ اور لقمان ٤ میں آیا ہے.

معانقة ١ الحزب ١

سورة البقرة مدنية وهي مائتان وست وثمانون آية وأربعون ركوعا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝٥
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ۝٦ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ
أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝٧ وَمِنَ النَّاسِ
مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۝٨
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ ۝٩ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝١٠ وَإِذَا قِيلَ
لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝١١
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝١٢ وَإِذَا
قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ
السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۝١٣
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ
شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ۝١٤
اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝١٥

٦۔ العنکبوت ١٠
٧۔ صرف یس نیز ضمیمہ ٣٧
٨۔ آل عمران ٦٩ اور الانعام ٢٦
٩۔ ضمیمہ ٩
١٠۔ ضمیمہ ١٠
١١۔ ضمیمہ ١١
١٢۔ البقرة ٩١ نیز ضمیمہ ١١
١٣۔ البقرة ٧٦
١٤۔ البقرة ٧٦ اور آل عمران ١١٩
١٥۔ ضمیمہ ١٢

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا
فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي
ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾
أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ
أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ
بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم
مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ
بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ
بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا
لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِن كُنتُمْ
فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

۵۔ ضمیمہ ۱۵
۶۔ ضمیمہ ۱۶
۷۔ ضمیمہ ۱۷
۸۔ ضمیمہ ۲۲۶
۹۔ ابراھیم ۳۲ نیز الانعام ۹۹، طٰہٰ ۵۳، فاطر ۲۷ و ضمیمہ ۱۸
۱۰۔ یونس ۳۸ اور ھود ۱۳
۱۱۔ ضمیمہ ۱۹
۱۲۔ ضمیمہ ۲۰

ع ۲ (۱۳) ۲

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیْ وَقُوْدُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِیْنَ ﴿٢٤﴾ وَبَشِّرِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا
رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِیْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ
وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِیْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ وَّهُمْ فِیْهَا
خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَسْتَحْیٖۤ اَنْ یَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا
فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَیَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا
الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فَیَقُوْلُوْنَ مَاذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ یُضِلُّ
بِهٖ كَثِیْرًا وَّ یَهْدِیْ بِهٖ كَثِیْرًا ؕ وَمَا یُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِیْنَ ﴿٢٦﴾ ۙ
الَّذِیْنَ یَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِیْثَاقِهٖ ۪ وَیَقْطَعُوْنَ
مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ یُّوْصَلَ وَیُفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ
هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾ كَیْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا
فَاَحْیَاكُمْ ۚ ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیْكُمْ ثُمَّ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾
هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰۤی اِلَی
السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿٢٩﴾ ع ٣

٥۔ آل عمران ١٥ اور النسآء ٥٧
٦۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ٢٨
٧۔ الروم ١٦ اور الجاثیۃ ٣١ جبکہ «فَاَمَّا الذین کفروا» آل عمران ٥٦ میں ھے۔
٨۔ المدثر ٣١
٩۔ الرعد ٢١ اور ٢٥
١٠۔ الانفال ٣٧، العنکبوت ٥٢ اور الزمر ٦٣
١١۔ الحج ٦٦ اور الروم ٤٠
١٢۔ الروم ١١ و الزمر ٤٤
١٣۔ الانعام ١٠١ اور الحدید ٣ جبکہ یٰس ٧٩ میں «خَلق» استعمال ہوا ھے۔

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّیْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۳۱﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ ﴿۳۲﴾ قَالَ یٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْٓ اَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِیْسَ ؕ اَبٰی وَاسْتَكْبَرَ ٭ۗ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ﴿۳۴﴾ وَقُلْنَا یٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۳۵﴾ فَاَزَلَّهُمَا الشَّیْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِیْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِی الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰی حِیْنٍ ﴿۳۶﴾ فَتَلَقّٰٓی اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ ﴿۳۷﴾

۴۔ یوسف ۹۶
۵۔ المآئدة ۹۹ اور النور ۲۹
۶۔ ضمیمہ ۲۲
۷۔ ضمیمہ ۲۳
۸۔ الاعراف ۱۹
۹۔ الاعراف ۲۴ اور طه ۱۲۳
۱۰۔ الاعراف ۲۴ جبکہ صرف «ومتاع الی حین» الانبیآء ۱۱۱ میں ہے.
۱۱۔ البقرة ۵۴

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ
هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۳۹﴾
يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا
بِعَهْدِىْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ ﴿۴۰﴾ وَاٰمِنُوْا بِمَآ
اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا
بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۡ وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ ﴿۴۱﴾ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۴۲﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ
وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿۴۳﴾ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۴۴﴾ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ
وَالصَّلٰوةِ ۭ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿۴۵﴾ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ
اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۴۶﴾ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ
اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۷﴾
وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ
مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿۴۸﴾

۶۔ البقرة ۴۷ اور ۱۲۲
۷۔ النسآء ۴۷
۸۔ المآئدة ۴۴
۹۔ ضمیمہ ۲۹
۱۰۔ آل عمران ۷۱
۱۱۔ ضمیمہ ۳۰
۱۲۔ ضمیمہ ۳۱
۱۳۔ البقرة ۱۵۳
۱۴۔ البقرة ۴۰ اور ۱۲۲
۱۵۔ البقرة ۱۲۲
۱۶۔ البقرة ۱۲۳

وَاِذۡ نَجَّيۡنٰكُمۡ مِّنۡ اٰلِ فِرۡعَوۡنَ يَسُوۡمُوۡنَكُمۡ سُوۡٓءَ الۡعَذَابِ

يُذَبِّحُوۡنَ اَبۡنَآءَكُمۡ وَيَسۡتَحۡيُوۡنَ نِسَآءَكُمۡ ؕ وَفِىۡ ذٰلِكُمۡ بَلَآءٌ مِّنۡ

رَّبِّكُمۡ عَظِيۡمٌ ﴿۴۹﴾ وَاِذۡ فَرَقۡنَا بِكُمُ الۡبَحۡرَ فَاَنۡجَيۡنٰكُمۡ وَاَغۡرَقۡنَآ اٰلَ

فِرۡعَوۡنَ وَاَنۡتُمۡ تَنۡظُرُوۡنَ ﴿۵۰﴾ وَاِذۡ وٰعَدۡنَا مُوۡسٰۤى اَرۡبَعِيۡنَ لَيۡلَةً

ثُمَّ اتَّخَذۡتُمُ الۡعِجۡلَ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ وَاَنۡتُمۡ ظٰلِمُوۡنَ ﴿۵۱﴾ ثُمَّ عَفَوۡنَا

عَنۡكُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ ﴿۵۲﴾ وَاِذۡ اٰتَيۡنَا مُوۡسَى

الۡكِتٰبَ وَالۡفُرۡقَانَ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ ﴿۵۳﴾ وَاِذۡ قَالَ مُوۡسٰى لِقَوۡمِهٖ

يٰقَوۡمِ اِنَّكُمۡ ظَلَمۡتُمۡ اَنۡفُسَكُمۡ بِاتِّخَاذِكُمُ الۡعِجۡلَ فَتُوۡبُوۡٓا

اِلٰى بَارِئِكُمۡ فَاقۡتُلُوۡٓا اَنۡفُسَكُمۡ ؕ ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ عِنۡدَ

بَارِئِكُمۡ ؕ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ ﴿۵۴﴾ وَاِذۡ

قُلۡتُمۡ يٰمُوۡسٰى لَنۡ نُّؤۡمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهۡرَةً

فَاَخَذَتۡكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنۡتُمۡ تَنۡظُرُوۡنَ ﴿۵۵﴾ ثُمَّ بَعَثۡنٰكُمۡ مِّنۡۢ

بَعۡدِ مَوۡتِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ ﴿۵۶﴾ وَظَلَّلۡنَا عَلَيۡكُمُ الۡغَمَامَ

وَاَنۡزَلۡنَا عَلَيۡكُمُ الۡمَنَّ وَالسَّلۡوٰى ؕ كُلُوۡا مِنۡ طَيِّبٰتِ مَا

رَزَقۡنٰكُمۡ ؕ وَمَا ظَلَمُوۡنَا وَلٰكِنۡ كَانُوۡٓا اَنۡفُسَهُمۡ يَظۡلِمُوۡنَ ﴿۵۷﴾

النسآء ۱۵۳
۴۔ ضمیمہ ۳۲
۵۔ ضمیمہ ۳۳
۶۔ البقرة ۶۷ نیز ضمیمہ ۳۴
۷۔ البقرة ۱۸۷ و المزمل ۲۰
۸۔ البقرة ۳۷
۹۔ البقرة ۶۱
۱۰۔ «کُمۡ» کیساتھ صرف یہیں نیز النسآء ۱۵۳ اور الذاریات ۴۴
۱۱۔ البقرة ۵۰ اور آل عمران ۱۴۳
۱۲۔ ضمیمہ ۳۲
۱۳۔ الاعراف ۱۶۰
۱۴۔ الاعرف ۱۶۰ اور طه ۸۰
۱۵۔ الاعراف ۱۶۰ اور طه ۸۱
۱۶۔ الاعراف ۱۶۰ نیز ضمیمہ ۳۵

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ
خَطٰيٰكُمْؕ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۸﴾ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا
غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا
مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۵۹﴾ وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ
عَيْنًاؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ
اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿۶۰﴾ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى
لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا
تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَ فُوْمِهَا وَعَدَسِهَا
وَبَصَلِهَاؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌؕ
اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ
بِغَيْرِ الْحَقِّؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۶۱﴾

الشعرآء ۶۳
۵۔ الاعراف ۱۶۰
۶۔ ضمیمہ ۳۶
۷۔ البقرۃ ۵۵
۸۔ آل عمران ۱۱۲ نیز ترتیب کا بھی خیال رکھیے۔
۹۔ آل عمران ۲۱ و ۱۱۲
۱۰۔ آل عمران ۱۱۲ اور المآئدۃ ۷۸

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ
مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا
مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ
اذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ
فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ
كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ۚ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا
وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ
اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ
قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا
رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِىَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ
وَّلَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٨﴾
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ
اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ﴿٦٩﴾

٥۔ ضمیمہ ٣٨
٦۔ البقرۃ ٨٤ اور ٩٣
٧۔ البقرۃ ٩٣ و الاعراف ١٧١
٨۔ ضمیمہ ١٧
٩۔ «فَلَولا» کیساتھ صرف یہیں نیز ضمیمہ ١٢٣
١٠۔ الاعراف ١٦٦
١١۔ المآئدۃ ٤٦ و النور ٣٤ جبکہ آل عمران ١٣٨ میں «ة» کے دو پیش کیساتھ ہے.
١٢۔ البقرۃ ٥٤ نیز ضمیمہ ٣٤
١٣۔ الانعام ٣٥ ، ہود ٤٦ اور یوسف ٣٣
١٤۔ البقرۃ ٦٩ اور ٧٠
١٥۔ البقرۃ ٦٩ اور ٧١
١٦۔ البقرۃ ٦٨ اور ٧٠
١٧۔ البقرۃ ٦٨ اور ٧١

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا
وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهٗ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا
ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا
قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧١﴾
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ
تَكْتُمُوْنَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى
وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ
بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ
لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهٰرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ
الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٤﴾ أَفَتَطْمَعُوْنَ أَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ
فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْ بَعْدِ
مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا
اٰمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ قَالُوْا أَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا
فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٧٦﴾

۵۔ ضمیمہ ۴۱
۶۔ البقرۃ ۱۴
۷۔ البقرۃ ۱۴ اور آل عمران ۱۱۹
۸۔ الانعام ۱۱۲، التوبۃ ۱۲۷ اور سبا ۳۱ نیز ضمیمہ ۲۰۴
۹۔ آل عمران ۷۳
۱۰۔ ضمیمہ ۳۱

اَوَلَا يَعۡلَمُوۡنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّوۡنَ وَمَا يُعۡلِنُوۡنَ ﴿٧٧﴾
وَمِنۡهُمۡ اُمِّيُّوۡنَ لَا يَعۡلَمُوۡنَ الۡكِتٰبَ اِلَّاۤ اَمَانِىَّ وَاِنۡ هُمۡ
اِلَّا يَظُنُّوۡنَ ﴿٧٨﴾ فَوَيۡلٌ لِّلَّذِيۡنَ يَكۡتُبُوۡنَ الۡكِتٰبَ بِاَيۡدِيۡهِمۡ
ثُمَّ يَقُوۡلُوۡنَ هٰذَا مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ لِيَشۡتَرُوۡا بِهٖ ثَمَنًا
قَلِيۡلًا ؕ فَوَيۡلٌ لَّهُمۡ مِّمَّا كَتَبَتۡ اَيۡدِيۡهِمۡ وَوَيۡلٌ لَّهُمۡ
مِّمَّا يَكۡسِبُوۡنَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُوۡا لَنۡ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا
مَّعۡدُوۡدَةً ؕ قُلۡ اَتَّخَذۡتُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ عَهۡدًا فَلَنۡ يُّخۡلِفَ
اللّٰهُ عَهۡدَهٗۤ اَمۡ تَقُوۡلُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿٨٠﴾ بَلٰى مَنۡ
كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتۡ بِهٖ خَطِيۡٓـئَتُهٗ فَاُولٰٓـئِكَ اَصۡحٰبُ
النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓـئِكَ اَصۡحٰبُ الۡجَـنَّةِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿٨٢﴾
وَاِذۡ اَخَذۡنَا مِيۡثَاقَ بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ لَا تَعۡبُدُوۡنَ اِلَّا اللّٰهَ
وَبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا وَّذِى الۡقُرۡبٰى وَالۡيَتٰمٰى وَالۡمَسٰكِيۡنِ
وَقُوۡلُوۡا لِلنَّاسِ حُسۡنًا وَّاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ
ثُمَّ تَوَلَّيۡتُمۡ اِلَّا قَلِيۡلًا مِّنۡكُمۡ وَاَنۡتُمۡ مُّعۡرِضُوۡنَ ﴿٨٣﴾

نیز البقرة ١٨٤ و ٢٠٣ اور آل عمران ٢٤
٤۔ الاعراف ٢٨ اور يونس ٦٨
٥۔ البقرة ٢٧٥ نیز ضمیمه ٢٧
٦۔ ضمیمه ٢٨
٧۔ ضمیمه ٤٢
٨۔ ضمیمه ٤٣
٩۔ ضمیمه ٢٨
١٠۔ المآئدة ٧٠
١١۔ النسآء ٣٦ ، الانعام ١٥١ اور الاسرآء ٢٣
١٢۔ ضمیمه ٣٠

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿۸۴﴾ ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۸۵﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿۸۶﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ﴿۸۷﴾ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۸۸﴾

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۡ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۸۹﴾ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۹۰﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۹۱﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿۹۲﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۹۳﴾

نیز البقرۃ ۸۹ اور ۱۰۱
۵۔ ضمیمہ ۴۵
۶۔ العنکبوت ۳۹
۷۔ البقرۃ ۵۱ اور النسآء ۱۵۳
۸۔ البقرۃ ۶۳ اور ۸۴
۹۔ البقرۃ ۶۳ اور الاعراف ۱۷۱
۱۰۔ النسآء ۴۶ نیز البقرۃ ۲۸۵، المآئدۃ ۷ اور النور ۵۱
۱۱۔ ضمیمہ ۴۵

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ
دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۹٤﴾ وَ
لَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۹۵﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَ
مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَ
مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا
يَعْمَلُوْنَ ﴿۹٦﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ
عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى
وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۹۷﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَ
رُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿۹۸﴾
وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا
الْفٰسِقُوْنَ ﴿۹۹﴾ اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ؕ
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۰۰﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ
اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ ۙ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۱﴾

(margin: معانقة ۲: عند المتأخرين ۱۲ — ع ۱۱ ۱۰ ۱۱)

جبکہ «أَعلَم» کیساتھ الانعام ۵۸ میں ھے۔
۵۔ آل عمران ۱٦۳ اور المآئدة ۷۱ نیز «تَعملونَ» کیساتھ الحجرات ۱۸ میں ھے۔
٦۔ آل عمران ۳، المآئدة ٤٦ و ٤۸ جبکہ المآئدة ٤٦ کے دوسرے موقع میں (و) زائد ھے۔
۷۔ النحل ۱۰۲ اور النمل ۲
۸۔ البقرة ۲۸۵ اور النسآء ۱۳٦
۹۔ المجادلة ۵
۱۰۔ «لا يعقلون» کیساتھ العنکبوت ٦۳ میں نیز ضمیمه ۱۹۹
۱۱۔ البقرة ۸۹ اور ۹۱

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا
كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ
السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۗ
وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا
تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ
زَوْجِهٖ ۗ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ
وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوْا
لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ
مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ
اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۗ لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۳﴾ ع يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَ
قُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۰۴﴾
مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ
اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ
بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۰۵﴾

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ۗ اَلَمْ
تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۰۶﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ
وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۰۷﴾ اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْــَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا
سُىِٕلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۭ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاۗءَ السَّبِيْلِ ﴿۱۰۸﴾ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ښ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ
اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا
وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ
قَدِيْرٌ ﴿۱۰۹﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۭ وَمَا تُقَدِّمُوْا
لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
بَصِيْرٌ ﴿۱۱۰﴾ وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا
اَوْ نَصٰرٰى ۭ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ۭ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۱﴾ بَلٰى ۤ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ
اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۠ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۱۲﴾ ع ۱۳

۳۔ التوبۃ ۱۱۶، العنکبوت ۲۲ اور الشوریٰ ۳۱ نیز ضمیمہ ۱۹
۴۔ المآئدۃ ۱۲ و الممتحنۃ ۱
۵۔ التوبۃ ۲۴
۶۔ ضمیمہ ۱۵
۷۔ ضمیمہ ۳۰
۸۔ المزمل ۲۰
۹۔ البقرۃ ۲۳۷ جبکہ «اَنّ اللّٰہَ» کیساتھ البقرۃ ۲۳۳ میں نیز ضمیمہ ۹۱
۱۰۔ البقرۃ ۱۳۵ اور ۱۴۰
۱۱۔ الانبیآء ۲۴ و النمل ۶۴
۱۲۔ ضمیمہ ۲۰
۱۳۔ النسآء ۱۲۵ اور لقمان ۲۲
۱۴۔ ضمیمہ ۳۸

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَىْءٍ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى
لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَىْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ
الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۱۳﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ
مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا ؕ
اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ لَهُمْ فِى
الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۱۴﴾ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ
عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ
لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ
قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ
قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۱۱۸﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ
بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْــَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۹﴾

٤۔ البقرۃ ۱۱۸
٥۔ ضمیمہ ٥۰
٦۔ المآئدۃ ۳۳ اور ٤۱
۷۔ البقرۃ ۱٤۲
۸۔ الشعرآء ٦٤، الدھر ۲۰ و التکویر ۲۱
۹۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۸۳
۱۰۔ یونس ٦۸
۱۱۔ الحشر ۲٤ نیز ضمیمہ ٥۱
۱۲۔ الروم ۲٦
۱۳۔ الانعام ۱۰۱
۱٤۔ آل عمران ٤۷، مریم ۳٥ اور المؤمن ٦۸
۱٥۔ البقرۃ ۱۱۳
۱٦۔ فاطر ۲٤

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ
قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ
الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۲۰﴾
اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ
وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۲۱﴾ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا
نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۲۲﴾ وَاتَّقُوْا
يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ
لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿۱۲۳﴾ وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ
رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۲۴﴾ وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ
مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ
اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُوْدِ ﴿۱۲۵﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ
مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ
فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۲۶﴾

۳۔ التوبة ۷۴ اور الرعد ۳۷
٤۔ البقرة ۱٤٦ اور الانعام ۲۰
٥۔ هود ۱۷
٦۔ الاعراف ۱۷۸ اور المنافقون ۹ جبکہ (و) کیساتھ التوبة ٦۹ میں ہے۔
۷۔ البقرة ٤۰ اور ٤۷
۸۔ البقرة ٤۷
۹۔ البقرة ٤۸
۱۰۔ خیال سے پڑھیے یہاں «وَاسحٰقَ» نہیں ہے۔
۱۱۔ الحج ۲٦
۱۲۔ ابراهيم ۳٥
۱۳۔ ضميمه ۳۷
۱٤۔ لقمان ۲٤
۱٥۔ ضميمه ٥۲

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۲۷﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۲۸﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۲۹﴾ وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۳۰﴾ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۳۱﴾ وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾ ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۳﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۴﴾

ع ۱۵ / ۸ / ۱۵

البقرة ۳۷ و ۵۴ میں، «اَنّ الله هو التّواب» التوبة ۱۰۴ میں اور «اِنّ الله هو التّواب» کیساتھ التوبة ۱۱۸ میں ہے۔

۳۔ صرف یہیں نیز البقرة ۱۵۱، آل عمران ۱۶۴ اور الجمعة ۲

۴۔ المؤمن ۸ اور الممتحنة ۵ جبکہ «فاِنّكَ» المائدة ۱۱۸ میں، «العزيز الكريم» الدخان ۴۹ میں اور «العليم الحكيم» کیساتھ البقرة ۳۲ میں آیا ہے۔

۵۔ النحل ۱۲۲ اور العنکبوت ۲۷

۶۔ آل عمران ۱۰۲

۷۔ خیال سے پڑھیے یہاں «اذ حضر يعقوب» کیساتھ ہے جبکہ «اذ وصّاكم الله» کیساتھ الانعام ۱۴۴ میں ہے۔

۸۔ البقرة ۱۳۶، آل عمران ۸۴ اور العنکبوت ۴۶ جبکہ «ونحن له عابدون» البقرة ۱۳۸ میں اور «ونحن له مخلصون» البقرة ۱۳۹ میں ہے۔ ۹۔ البقرة ۱۴۱

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ
حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۳۵﴾ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَ
الْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ
رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۶﴾ فَاِنْ
اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا
هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۳۷﴾ ؕ
صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ
عٰبِدُوْنَ ﴿۱۳۸﴾ قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ
اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ﴿۱۳۹﴾ ۙ اَمْ تَقُوْلُوْنَ
اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا
هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ اَظْلَمُ
مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۰﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ
مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۱﴾ ع ۱۶ ۱۶

۵۔ البقرۃ ۱۴۰، آل عمران ۸۴ اور النسآء ۱۶۳
۶۔ البقرۃ ۲۸۵ اور آل عمران ۸۴
۷۔ البقرۃ ۱۳۳، آل عمران ۸۴ اور العنکبوت ۴۶
۸۔ ضمیمہ ۵۵
۹۔ القصص ۵۵ اور الشوریٰ ۱۵
۱۰۔ البقرۃ ۱۳۶، آل عمران ۸۴ اور النسآء ۱۶۳ جبکہ یہاں «ط» کے زبر کیساتھ «وَالْاَسْبَاطَ» استعمال ہوا ہے۔
۱۱۔ البقرۃ ۱۱۱ اور ۱۳۵
۱۲۔ ضمیمہ ۴۱

۱۳۔ البقرۃ ۱۳۴

سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ
الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ۭ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۭ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٢﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۗءَ
عَلَي النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۭ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ
كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰي عَقِبَيْهِ ۭ
وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَي الَّذِيْنَ ھَدَى اللّٰهُ ۭ وَمَا كَانَ اللّٰهُ
لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٣﴾ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ
وَجْهِكَ فِي السَّمَاۗءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىھَا ۠ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۭ وَاِنَّ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾ وَلَىِٕنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا
قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۭ
وَلَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَھْوَاۗءَھُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا
لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٥﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰھُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ
اَبْنَاۗءَھُمْ ۭ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَھُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤٦﴾

۴۔ البقرة ۱۴۹ اور ۱۵۰
۵۔ البقرة ۱۵۰
۶۔ الانعام ۱۳۲ نیز ضمیمہ ۴۱
۷۔ البقرة ۱۲۰ ، آل عمران ۶۱ اور الرعد ۳۷
۸۔ البقرة ۱۲۱ اور الانعام ۲۰

١ـ آل عمران ٦٠ جبکه «فَلا تكونَن منَ الممتَرين» الانعام ١١٤ اور يونس ٩٤ ميں هے.

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١٤٧﴾ وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۗ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۗ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ۗ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٠﴾ كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۗ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿١٥٦﴾

ع ١٧ ـ ٦ وقف النبي صلى الله عليه وسلم

معانقة ٣ عند المتأخرين ١٢

ع ١٨ ـ ٥

٢ـ المائدة ٤٨
٣ـ ضميمه ١٥
٤ـ البقرة ١٤٤ اور ١٥٠
٥ـ ضميمه ٤١
٦ـ البقرة ١٤٤ اور ١٤٩
٧ـ البقرة ١٤٤
٨ـ النسآء ١٦٥
٩ـ العنكبوت ٤٦
١٠ـ المائدة ٣
١١ـ «وَلَعلكم» كيساته صرف يهيں نيز ضميمه ٣٣
١٢ـ البقرة ١٢٩، آل عمران

١٦٤ اور الجمعة ٢ ١٣ـ البقرة ٤٥ نيز ضميمه ٤٧ ١٤ـ الانفال ٤٦ ١٥ـ آل عمران ١٦٩
١٦ـ محمد ٣١ ١٧ـ النسآء ٦٢

صفحہ نمبر ٢٥ ١ـ البقرة ١٨٤ ٢ـ البقرة ١٧٤ ٣ـ ضميمه ٥٧ ٤ـ صرف يهيں جبكه «انت التّواب» كيساته البقرة ١٢٨ ميں هے. ٥ـ آل عمران ٩١ جبكه تفصيل ضميمه ٧ ميں هے. ٦ـ صرف يهيں جبكه «لعنة الله» (ة) كے زبر) كيساته آل عمران ٨٧ ميں هے. ٧ـ ضميمه ٥٨ ٨ـ البقرة ٨٦، آل عمران ٨٨ اور النحل ٨٥ ٩ـ «والهكم» كيساته صرف يهيں جبكه «فالهكم» كيساته الحج ٣٤ ميں اور «الهكم» كيساته النحل ٢٢، الكهف ١١٠، الانبيآء ١٠٨ اور حم السجدة ٦ ميں آيا هے. ١٠ـ ضميمه ٥٩ ١١ـ الحشر ٢٢ نيز الفاتحه ٣، النمل ٣٠ اور حم السجدة ٢

أُولَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ﴿١٥٧﴾
إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ
شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ
مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أُولَٰٓئِكَ يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَ
يَلۡعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ
فَأُولَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيۡهِمۡ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ أُولَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَةُ ٱللَّهِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ
وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ لَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابُ
وَلَا هُمۡ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾ وَإِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ
ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ
وَٱلنَّهَارِ وَٱلۡفُلۡكِ ٱلَّتِي تَجۡرِي فِي ٱلۡبَحۡرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ
أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٖ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا
وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٖ وَتَصۡرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ
ٱلۡمُسَخَّرِ بَيۡنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

١٢ـ آل عمران ١٩٠ ١٣ـ آل عمران ١٩٠، يونس ٦ اور الجاثية ٥ ١٤ـ صرف يهيں نيز ضميمه ١٨
١٥ـ النحل ٦٥ اور الجاثية ٥ ١٦ـ لقمان ١٠ نيز الشورى ٢٩ ١٧ـ صرف يهيں نيز الجاثية ٥
١٨ـ صرف يهيں جبكه «انّ فى ذلك» كيساته الرعد ٤، النحل ١٢ اور الروم ٢٤ ميں نيز النحل ٦٧

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ
اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا
اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
الْعَذَابِ ﴿۱۶۵﴾ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا
الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿۱۶۶﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ
اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ
اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿۱۶۷﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ
كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۶۸﴾ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ
تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۶۹﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ
اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ
اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۷۰﴾ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ
عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷۱﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ
مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۷۲﴾

ع ۲۰ / ۴

صفحہ نمبر ۲۶ ۱۔ ضمیمہ ۱۹ ۲۔ الشعرآء ۱۰۲ ۳۔ ضمیمہ ۱۶ ۴۔ المآئدة ۸۸، الانفال ۶۹ اور النحل ۱۱۴ ۵۔ البقرة ۲۰۸، الانعام ۱۴۲ اور النور ۲۱ ۶۔ ضمیمہ ۶۰ ۷۔ الاعراف ۳۳ ۸۔ لقمان ۲۱ نیز ضمیمہ ۱۱ ۹۔ المآئدة ۱۰۴ اور لقمان ۲۱ خیال رہے کہ یہاں «مَآ اَلْفَیْنَا» اور «یَعقِلُون» استعمال ہوا ہے۔ ۱۰۔ البقرة ۱۸ ۱۱۔ ضمیمہ ۴۷ ۱۲۔ النحل ۱۱۴ اور حم السحدة ۳۷

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیۡکُمُ الۡمَیۡتَۃَ وَ الدَّمَ وَ لَحۡمَ الۡخِنۡزِیۡرِ وَ مَاۤ اُہِلَّ بِہٖ
لِغَیۡرِ اللّٰہِ ۚ فَمَنِ اضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَاۤ اِثۡمَ عَلَیۡہِ ؕ اِنَّ اللّٰہَ
غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۱۷۳﴾ اِنَّ الَّذِیۡنَ یَکۡتُمُوۡنَ مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰہُ مِنَ الۡکِتٰبِ وَ
یَشۡتَرُوۡنَ بِہٖ ثَمَنًا قَلِیۡلًا ۙ اُولٰٓئِکَ مَا یَاۡکُلُوۡنَ فِیۡ بُطُوۡنِہِمۡ اِلَّا
النَّارَ وَ لَا یُکَلِّمُہُمُ اللّٰہُ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ وَ لَا یُزَکِّیۡہِمۡ ۚۖ وَ لَہُمۡ عَذَابٌ
اَلِیۡمٌ ﴿۱۷۴﴾ اُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ اشۡتَرَوُا الضَّلٰلَۃَ بِالۡہُدٰی وَ الۡعَذَابَ
بِالۡمَغۡفِرَۃِ ۚ فَمَاۤ اَصۡبَرَہُمۡ عَلَی النَّارِ ﴿۱۷۵﴾ ذٰلِکَ بِاَنَّ اللّٰہَ نَزَّلَ
الۡکِتٰبَ بِالۡحَقِّ ؕ وَ اِنَّ الَّذِیۡنَ اخۡتَلَفُوۡا فِی الۡکِتٰبِ لَفِیۡ شِقَاقٍۭ
بَعِیۡدٍ ﴿۱۷۶﴾ لَیۡسَ الۡبِرَّ اَنۡ تُوَلُّوۡا وُجُوۡہَکُمۡ قِبَلَ الۡمَشۡرِقِ وَ
الۡمَغۡرِبِ وَ لٰکِنَّ الۡبِرَّ مَنۡ اٰمَنَ بِاللّٰہِ وَ الۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَ الۡمَلٰٓئِکَۃِ
وَ الۡکِتٰبِ وَ النَّبِیّٖنَ ۚ وَ اٰتَی الۡمَالَ عَلٰی حُبِّہٖ ذَوِی الۡقُرۡبٰی
وَ الۡیَتٰمٰی وَ الۡمَسٰکِیۡنَ وَ ابۡنَ السَّبِیۡلِ ۙ وَ السَّآئِلِیۡنَ وَ فِی
الرِّقَابِ ۚ وَ اَقَامَ الصَّلٰوۃَ وَ اٰتَی الزَّکٰوۃَ ۚ وَ الۡمُوۡفُوۡنَ بِعَہۡدِہِمۡ
اِذَا عٰہَدُوۡا ۚ وَ الصّٰبِرِیۡنَ فِی الۡبَاۡسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِیۡنَ
الۡبَاۡسِ ؕ اُولٰٓئِکَ الَّذِیۡنَ صَدَقُوۡا ؕ وَ اُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡمُتَّقُوۡنَ ﴿۱۷۷﴾

۳۔ الانعام ۱٤٥ اور النحل ۱۱۵
٤۔ ضمیمہ ٦۱
٥۔ البقرۃ ۱٥۹
٦۔ ضمیمہ ۲۹
۷۔ آل عمران ۷۷
۸۔ ضمیمہ ۱۰
۹۔ البقرۃ ۱٦ نیز ضمیمہ ۱۳
۱۰۔ الحج ٥۳ اور حم السجدۃ ٥۲
۱۱۔ ضمیمہ ۳۷
۱۲۔ البقرۃ ۲۱٥ ، الانفال ٤۱ اور الحشر ۷
۱۳۔ التوبۃ ۱۸
۱٤۔ ضمیمہ ۱۳
۱٥۔ «و» کی کمی کیساتھ الزمر ۳۳ میں ہے۔

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۸﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۹﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖۚ ۨالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۸۰﴾ فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۸۱﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۸۲﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۳﴾ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۴﴾

ع ۲۲ / ۶

جبکہ «اَحَدَ هُمُ الموتُ» النسآء ۱۸ میں ہے۔
۵۔ البقرۃ ۲۳۶ اور ۲۴۱
۶۔ الانفال ۱۷ و الحجرات ۱ نیز ضمیمہ ۷۵
۷۔ ضمیمہ ۶۱
۸۔ ضمیمہ ۴۷
۹۔ ضمیمہ ۱۷
۱۰۔ البقرۃ ۲۰۳ اور آل عمران ۲۴ جبکہ «مَعدُودَة» البقرۃ ۸۰ میں ہے۔
۱۱۔ البقرۃ ۱۸۵ اور ۱۹۶
۱۲۔ البقرۃ ۱۸۵
۱۳۔ البقرۃ ۱۵۸
۱۴۔ البقرۃ ۲۸۰ اور النحل ۹۵ نیز ضمیمہ ۶۲

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيٓ اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ
بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ
يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۵﴾ وَاِذَا
سَاَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ ۖ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا
دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۸٦﴾
اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ
لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪
ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ
عٰكِفُونَ ۙ فِي الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۷﴾

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾ وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾

ع ۲۳ / ۷

٤۔ المآئدة ۸۷
٥۔ النسآء ۸۹ و ۹۱ اور التوبة ٥
٦۔ البقرة ۲۱۷
۷۔ البقرة ۱۹۳ نیز ضمیمہ ٦٦
۸۔ الانفال ۳۹
۹۔ البقرة ۱۹۲ اور الانفال ۳۹

۱۔ التوبۃ ۳٦ اور ۱۲۳ نیز ضمیمہ ٦٤ و ٦٧ ۲۔ المآئدۃ ۱۳ ۳۔ یہاں اس آیت میں پہلی بار.

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ
اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۠
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۹۴﴾ وَاَنْفِقُوْا فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛۚ وَاَحْسِنُوْا ۛۚ اِنَّ
اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۹۵﴾ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ
اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ
حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى
مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ۥ
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ
لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ
عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۱۹۶﴾ اَلْحَجُّ
اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ
وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَ
تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿۱۹۷﴾

٤۔ البقرۃ ١٨٤ اور ١٨٥
٥۔ البقرۃ ٢٣٩
مع - عند المتقدمین
٦۔ یہاں اس آیت میں مکرر.
٧۔ النسآء ٩٢، المآئدۃ ٨٩ و المجادلۃ ٤
٨۔ المآئدۃ ٩٨ اور الانفال ٢٥ نیز ضمیمہ ٦٤ اور ٦٧
٩۔ البقرۃ ٢١٥ اور النسآء ١٢٧
ع ٢٤ ٨ ٨
وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ النور ۲۹ و ۶۱ جبکہ «وَلیسَ» کیساتھ الاحزاب ۵ میں اور «لیسَ علیکم وَلا عَلیھم جُنَاح» النور ۵۸ میں ہے۔
۲۔ النور ۶۲، الممتحنۃ ۱۲ و المزمل ۲۰
۳۔ ضمیمہ ۶۱
۴۔ البقرۃ ۲۰۱ اور الکھف ۱۰
۵۔ البقرۃ ۱۰۲
۶۔ البقرۃ ۲۰۰ اور الکھف ۱۰
۷۔ النور ۳۹
۸۔ البقرۃ ۱۸۴ اور آل عمران ۲۴ جبکہ «مَعدُودَۃ» البقرۃ ۸۰ میں ہے۔
۹۔ البقرۃ ۲۲۳ نیز ضمیمہ ۶۴ اور ۶۷

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿۱۹۸﴾ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۹﴾ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿۲۰۰﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۲۰۲﴾ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۰۳﴾

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿۲۰۴﴾ وَ
اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ
وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿۲۰۵﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ
اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ
الْمِهَادُ ﴿۲۰۶﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ
مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۲۰۷﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ
الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۲۰۸﴾ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ
بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ ﴿۲۰۹﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ
ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ؕ
وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۲۱۰﴾ سَلْ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ
اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ
مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱۱﴾

٤۔ ضمیمه ٤٧
٥۔ البقرة ١٦٨، الانعام ١٤٢ اور النور ٢١
٦۔ ضمیمه ٦٠
٧۔ البقرة ٢٦٠ نیز ضمیمه ٧٦
٨۔ ضمیمه ٦٨
٩۔ ضمیمه ٦٩
١٠۔ الانفال ١٣ اور الحشر ٤

٢٥ ع ٤ ٩

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ
مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾ كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۫ فَ
فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا
فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا
جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ
الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ
قَرِيْبٌ ﴿٢١٤﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ
خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ
السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾

وقف لازم

اور النسآء ١٥٣ نیز آل عمران ١٠٥
٤ ـ آل عمران ١٩ ، الشوریٰ ١٤ اور الجاثیة ١٧
٥ ـ البقرة ١٤٢ ، یونس ٢٥ و النور ٤٦ اور ضمیمه ٥٦
٦ ـ آل عمران ١٤٢ اور التوبة ١٦
٧ ـ یونس ١٠٢
٨ ـ البقرة ٢١٩
٩ ـ البقرة ١٧٧ ، الانفال ٤١ اور الحشر ٧
١٠ ـ البقرة ١٩٧ اور النسآء ١٢٧
١١ ـ البقرة ٢٧٣ اور آل عمران ٩٢

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا

وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ

يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ

قِتَالٍ فِيْهِ ۗ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۗ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ

كُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ

اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ

حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ

مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ

اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ

هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢١٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا

وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۗ

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ

قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ

مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ەۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾ ۙ

ع ۲٦ ۱۰

۲۔ البقرة ۱۹۱
۳۔ آل عمران ۲۲، التوبة ۱۷ اور ٦۹ نیز ضمیمہ ۷۰
٤۔ آل عمران ۱۱٦ اور الرعد ٥ نیز ضمیمہ ۲۷
٥۔ ضمیمہ ۲۸
٦۔ الانفال ۷۲، ۷٤ و ۷٥، التوبة ۲۰ اور الحجرات ۱٥
۷۔ ضمیمہ ۷۱
۸۔ البقرة ۲۱٥
۹۔ البقرة ۲٦٦ نیز ضمیمہ ۷۲

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

ع ۲۷ ۱۱

کیساتھ
الانفال ٦۳ میں نیز ضمیمہ ۷٦
٤۔ ابراهیم ۲۵ نیز ضمیمہ ۷۳
۵۔ التوبة ۱۰۸
٦۔ البقرة ۲۰۳ نیز ضمیمہ ٦٤ و ٦۷
۷۔ ضمیمہ ۷٤
۸۔ ضمیمہ ۷۵

لَا یُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِیْٓ اَیْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ یُّؤَاخِذُكُمْ
بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِیْمٌ ۝۲۲۵ لِلَّذِیْنَ یُؤْلُوْنَ
مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝۲۲۶ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ
عَلِیْمٌ ۝۲۲۷ وَالْمُطَلَّقٰتُ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا
یَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ یَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِیْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ
یُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِیْ
ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْهِنَّ
بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ
حَكِیْمٌ ۝۲۲۸ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ
تَسْرِیْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا یَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ
اٰتَیْتُمُوْهُنَّ شَیْئًا اِلَّآ اَنْ یَّخَافَآ اَلَّا یُقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ
فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا یُقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا
فِیْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ
وَمَنْ یَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝۲۲۹

۴۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۷۵
۵۔ البقرة ۲۴۱
۶۔ البقرة ۲۳۴
۷۔ ضمیمہ ۳۷
۸۔ ضمیمہ ۷۶
۹۔ النسآء ۱۹
۱۰۔ البقرة ۱۸۷ اور النسآء ۱۳
۱۱۔ الطلاق ۱
۱۲۔ ضمیمہ ۷۷

ع ۲۸ ۷ ۱۲

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ
لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

ع ۲۹ / ۱۳

٤۔ البقرة ۲۳۲
٥۔ الطلاق ۲
٦۔ الطلاق ۱
۷۔ آل عمران ۱۰۳ اور المائدة ۷ نیز ضمیمہ ۷۸
۸۔ ضمیمہ ٦٤ اور ٦۷
۹۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۹٤
۱۰۔ البقرة ۲۳۱
۱۱۔ الطلاق ۲
۱۲۔ ضمیمہ ۳۷
۱۳۔ البقرة ۲۱٦، آل عمران ٦٦ اور النور ۱۹ جبکہ «إِنَّ اللَّهَ» کیساتھ النحل ۷٤ میں ہے۔

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ
يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ
لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ق وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ
تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۳۳﴾
وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ
اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۲۳٤﴾
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ
فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ
سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ؕ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ
حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ
اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۳۵﴾

(الف) کا خیال رکھیے چھوٹ نہ جائے۔
۳۔ ضمیمہ ٦٤ اور ٦۷
٤۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۱۱۰ اور ۲۳۷
۵۔ البقرۃ ۲٤۰
٦۔ البقرۃ ۲۲۸
۷۔ البقرۃ ۲٤۰
۸۔ ضمیمہ ۷۹
۹۔ البقرۃ ۲۳٦
۱۰۔ البقرۃ ۱۸۷
۱۱۔ النسآء ۵ و ۸ اور الاحزاب ۳۲

ع ۳۰ ۱٤

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾

ع ۳۱ / ۷ / ۱۵

۵۔ البقرۃ ۲۳۶
۶۔ البقرۃ ۱۱۰ حبکہ «اَنّ اللّٰہ» کیساتھ البقرۃ ۲۳۳ میں نیز ضمیمہ ۹۱
۷۔ البقرۃ ۱۹۶
۸۔ البقرۃ ۲۳۴
۹۔ البقرۃ ۲۳۴
۱۰۔ ضمیمہ ۷۶
۱۱۔ البقرۃ ۲۲۸
۱۲۔ البقرۃ ۲۳۶
۱۳۔ البقرۃ ۱۸۰ اور ۲۳۶
۱۴۔ النور ۵۹ و ۶۱ نیز ضمیمہ ۷۲ اور ۴۰

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ
فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى
النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ
قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ
وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٥﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ
مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ
قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ
دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا
مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٤٦﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ
قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ
عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ
قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَ
الْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٧﴾

٤۔ البقرة ١٩٠
٥۔ الانفال ٥٣ نیز ضمیمه ٧٥
٦۔ الحدید ١١
٧۔ ضمیمه ٨٢
٨۔ ضمیمه ٨٠
٩۔ النسآء ٧٧
١٠۔ البقرة ٩٥، التوبة ٤٧ اور الجمعة ٧ جگه «أعلم» الانعام ٥٨ میں استعمال هوا هے۔
١١۔ البقرة ٢٤٨
١٢۔ ضمیمه ٨٣

۱۔ خیال سے پڑھیے یہاں «اِنَّ آيَة ملكه» آیا ہے جبکہ «اِنَّ الله» کیساتھ البقرة ۲۴۷ میں ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۴۸﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّىْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۲۴۹﴾ وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۵۰﴾ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۵۱﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۵۲﴾

ع ۳۲ / ۱۶

۲۔ آل عمران ۴۹ نیز ضمیمہ ۲۲۴ اور ۴۵

۳۔ البقرة ۲۱۴ و ۲۴۹، التوبة ۸۸، ہود ۵۸، ۶۶ و ۹۴ اور التحریم ۸ جبکہ (و) کے بغیر المؤمن ۲۵ میں آیا ہے۔

۴۔ صرف یہیں جبکہ «قَالَ» کے بغیر اور «ملاقوا ربّهم» کیساتھ البقرة ۴۶ میں ہے۔

۵۔ الانفال ۶۶ جبکہ «انّ الله» کیساتھ البقرة ۱۵۳ اور الانفال ۴۶ میں نیز «والله يحبّ الصّابرين» آل عمران ۱۴۶ میں ہے۔

۶۔ الاعراف ۱۲۶

۷۔ آل عمران ۱۴۷ جبکہ «فانصرنا على القوم» البقرة ۲۸۶ میں ہے۔

۸۔ «لفسدت الارض» کیساتھ صرف یہیں جبکہ «لهُدّمت صوامع» کیساتھ الحج ۴۰ میں۔

۹۔ صرف یہیں آل عمران ۱۵۲ و ۱۷۴ اور ضمیمہ ۴۸

۱۰۔ آل عمران ۱۰۸ و الجاثية ۶

۱۱۔ صرف یہیں جبکہ (و) کے بغیر دیکھیے یس ۳

۱۔ النسآء ۳۴ اور الاسرآء ۲۱ نیز ضمیمہ ۲۰۴
۲۔ البقرۃ ۸۷ جبکہ «بروح القدس» المآئدۃ ۱۱۰ میں اور «روح القدس» النحل ۱۰۲ میں ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ
مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ
مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا
فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۟
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿۲۵۳﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا
رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا
شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۵۴﴾ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ
الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا
شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿۲۵۵﴾ لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ۟ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۵۶﴾

ع ۱

۳۔ یہاں اس آیت میں پہلی بار نیز ضمیمہ ۱۴
۴۔ البقرۃ ۲۱۳ اور النسآء ۳۳ ۱۵۳ نیز آل عمران ۱۰۵
۵۔ النسآء ۵۵
۶۔ یہاں اس آیت میں مکرر نیز ضمیمہ ۱۴
۷۔ البقرۃ ۲۶۷ نیز ضمیمہ ۴۷
۸۔ ابراھیم ۳۱، الروم ۴۳ اور الشوریٰ ۴۷
۹۔ ضمیمہ ۸۴ اور ۵۹
۱۰۔ آل عمران ۲
۱۱۔ ضمیمہ ۸۵ اور ۸۶

۱۲۔ ضمیمہ ۸۷ ۱۳۔ الشوریٰ ۴ ۱۴۔ لقمان ۲۲ ۱۵۔ ضمیمہ ۷۵

١۔ ضمیمہ ٨٨ ٢۔ ضمیمہ ٢٥ ٣۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ٨٨ ٤۔ ضمیمہ ٢٧

اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ
وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِیٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ
اِلَی الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾
اَلَمْ تَرَ اِلَی الَّذِیْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِیْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ
الْمُلْكَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّیَ الَّذِیْ یُحْیٖ وَیُمِیْتُ قَالَ اَنَا
اُحْیٖ وَاُمِیْتُ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ یَاْتِیْ بِالشَّمْسِ مِنَ
الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِیْ كَفَرَ وَاللّٰهُ
لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿٢٥٨﴾ اَوْ كَالَّذِیْ مَرَّ عَلٰی قَرْیَةٍ وَّ
هِیَ خَاوِیَةٌ عَلٰی عُرُوْشِهَا قَالَ اَنّٰی یُحْیٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ
قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ
عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰی طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ
اِلٰی حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰیَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَی
الْعِظَامِ كَیْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَیَّنَ
لَهٗ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿٢٥٩﴾

٥۔ ضمیمہ ٢٨
٦۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ٨١
٧۔ ضمیمہ ٨٩
٨۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ٨٩
٩۔ ضمیمہ ٩٠
١٠۔ الکہف ٤٢ اور الحج ٤٥
١١۔ الکہف ١٩ اور المؤمنون ١١٣
١٢۔ التوبة ١١٤
١٣۔ البقرة ١٠٦ اور الطلاق ١٢ نیز ضمیمہ ١٥

صفحہ نمبر ۴۵   ۱۔ صرف یہیں نیز الاعراف ۱۴۳ ، البقرۃ ۱۲۶ ، الانعام ۷۴ ، ابراھیم ۳۵ و الزخرف ۲۶ اور البقرۃ ۲۵۸   ۲۔ صرف یہیں نیز سبا ۳ و التغابن ۷ ، الانعام ۳۰ ، الاعراف ۱۷۲ ، الزمر ۷۱ ، المؤمن ۵۰ ، الاحقاف ۳۴ ، الحدید ۱۴ اور الملک ۹   ۳۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۲۰۹ اور ضمیمہ ۷۶   ۴۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۲۶۲ ، ۲۶۵ اور ۲۷۴   ۵۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۸۳ اور ۷۵   ۶۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۲۶۱ ، ۲۶۵ اور ۲۷۴   ۷۔ البقرۃ ۲۷۷ اور آل عمران ۱۹۹ نیز البقرۃ ۶۲ و ۲۷۴ ، البقرۃ ۱۱۲ اور الحدید ۱۹   ۸۔ ضمیمہ ۳۸   ۹۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۲۲۵ و المائدۃ ۱۰۱ اور النسآء ۱۲   ۱۰۔ ضمیمہ ۴۷   ۱۱۔ صرف یہیں نیز النسآء ۳۸ ، التوبۃ ۲۹ و ۴۵ اور ضمیمہ ۳۷

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦٠﴾ ع ۳۵ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٦٢﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ ﴿٢٦٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦٤﴾

۱۲۔ صرف یہیں نیز الاعراف ۱۷۶   ۱۳۔ صرف یہیں نیز ابراھیم ۱۸ میں «ممّا کسبوا علی شیء» ہے۔
۱۴۔ التوبۃ ۳۷ نیز المائدۃ ۶۷ ، النحل ۱۰۷ ، المائدۃ ۱۰۸ ، التوبۃ ۲۴ و ۸۰ ، الصف ۵ و المنافقون ۶ ، یوسف ۵۲ ، الزمر ۳ و المؤمن ۲۸ اور ضمیمہ ۹۰

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ
وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ
فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٥﴾ اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ
نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ
الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ فَاَصَابَهَآ
اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ
الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢٦٦﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ
طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ
اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾
اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ
يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۖۙ ﴿٢٦٨﴾
يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ
اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

ع ٣٦ ٦ ٤

٤۔ ضمیمہ ٢١
٥۔ الاعراف ٥٧ ، النحل ٦٩ اور محمد ١٥
٦۔ البقرۃ ٢١٩ نیز ضمیمہ ٧٢
٧۔ البقرۃ ٢٥٤ نیز ضمیمہ ٤٧
٨۔ ضمیمہ ٨٣
٩۔ خیال سے پڑھیے۔
١٠۔ آل عمران ٧

١۔ آل عمران ١٩٢ اور المآئدة ٧٢ جبکه «وما للظّٰلمين من نّصير» الحج ٧١ ميں اور «فما للظّٰلمين من نّصير» فاطر ٣٧ ميں هے۔ ٢۔ الانفال ١٩ اور التوبة ٣ جبکه «وهو خيرلكم» البقرة ٢١٦ ميں، «هو خير لّكم» النحل ٩٥ ميں اور «فهو خير لّه» البقرة ١٨٤ ميں آيا هے۔ ٣۔ صرف يهيں نيز الانفال ٢٩ ، الفتح ٥ اور التحريم ٨

وَمَآ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ نَّفَقَةٍ اَوۡ نَذَرۡتُمۡ مِّنۡ نَّذۡرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُهٗ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ اِنۡ تُبۡدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۚ وَاِنۡ تُخۡفُوۡهَا وَ تُؤۡتُوۡهَا الۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنۡكُمۡ مِّنۡ سَيِّاٰتِكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ ﴿٢٧١﴾ لَيۡسَ عَلَيۡكَ هُدٰٮهُمۡ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ فَلِاَنۡفُسِكُمۡ ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡنَ اِلَّا ابۡتِغَآءَ وَجۡهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ يُّوَفَّ اِلَيۡكُمۡ وَاَنۡتُمۡ لَا تُظۡلَمُوۡنَ ﴿٢٧٢﴾ لِلۡفُقَرَآءِ الَّذِيۡنَ اُحۡصِرُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ ضَرۡبًا فِى الۡاَرۡضِ يَحۡسَبُهُمُ الۡجَاهِلُ اَغۡنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعۡرِفُهُمۡ بِسِيۡمٰهُمۡ ۚ لَا يَسۡـَٔلُوۡنَ النَّاسَ اِلۡحَافًا ؕ وَمَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَيۡرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيۡمٌ ﴿٢٧٣﴾ اَلَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ بِالَّيۡلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ۚ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ ﴿٢٧٤﴾

٤۔ ضميمه ٧٩
٥۔ القصص ٥٦ جبكه «والله يهدى» كيساته البقرة ٢١٣ اور النور ٤٦ ميں آيا هے۔
٦۔ اس آيت ميں مزيد ايك بار نيز البقرة ٢٧٣
٧۔ اس آيت ميں مكرّر نيز البقرة ٢٧٣
٨۔ الانفال ٦٠
٩۔ صرف يهيں جبكه «للفقرآء المهاجرين» الحشر ٨ ميں آيا هے۔
١٠۔ صرف يهيں نيز الاعراف ٤٦ اور ٤٨
١١۔ البقرة ٢٧٢ ميں دو بار۔

ع ٣٧ ٥

١٢۔ البقرة ٢١٥ اور آل عمران ٩٢
١٣۔ صرف يهيں نيز البقرة ٢٦١ ، ٢٦٢ اور ٢٦٥
١٤۔ الرعد ٢٢ ، ابراهيم ٣١ اور فاطر ٢٩
١٥۔ البقرة ٦٢ نيز البقرة ٢٦٢
١٦۔ ضميمه ٣٨

۱۔ آل عمران ۲۴ و ۷۵ اور محمد ۲۶ ۲۔ صرف یہیں نیز المآئدۃ ۹۵ ۳۔ البقرۃ ۸۱ نیز ضمیمہ ۲۷

اَلَّذِیْنَ یَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا یَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا یَقُوْمُ الَّذِیْ
یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَیْعُ
مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ
مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰی فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَ اَمْرُهٗۤ اِلَی اللّٰهِ ؕ
وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۷۵﴾
یَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ یُرْبِی الصَّدَقٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا یُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ اَثِیْمٍ ﴿۲۷۶﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا
خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ﴿۲۷۷﴾ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا
اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبٰۤوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۲۷۸﴾ فَاِنْ
لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ۚ وَ اِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۲۷۹﴾ وَ اِنْ
كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰی مَیْسَرَةٍ ؕ وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَیْرٌ
لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸۰﴾ وَ اتَّقُوْا یَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِیْهِ
اِلَی اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰی كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ﴿۲۸۱﴾ ع

وقف لازم

ع ۳۸ ۸ ۶

۴۔ ضمیمہ ۲۸
۵۔ صرف یہیں نیز الحدید ۲۳، البقرۃ ۲۰۵، آل عمران ۵۷ و ۱۴۰ اور المآئدۃ ۶۴
۶۔ ضمیمہ ۹۲
۷۔ التوبۃ ۵ اور ۱۱ جبکہ الحج ۴۱ میں (و) کے بغیر نیز ضمیمہ ۳۰
۸۔ البقرۃ ۲۶۲
۹۔ ضمیمہ ۳۸
۱۰۔ ضمیمہ ۴۷ و ۹۳
۱۱۔ ضمیمہ ۴۵
۱۲۔ البقرۃ ۲۴ نیز المجادلۃ ۱۳، البقرۃ ۲۸۲، الاحزاب ۶ اور المآئدۃ ۶۷
۱۳۔ صرف یہیں نیز التوبۃ ۳

۱۴۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۲۷۲ و الانفال ۶۰ اور النساء ۷۷ ۱۵۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۱۸۴، النحل ۹۵ اور ضمیمہ ۶۲ ۱۶۔ آل عمران ۱۶۱ نیز آل عمران ۲۵، النحل ۱۱۱ اور الجاثیۃ ۲۲

جبکہ «علیھنّ» کیساتھ دیکھیے النور ۶۰
۶۔ ضمیمہ ۶۴
۷۔ ضمیمہ ۹۴

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ
يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْــًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ
لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ
وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْــَٔمُوْۤا اَنْ تَكْتُبُوْهُ
صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰۤى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰۤى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا
تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْۤا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ
وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَ
اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۲﴾

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ
اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ
رَبَّهٗ ؕ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَ
اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿۲۸۳﴾ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ
وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ
فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ
شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۸۴﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ
الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا
وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ
اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟
اَنْتَ مَوْلٰٮنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

ع ۳۹ / ۷ — ع ۴۰ / ۸

۵۔ ضمیمہ ۹۶
۶۔ البقرۃ ۹۸ اور النسآء ۱۳۶
۷۔ البقرۃ ۱۳۶ اور آل عمران ۸۴
۸۔ المآئدۃ ۷ اور النور ۵۱ نیز البقرۃ ۹۳ اور النسآء ۴۶
۹۔ الممتحنۃ ۴
۱۰۔ البقرۃ ۲۳۳ ، الانعام ۱۵۲ ، الاعراف ۴۲ ، المومنون ۶۲ اور الطلاق ۷
۱۱۔ یہاں اس آیت میں پہلی بار۔
۱۲۔ یہاں اس آیت میں مکرّر۔
۱۳۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۲۵۰ اور آل عمران ۱۴۷

۱۔ ضمیمہ ۳ ۲۔ ضمیمہ ۸۴ و ۵۹ ۳۔ البقرة ۲۵۵ نیز طه ۱۱۱ ٤۔ البقرة ۹۷ ، المآئدة ٤٦ و ٤٨ ، فاطر ۳۱ اور الاحقاف ۳۰ جہکه المآئدة ٤٦ کے دوسرے موقع میں (و) زائد ہے.

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ مِائَتَا اٰيَةٍ وَّعِشْرُوْنَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓ ① اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ② نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ③
مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۝ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ④
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ⑤
هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۝ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑥ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ
اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۝ فَاَمَّا الَّذِيْنَ
فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ
فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ
اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ⑦ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ⑧

۵۔ ضمیمہ ۷
٦۔ فاطر ۷ و ۱۰ ، ص ۲٦ اور الشورٰی ۲٦ نیز الشوری ۱٦ میں (و) کیساتھ ہے.
۷۔ المآئدة ۹۵ نیز ابراهیم ٤۷ اور الزمر ۳۷
۸۔ صرف یہیں نیز یونس ۲۲ ، الرعد ۱۲ و المؤمن ۱۳ ، الشورٰی ۲۸ اور الحدید ۹

۹۔ آل عمران ۱۸ نیز ضمیمه ۵۹ ۱۰۔ صرف یہیں نیز الانعام ۹۹ و النحل ۱۰ ، الانعام ۱۱٤ اور الفتح ٤
۱۱۔ البقرة ۲٦۹ نیز الرعد ۱۹ و الزمر ۹ ، ابراهیم ۵۲ اور ص ۲۹ ۱۲۔ ص ۳۵

صفحہ نمبر ۵۲۔ ١۔ صرف یہیں نیز آل عمران ٢٥ اور ضمیمه ٤ ٢۔ الرعد ٣١ نیز آل عمران ١٩٤ اور الزمر ٢٠
٣۔ آل عمران ١١٦ نیز المجادلة ١٧ اور ضمیمه ٧
٤۔ خیال سے پڑھیے «هم وقود النّار» کیساتھ صرف یہیں نیز آل عمران ١١٦ اور ضمیمه ٢٧
٥۔ صرف یہیں نیز الانفال ٥٢ اور ٥٤
٦۔ الانفال ٥٢ اور المومن ٢١ نیز الانعام ٦ اور الانفال ٥٤
٧۔ الانفال ٤٨ نیز المائدة ٢
٨۔ الانفال ٣٨ نیز الجاثية ١٤
٩۔ آل عمران ١٩٧ و الرعد ١٨ نیز صٓ ٥٦ اور البقرة ٢٠٦

رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ
الْمِيْعَادَ ۝٩ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ
اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ۝١٠ كَدَاْبِ
اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ
اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝١١ قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝١٢ قَدْ كَانَ
لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى
كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ
مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ۝١٣ زُيِّنَ
لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ
الْمَاٰبِ ۝١٤ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ
رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ ۢ بِالْعِبَادِ ۝١٥

١٠۔ النور ٤٤ نیز النازعات ٢٦ اور قٓ ٣٧ ١١۔ التوبة ٣٨ ١٢۔ صرف یہیں جبکہ «والله عنده حُسنُ الثواب» آل عمران ١٩٥ میں ہے۔ ١٣۔ خیال سے پڑھیے نیز آل عمران ١٩٨ اور ضمیمه ٢١ ١٤۔ ضمیمه ٥٨ ١٥۔ صرف یہیں نیز البقرة ٢٥ اور النساء ٥٧ ١٦۔ التوبة ٧٢ ١٧۔ آل عمران ٢٠ نیز المؤمن ٤٤

اَلَّذِیْنَ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ اَلصّٰبِرِیْنَ وَالصّٰدِقِیْنَ وَالْقٰنِتِیْنَ وَالْمُنْفِقِیْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِیْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿١٨﴾ اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًۢا بَیْنَهُمْ وَمَنْ یَّكْفُرْ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾ فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِیَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِّلَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّیّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلٰغُ وَاللّٰهُ بَصِیْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ یَكْفُرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ وَیَقْتُلُوْنَ النَّبِیّٖنَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَّیَقْتُلُوْنَ الَّذِیْنَ یَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ﴿٢١﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِیْنَ ﴿٢٢﴾

٤۔ یونس ۹۳، الشورٰی ۱٤ اور الجاثیة ۱۷
٥- البقرة ۲۱۳، الشورٰی ۱٤ اور الجاثیة ۱۷
٦۔ صرف یہیں۔
۷۔ الرعد ٤۰ اور النحل ۸۲
۸۔ آل عمران ۱۵ جبکہ «اِنّ اللّٰہ» المؤمن ٤٤ میں ہے۔
۹۔ النسآء ۱۵۰
۱۰۔ البقرة ٦۱ اور آل عمران ۱۱۲
۱۱۔ التوبة ۳٤ اور الانشقاق ۲٤
۱۲۔ البقرة ۲۱۷، التوبة ۱۷ اور ٦۹ نیز ضمیمہ ۱۳ اور ۷۰
۱۳۔ ضمیمہ ۹۷

صفحہ نمبر ۵۴۔ ۱۔ صرف یہیں نیز النسآء ٤٤ و النسآء ٥١ اور ضمیمہ ٨١ ۲۔ النور ٤٨ و ٥١ نیز النحل ١٢٤ ، البقرة ١١٣ ، الحج ٥٦ و الزمر ٣ ، النسآء ١٤١ ، الحج ٦٩ اور الممتحنة ١٠ ٣۔ صرف یہیں نیز النور ٤٧ ، الانفال ٢٣ و التوبة ٧٦ ، الانبیآء ٢٤ ، الانبیآء ١ اور النور ٤٨ ٤۔ البقرہ ٢٧٥ ، آل عمران ٧٥ اور محمد ٢٦

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ وَّغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾

٥۔ صرف یہیں نیز البقرة ٨٠ ، ١٨٤ اور ٢٠٣
٦۔ صرف یہیں نیز آل عمران ٩ اور ضمیمہ ٤
٧۔ صرف یہیں نیز الزمر ٧٠ اور البقرة ٢٨١
٨۔ صرف یہیں نیز الزمر ٤٦
٩۔ التحریم ٨ نیز ضمیمہ ١٥
١٠۔ صرف یہیں نیز الحج ٦١ ، لقمان ٢٩ ، فاطر ١٣ و الحدید ٦
١١۔ صرف یہیں نیز الانعام ٩٥ ، یونس ٣١ اور الروم ١٩
١٢۔ صرف یہیں نیز البقرة ٢١٢ و النور ٣٨ اور آل عمران ٣٧

١٣۔ صرف یہیں نیز النسآء ١٣٩ اور ١٤٤ ١٤۔ البقرة ٢٣١ ، النسآء ٣٠ و ١١٤ ، الفرقان ٦٨ اور المنافقون ٩ ١٥۔ آل عمران ٣٠ ١٦۔ النور ٤٢ اور فاطر ١٨ نیز تفصیلی معلومات ق ٤٣ میں۔ ١٧۔ البقرة ١٩٧ نیز «فإنّ اللّٰه يعلمه» البقرة ٢٧٠ میں ہے۔ ١٨۔ ضمیمہ ٨٦ ١٩۔ ضمیمہ ٩٦

نیز «یغفرلکم» الصف ۱۲ میں ھے۔

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ
سُوٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًاۢ بَعِيْدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ
نَفْسَهٗ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۳۰﴾ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ
يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۱﴾ قُلْ
اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۲﴾
اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى
الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۳﴾ ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۳۴﴾
اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ
مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا
قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۗ وَ
لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا
بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿۳۶﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ
حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا
زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۗ
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾

۵۔ ضمیمہ ۷۱
٦۔ آل عمران ۱۳۲
۷۔ ضمیمہ ۷۵
۸۔ البقرة ۱۲۷
۹۔ النحل ۹۸
۱۰۔ البقرة ۲۱۲ اور النور ۳۸

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ
يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا ۢ بِكَلِمَةٍ
مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ
اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ
كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ
اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ
كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٤١﴾ وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ
يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى
نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ
مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا
كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا
كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ
اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ
مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٥﴾

ع ١١/١٢

٦۔ المؤمن ٥٥
٧۔ آل عمران ٤٥
٨۔ هود ٤٩ اور یوسف ١٠٢
٩۔ یوسف ١٠٢
١٠۔ آل عمران ٤٢
١١۔ آل عمران ٣٩
١٢۔ ضمیمه ٧٠

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ
رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ
يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٧﴾
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُوْلًا اِلٰى
بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ڏ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ
لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْــــَٔــةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًۢا بِاِذْنِ
اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ
اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ
بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۣ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٥٠﴾ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوْهُ ۭ ھٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٥١﴾ فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْھُمُ
الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ
اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَآ اٰمَنَّا
بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٥٣﴾

٤۔ المائدۃ ١١٠
٥۔ آل عمران ٥٠ اور الاعراف ١٠٥
٦۔ المائدۃ ١١٠
٧۔ البقرۃ ٢٤٨ نیز ضمیمہ ٢٢٤ اور ٤٥
٨۔ الصف ٦
٩۔ آل عمران ٤٩ اور الاعراف ١٠٥
١٠۔ ضمیمہ ٩٨ اور ٩٩
١١۔ مریم ٣٦ اور الزخرف ٦٤
١٢۔ ضمیمہ ١٠٠
١٣۔ خیال سے پڑھیے یہاں «فاختلف الاحزابُ» استعمال نہیں ہوا ھے نیز مریم ٣٧ اور الزخرف ٦٥
١٤۔ الصف ١٤
١٥۔ آل عمران ٦٤ اور المائدۃ ١١١

صفحہ نمبر ۵۸ ۱۔ الانفال ۳۰ ۲۔ خیال رہے کہ ابتداء میں (و) نہیں ہے۔ ۳۔ العنکبوت ۸ اور لقمان ۱۵

ع ۵ / ۱۳

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿۵۴﴾ اِذْ قَالَ اللّٰهُ
يٰعِيْسٰۤى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ
فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۵۵﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۵۶﴾ وَاَمَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ وَ
اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۷﴾ ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَ
الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿۵۸﴾ اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ
مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۵۹﴾ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا
تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿۶۰﴾ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا
جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَ
نِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ۟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ
لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿۶۱﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا
مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۶۲﴾

۴۔ الحج ۶۹
۵۔ صرف یہیں نیز «وَامَّا» البقرۃ ۲۶، الروم ۱۶ اور الجاثیۃ ۳۱ میں ہے۔
۶۔ ضمیمہ ۱۰۱
۷۔ ضمیمہ ۷۰
۸۔ ضمیمہ ۹۷
۹۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۴۲ اور ۹۲
۱۰۔ النسآء ۱۷۳ اور فاطر ۳۰ نیز صرف «اُجُورَهُم» النسآء ۱۵۲ میں ہے۔
۱۱۔ آل عمران ۱۴۰
۱۲۔ البقرۃ ۱۴۷
۱۳۔ البقرۃ ۱۲۰ و ۱۴۵ اور الرعد ۳۷

۱۴۔ (تَ) پر زبر استعمال ہوا ہے خیال سے پڑھیے۔ ۱۵۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۹۳

فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌۢ بِالۡمُفۡسِدِيۡنَ ﴿٦٣﴾ قُلۡ يٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ تَعَالَوۡا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ اَلَّا نَعۡبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهٖ شَيۡـئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا اَرۡبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ‌ؕ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَقُوۡلُوا اشۡهَدُوۡا بِاَنَّا مُسۡلِمُوۡنَ ﴿٦٤﴾ يٰۤـاَهۡلَ الۡكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوۡنَ فِىۡۤ اِبۡرٰهِيۡمَ وَمَاۤ اُنۡزِلَتِ التَّوۡرٰٮةُ وَالۡاِنۡجِيۡلُ اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِهٖ‌ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ ﴿٦٥﴾ هٰۤاَنۡتُمۡ هٰٓؤُلَاۤءِ حَاجَجۡتُمۡ فِيۡمَا لَـكُمۡ بِهٖ عِلۡمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوۡنَ فِيۡمَا لَيۡسَ لَـكُمۡ بِهٖ عِلۡمٌ‌ؕ وَاللّٰهُ يَعۡلَمُ وَاَنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ اِبۡرٰهِيۡمُ يَهُوۡدِيًّا وَّلَا نَصۡرَانِيًّا وَّلٰكِنۡ كَانَ حَنِيۡفًا مُّسۡلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ ﴿٦٧﴾ اِنَّ اَوۡلَى النَّاسِ بِاِبۡرٰهِيۡمَ لَلَّذِيۡنَ اتَّبَعُوۡهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا ‌ؕ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿٦٨﴾ وَدَّتۡ طَّآٮِٕفَةٌ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ لَوۡ يُضِلُّوۡنَكُمۡ ؕ وَمَا يُضِلُّوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُوۡنَ ﴿٦٩﴾ يٰۤـاَهۡلَ الۡكِتٰبِ لِمَ تَكۡفُرُوۡنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنۡتُمۡ تَشۡهَدُوۡنَ ﴿٧٠﴾

ع ٦ ٩ ١٤

٤۔ ضمیمہ ١٠٣
٥۔ ضمیمہ ٣١
٦۔ النسآء ١٠٩ اور محمد ٣٨ جبکہ «أُولآء» آل عمران ١١٩ میں۔
٧۔ النور ١٥ جبکہ اس آیت میں «لکم بہ عِلم» دو بار آیا ھے نیز الحج ٧١
٨۔ البقرۃ ٢١٦ و ٢٣٢ اور النور ١٩ جبکہ «إنَّ اللّٰہ» کیساتھ النحل ٧٤ میں ھے۔
٩۔ ضمیمہ ٥٤
١٠۔ آل عمران ٩٦
١١۔ آل عمران ٧٢
١٢۔ النسآء ١١٣

١٣۔ البقرۃ ٩ اور الانعام ٢٦ ١٤۔ آل عمران ٩٨ نیز ضمیمہ ١٠٣

١۔ ضمیمہ ١٠٣ ٢۔ خیال سے پڑھیے صرف یہیں نیز البقرۃ ٤٢ ٣۔ صرف یہیں نیز

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧١﴾ وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٧﴾

ع ٨/١٥

آل عمران ٦٩ اور الاحزاب ١٣ ٤۔ الاعراف ٨٧ ٥۔ ضمیمہ ١٠٤ ٦۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ١٢٠ اور الانعام ٧١ ٧۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ٧٦ ٨۔ صرف یہیں نیز الحدید ٢٩ اور ضمیمہ ١٠٥ ٩۔ ضمیمہ ٨٣ ١٠۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ١٠٥ اور ضمیمہ ٤٨ ١١۔ صرف یہیں نیز آل عمران ١٩٩ اور النسآء ١٥٩ ١٢۔ البقرۃ ٢٧٥، آل عمران ٢٤ اور محمد ٢٦

١٣۔ آل عمران ٧٨ نیز المجادلۃ ١٤ ١٤۔ خیال سے پڑھیے صرف یہیں نیز آل عمران ٧٩ اور الشوریٰ ٥١

١٥۔ صرف یہیں نیز التوبۃ ٤ ١٦۔ ضمیمہ ٢٩ ١٧۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ١٧٤ اور ضمیمہ ١٠

٥ـ المائدة ٤٧ اور النور ٥٥
٦ـ ضميمه ١٠٦
٧ـ الرعد ١٥
٨ـ صرف يهيں نيز ضميمه ٨٢

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ
مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ
اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَ
هُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا
الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ
اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ
اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ
لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ
عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ
مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

ع ٩ ٨ ١٦

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۪ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۸۴﴾ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۸۵﴾ كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۸۶﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿۸۷﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿۸۸﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۟ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۸۹﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ﴿۹۰﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ۭ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۹۱﴾

۴۔ البقرۃ ۱۳۳ و ۱۳۶ اور العنکبوت ۴۶
۵۔ المآئدۃ ۵
۶۔ ضمیمہ ۹۰
۷۔ آل عمران ۱۳۶
۸۔ البقرۃ ۱۶۱
۹۔ ضمیمہ ۵۸
۱۰۔ البقرۃ ۸۶ و ۱۶۲ اور النحل ۸۵
۱۱۔ ضمیمہ ۵۷
۱۲۔ النور ۵
۱۳۔ ضمیمہ ۶۶
۱۴۔ ضمیمہ ۷
۱۵۔ البقرۃ ۱۶۱ نیز ضمیمہ ۷
۱۶۔ ضمیمہ ۱۰۷
۱۷۔ ضمیمہ ۹۷

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ؕ وَمَا
تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ ﴿۹۲﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا
لِّبَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِیْلُ عَلٰی نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ
اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِیْنَ ﴿۹۳﴾ فَمَنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ
فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۹۴﴾ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۫ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِیْمَ
حَنِیْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۹۵﴾ اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِیْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًی لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴿۹۶﴾ فِیْهِ اٰیٰتٌۢ بَیِّنٰتٌ مَّقَامُ
اِبْرٰهِیْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ
الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ
الْعٰلَمِیْنَ ﴿۹۷﴾ قُلْ یٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ ۖۗ وَاللّٰهُ
شَهِیْدٌ عَلٰی مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۸﴾ قُلْ یٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ
سَبِیْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۹﴾ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِیْعُوْا فَرِیْقًا
مِّنَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ یَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِیْمَانِكُمْ كٰفِرِیْنَ ﴿۱۰۰﴾

٣۔ صرف یہیں نیز التوبة ٦٤
٤۔ صرف یہیں نیز یونس ٣٨، هود ١٣، القصص ٤٩ اور الانبیآء ٦١
٥۔ ضمیمه ٢٠
٦۔ صرف یہیں نیز «یفترون علی الله الکذب» النسآء ٥٠، المآئدة ١٠٣، یونس ٦٠ و ٦٩ اور النحل ١١٦ میں ہے.
٧۔ ضمیمه ٧٧
٨۔ صرف یہیں نیز الاحزاب ٢٢، یس ٥٢ اور الفتح ٢٧
٩۔ ضمیمه ٥٣
١٠۔ صرف یہیں نیز آل عمران ٦٨ اور ضمیمه ٥٤

١١۔ صرف یہیں نیز العنکبوت ٦ ١٢۔ صرف یہیں نیز آل عمران ٧٠ اور ضمیمه ١٠٢ ١٣۔ صرف یہیں نیز یونس ٤٦ ١٤۔ ضمیمه ١٠٢ ١٥۔ خیال سے پڑھیے صرف یہیں نیز الاعراف ٨٦ ١٦۔ صرف یہیں نیز البقرة ١٣٣ و الانعام ١٤٤ ١٧۔ ضمیمه ٤١ ١٨۔ خیال سے پڑھیے نیز آل عمران ١٤٩ و ضمیمه ٤٧

صفحہ نمبر ٦٤ ١۔ (و) کیساتھ صرف یہیں نیز (و) کے بغیر البقرة ٢٨ میں. ٢۔ صرف یہیں نیز المؤمنون ٦٦ و ١٠٥ و الجاثیة ٣١ ، النسآء ١٢٧ ، المآئدة ١ و الحج ٣٠ اور ضمیمه ١٧٣ ٣۔ صرف یہیں نیز الحجرات ٧ ٤۔ ضمیمه ٥٦ ٥۔ ضمیمه ٤٧ اور ٩٣ ٦۔ صرف یہیں نیز البقرة ١٣٢ ٧۔ صرف یہیں نیز الشوری ١٣

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ
وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ
مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَاذْكُرُوْا
نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ
مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ وَلْتَكُنْ
مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ
تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٥﴾ يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا
الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٦﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ
فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٧﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ
نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٨﴾

ع ١٠ / ١

٨۔ البقرة ٢٣١ اور المآئدة ٧ نیز ضمیمه ٧٨
٩۔ البقرة ٢٤٢ ، المآئدة ٨٩ اور النور ٥٩ نیز البقرة ٢١٩ ، ٢٦٦ اور النور ٥٨ و ٦١ اور ضمیمه ٧٢
١٠۔ ضمیمه ٣٣
١١۔ آل عمران ١١٤ نیز التوبة ٧١ ، الاعراف ١٥٧ اور التوبة ٦٧
١٢۔ ضمیمه ٦
١٣۔ الانفال ٢١ و ٤٧ اور الحشر ١٩ نیز آل عمران ١٥٦ اور الاحزاب ٦٩
١٤۔ صرف یہیں نیز البقرة ٢١٣ و ٢٥٣ اور النسآء ١٥٣ ، البقرة ٢٠٩ اور البينة ٤

١٥۔ صرف یہیں نیز ضمیمه ٨ ١٦۔ صرف یہیں نیز آل عمران ١٠٧ ١٧۔ الانعام ٣٠ ، الانفال ٣٥ اور الاحقاف ٣٤ نیز الاعراف ٣٩ اور یس ٦٤ ١٨۔ صرف یہیں نیز آل عمران ١٠٦ ١٩۔ الروم ٥٠ اور الزمر ٥٣ نیز البقرة ٢١٨ و الاعراف ٥٦ اور هود ٧٣ ٢٠۔ ضمیمه ٢٨ ٢١۔ البقرة ٢٥٢ اور الجاثیة ٦

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾ لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّا اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۫ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١١﴾ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾ لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾

٤۔ ضمیمہ ١٠٩
٥۔ الحشر ١٢
٦۔ البقرة ٦١ نیز ترتیب کا بهی خیال رکهیے۔
٧۔ البقرة ٦١ اور آل عمران ٢١
٨۔ البقرة ٦١ اور المآئدة ٧٨
٩۔ التوبة ٤٤ اور المجادلة ٢٢ نیز النسآء ٥٩ و النور ٢ اور ضمیمہ ٣٧
١٠۔ آل عمران ١٠٤ اور التوبة ٧١
١١۔ التوبة ٤٤

١۔ ضمیمہ ٧ ۔ ٢۔ آل عمران ١٠ اور المحادلة ١٧ ۔ ٣۔ البقرة ٢١٧ اور الرعد ٥ نیز ضمیمہ ٢٧

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ
مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۖ وَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿١١٦﴾
مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا
صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوٓا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا
ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا
لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ۖ وَدُّوا مَا
عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ
أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هٰٓأَنْتُمْ أُولَآءِ
تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَإِذَا لَقُوكُمْ
قَالُوٓا اٰمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ
قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِنْ
تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوا
بِهَا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ
اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾ ع وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ
تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

٤۔ ضمیمہ ٢٨
٥۔ «كانوا» کے بغیر صرف یہیں نیز ضمیمہ ٣٥
٦۔ التوبة ٢٣ نیز ضمیمہ ٤٧
٧۔ الحدید ١٧
٨۔ الشعرآء ٢٨
٩۔ «أولاءِ» کیساتھ صرف یہیں نیز آل عمران ٦٦ ، النسآء ١٠٩ اور محمد ٣٨
١٠۔ البقرة ١٤ اور ٧٦
١١۔ المآئدة ٧ اور لقمان ٢٣ نیز آل عمران ١٥٤ اور التغابن ٤
١٢۔ آل عمران ١٤٠
١٣۔ التوبة ٥٠ نیز المآئدة ١٠١
١٤۔ آل عمران ١٢٥ اور ١٨٦

١٥۔ الانفال ٤٧ ۔ ١٦۔ ضمیمہ ٧٥

اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى
اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٢﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ
اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢٣﴾ اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ
اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ
مُنْزَلِيْنَ ﴿١٢٤﴾ بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ
هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٥﴾
وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ وَمَا
النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ
الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٢٨﴾
وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ
يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْٓ اُعِدَّتْ
لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

٦۔ (زَ) کے زبر کیساتھ صرف یہیں۔
٧۔ آل عمران ١٢٠ اور ١٨٦
٨۔ آل عمران ١٢٤
٩۔ الانفال ١٠
١٠۔ ضمیمہ ١٠٨ اور ٨٦
١١۔ البقرة ٢٨٤، المآئدة ١٨ اور الفتح ١٤
١٢۔ ضمیمہ ٧١
١٣۔ ضمیمہ ٤٧
١٤۔ البقرة ١٨٩ اور آل عمران ٢٠٠ نیز ضمیمہ ٦٤ اور ٦٥
١٥۔ البقرة ٢٤ اور آل عمران ١٣٣

١٦۔ آل عمران ٣٢ ١٧۔ ضمیمہ ١١١

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ
وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ
وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا
اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۠ وَمَنْ يَّغْفِرُ
الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۪ۙ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ
يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ
جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَنِعْمَ اَجْرُ
الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِي
الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾ هٰذَا
بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٨﴾ وَلَا تَهِنُوْا
وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾ اِنْ
يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ۭ وَتِلْكَ
الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٠﴾

٤۔ الاعراف ٢٨
٥۔ آل عمران ٨٧
٦۔ ضميمه ٢١
٧۔ ضميمه ٥٨
٨۔ العنکبوت ٥٨ اور الزمر ٧٤
٩۔ الاعراف ٣٨
١٠۔ الانعام ١١، النحل ٣٦ اور الزخرف ٢٥
١١۔ (ہ) کے دو پیش کیساتھ صرف یہیں نیز البقرۃ ٦٦، المآئدۃ ٤٦ اور النور ٣٤
١٢۔ النسآء ١٠٤ نیز محمد ٣٥
١٣۔ محمد ٣٥
١٤۔ ضميمه ٤٥
١٥۔ آل عمران ١٢٠
١٦۔ آل عمران ٥٧

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱٤۱﴾
اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱٤۲﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ
الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿۱٤۳﴾
وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَا۟ىِٕنْ
مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى
عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱٤٤﴾
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا
وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ
الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱٤۵﴾ وَ كَاَيِّنْ
مِّنْ نَّبِىٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ
اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ
قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَ
ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱٤۷﴾

ع ۱٤ / ۱٤ / ۵

۵۔ آل عمران ۱٤۹ اور المؤمنون ٦٦
٦۔ آل عمران ۱۷٦ و ۱۷۷ اور محمد ۳۲
۷۔ یونس ۱۰۰
۸۔ ضمیمہ ۱۱۲
۹۔ (لَ) پر زبر ہے خیال سے پڑھیے۔
۱۰۔ البقرة ۲۵۰ نیز البقرة ۲۸٦

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ
وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ﴿۱۴۸﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ
تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا
خٰسِرِيْنَ ﴿۱۴۹﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿۱۵۰﴾
سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَاۤ اَشْرَكُوْا
بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَ
بِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۵۱﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ
اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ
فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ
مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ
ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَ
اللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۵۲﴾ اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا
تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْۤ اُخْرٰىكُمْ
فَاَثَابَكُمْ غَمًّاۢ بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ
وَلَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵۳﴾

ع ۱۵ ۶

۴۔ المآئدۃ ۲۱
۵۔ الانفال ۱۲
۶۔ الانعام ۸۱، الاعراف ۳۳ اور الحج ۷۱
۷۔ النور ۵۷ نیز المآئدۃ ۷۲
۸۔ الانفال ۴۳
۹۔ آل عمران ۱۷۴
۱۰۔ التوبۃ ۱۶، المجادلۃ ۱۳ اور المنافقون ۱۱ نیز ضمیمہ ۷۹

۱۔ اس آیت (آل عمران ۱۵٤) اور الفتح ۲۹ میں تمام حروف تہجّی شامل ھیں۔

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۭ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۭ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ۭ يُخْفُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ۭ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ۭ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۵٤﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۵۵﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۭ وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۵٦﴾ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

ع ۱٦ ۷ ۷

۲۔ التغابن ٤ نیز آل عمران ۱۱۹، المآئدة ۷ اور لقمان ۲۳

۳۔ آل عمران ۱٦٦ اور الانفال ٤۱

٤۔ صرف یھیں نیز البقرة ۲۲۵ اور المآئدة ۱۰۱

۵۔ ضمیمه ٤۷

٦۔ الاحزاب ٦۹ نیز آل عمران ۱۰۵، الانفال ۲۱ و ٤۷ اور الحشر ۱۹ میں (و) کیساتھ ھے۔

۷۔ آل عمران ۱٦۸

۸۔ ضمیمه ۸۹

۹۔ ضمیمه ۹۱

۱۰۔ یونس ۵۸ اور الزخرف ۳۲

وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِالَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۱۵۸﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ
اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ
حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ
فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿۱۵۹﴾
اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ
يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۶۰﴾ وَمَا
كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۗ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ
ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۱۶۱﴾ اَفَمَنِ اتَّبَعَ
رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۗ وَ
بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۶۲﴾ هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا
يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶۳﴾ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا
مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۶۴﴾ اَوَلَمَّآ
اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ۖ قُلْ
هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۶۵﴾

النحل ۱۱۱ میں اور «بما کسبت» الحاثیة ۲۲ میں ھے۔
۴۔ الانفال ۱۶
۵۔ ضمیمه ۵۲
۶۔ البقرة ۹۶ اور المائدة ۷۱ نیز الحجرات ۱۸
۷۔ البقرة ۱۲۹ و ۱۵۱ اور الجمعة ۲
۸۔ الجمعة ۲ نیز ضمیمه ۱۱۳
۹۔ النسآء ۷۲
۱۰۔ ضمیمه ۱۵

النصف

وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۶۶﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚۖ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ۭ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا تَّبَعْنٰكُمْ ۭ
هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَىِٕذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ
مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۭ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿۱۶۷﴾ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا
لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ۭ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ
اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۶۸﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿۱۶۹﴾
فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ
يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۷۰﴾
يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۱﴾ اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ
اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۲﴾
اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ڰ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿۱۷۳﴾

۵۔ آل عمران ۱۵۶
۶۔ ضمیمہ ۲۰
۷۔ آل عمران ۱۸۸
۸۔ البقرۃ ۱۵۴
۹۔ آل عمران ۱۸۰
۱۰۔ آل عمران ۱۷۱
۱۱۔ «اَلَّا» کیساتھ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۳۸
۱۲۔ آل عمران ۱۷۰
۱۳۔ الشوری ۳۸
۱۴۔ الانفال ۱ اور ۲۴

وقف لازم

ع ۱۷ ۸ ۲ مع

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۷٤﴾ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۠ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۵﴾ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۷﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ؕ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۷۸﴾ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۠ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۹﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۸۰﴾

۵۔ ضمیمہ ۸
٦۔ آل عمران ۱٤٤ و ۱۷٦ اور محمد ۳۲
۷۔ ضمیمہ ۱۰
۸۔ آل عمران ۱۸۰ اور الانفال ٥۹
۹۔ الانفال ۳۷
۱۰۔ النسآء ۱۷۱
۱۱۔ محمد ۳٦
۱۲۔ آل عمران ۱۷۸ اور الانفال ٥۹
۱۳۔ آل عمران ۱۷۰
۱٤۔ الحدید ۱۰
۱۵۔ ضمیمہ ۷۹

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿۱۸۱﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿۱۸۲﴾ اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ۭ قُلْ قَدْ جَاۗءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْھُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۸۳﴾ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاۗءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿۱۸۴﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَاۗىِٕقَةُ الْمَوْتِ ۭ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿۱۸۵﴾ لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۣ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ۭ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۱۸۶﴾

۳۔ الانفال ۵۱ نیز الحج ۱۰ میں «یداك» کیساتھ ھے۔
۴۔ ضمیمہ ۱۱۴
۵۔ ضمیمہ ۲۰
۶۔ فاطر ۲۵
۷۔ الانبیآء ۳۵ اور العنکبوت ۵۷
۸۔ محمد ۳۶
۹۔ الحدید ۲۰
۱۰۔ آل عمران ۱۲۰ اور ۱۲۵
۱۱۔ لقمان ۱۷ اور الشوری ۴۳

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ز فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨٨﴾ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٨٩﴾ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ق رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

٥ـ ضميمه ١١٥
٦ـ ضميمه ٩٦
٧ـ البقرة ١٦٤
٨ـ البقرة ١٦٤، يونس ٦ اور الجاثية ٥
٩ـ النسآء ١٠٣
١٠ـ البقرة ٢٧٠ اور المآئدة ٧٢ نيز الحج ٧١ اور فاطر ٣٧
١١ـ آل عمران ١٦

صفحہ نمبر ۷۷ ۱۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۲۰۰ و ۲۰۱ اور الکہف ۱۰ ۲۔ صرف یہیں نیز الشعرآء ۸۷ ۳۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۹ اور الرعد ۳۱ ٤۔ النسآء ۱۲٤ ، النحل ۹۷ اور المؤمن ٤۰ نیز الحجرات ۱۳ ۵۔ النسآء ۲۵
٦۔ صرف یہیں نیز المآئدۃ ۱۲ ، العنکبوت ۷ و ضمیمہ ۲۱ خیال رہے کہ آگے «ثوابًا مّن عند اللّٰہ» ہے۔ ۷۔ صرف یہیں نیز آل عمرن ۱٤

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰی رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ
اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۱۹٤﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّیْ لَاۤ اُضِيْعُ
عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ
فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِیْ سَبِيْلِیْ
وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَ
اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۹۵﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا فِی الْبِلَادِ ﴿۱۹٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۟ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ
بِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۹۷﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِیْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا
عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿۱۹۸﴾ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ
بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ
لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹۹﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۲۰۰﴾ ع

۸۔ صرف یہیں نیز المؤمن ٤
۹۔ النحل ۱۱۷ نیز یونس ۷۰ اور التوبۃ ۳۸
۱۰۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۱٦۲ و الانفال ۱٦، النسآء ۹۷ ، النسآء ۱۲۱ ، التوبۃ ۷۳ و ۹۵ ، الرعد ۱۸ اورالتحریم ۹
۱۱۔ آل عمران ۱۲ اور الرعد ۱۸ نیز ص ۵٦ اور البقرۃ ۲۰٦
۱۲۔ صرف یہیں نیز الزمر ۲۰
۱۳۔ ضمیمہ ۲۱
۱٤۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۵۸
۱۵۔ صرف یہیں نیز القصص ٦۰ و الشوریٰ ۳٦ ، الجمعۃ ۱۱ اور النحل ۹٦

۱٦۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۷۵ اور النسآء ۱۵۹
۱۷۔ المآئدۃ ٦۸ ۱۸۔ صرف یہیں نیز المآئدۃ ٦٦ ۱۹۔ صرف یہیں نیز التوبۃ ۹ و ضمیمہ ۲۹ ۲۰۔ البقرۃ ۲٦۲
۲۱۔ المآئدۃ ٤ ، ابراهیم ۵۱ اور المؤمن ۱۷ نیز آل عمران ۱۹ ، البقرۃ ۲۰۲ ، النور ۳۹ اور الرعد ٤۱ ۲۲۔ ضمیمہ ٤۷
۲۳۔ البقرۃ ۱۸۹ ، آل عمران ۱۳۰ اور ضمیمہ ٦٤ و ٦۵

۱۔ الحج ۱ اور لقمان ۳۳ نیز ضمیمہ ۱۶ ۲۔ الاعراف ۱۸۹ اور الزمر ۶ ۳۔ ضمیمہ ٦٤ اور ۱۱٦

۴۔ یہاں اس آیت میں پہلی بار۔
۵۔ فاطر ۱
٦۔ یہاں اس آیت میں مکرر۔
۷۔ ضمیمہ ۱۱۷
۸۔ المآئدۃ ۱۰۸، الاحزاب ۵۱ اور ۵۹
۹۔ البقرۃ ۲۳۵، النسآء ۸ اور الاحزاب ۳۲

سُوْرَةُ النِّسَآءِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّسِتٌّ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعٌ وَّعِشْرُوْنَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ① وَاٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَهُمْ اِلٰۤى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ② وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا ؕ ③ وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ④ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ⑤

۳۔ النور ۲۲
٤۔ البقرة ۲۳۵ ، النسآء ۵ اور الاحزاب ۳۲
۵۔ الاحزاب ۷۰

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۭ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۭ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۠ وَلِلنِّسَاۗءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۭ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْھُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَھُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝ وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِھِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْھِمْ ۠ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِھِمْ نَارًا ۭ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۝

ع ۱۰ / ۱۲

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ
كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً
فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ
كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

زبر کیساتھ آیا ھے۔
٤۔ التوبۃ ٦٠
٥۔ النسآء ٢٤، الاحزاب ۱ اور الدھر ۳۰ نیز ضمیمہ ۱۱۸
٦۔ خیال رہے «لَھُن» اس آیت میں دو بار شامل ھے۔
۷۔ یہاں «یُوصین» آیا ھے خیال سے پڑھیے۔
۸۔ خیال رہے «لکم ولد» اس آیت میں دو بار شامل ھے۔
۹۔ خیال سے پڑھیے یہاں «تُوصُون» استعمال ہوا ھے۔
۱۰۔ النسآء ۱۱
۱۱۔ آیت مُتصّلہ (النسآء ۱۱) میں «یُوصِی» استعمال ہوا ھے۔

۱۲۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۱۹

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۳﴾ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۴﴾ وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿۱۵﴾ وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۱۶﴾ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۷﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰىٓ اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْئٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۸﴾

ع ۲ ۱۳

۴۔ ضمیمہ ۵۸
۵۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۳۳
۶۔ الاحزاب ۳۶ اور الجن ۲۳
۷۔ النسآء ۹۳ اور التوبۃ ۶۳
۸۔ الانعام ۵۴
۹۔ ضمیمہ ۱۱۸
۱۰۔ صرف یہیں نیز «اَحَدَكُمُ الموتُ» کیساتھ البقرۃ ۱۸۰، المآئدۃ ۱۰۶ اور المنافقون ۱۰ میں آیا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا
تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ
فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿۱۹﴾ وَاِنْ
اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا
فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۲۰﴾ وَ
كَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿۲۱﴾ وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿۲۲﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ
الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْۤ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ
اُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ؗ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ؗ
وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ
الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۲۳﴾

ع ۳ ۸ ۱٤

اور الاحزاب ۵۸
۵۔ «اَخذنَا» النسآء ۱۵٤ اور الاحزاب ۷ میں استعمال ہوا ہے۔
٦۔ النسآء ۲۳
۷۔ الاسرآء ۳۲
۸۔ المآئدۃ ۳
۹۔ النسآء ۲۲
۱۰۔ النسآء ۱۰٦ اور الاحزاب ۲٤ نیز ضمیمہ ۱۲٦

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ
كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ
مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ
الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٤﴾ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ
طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ
فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ
فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ
غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَاۤ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ
بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ
ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٥﴾ يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ
عَلَيْكُمْ ۫ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٧﴾
يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٨﴾

ع ٤ / ١

٤۔ النسآء ١١ ، الاحزاب ١ اور الدهر ٣٠ نیز ضمیمہ ١١٨
٥۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ١١٧
٦۔ آل عمران ١٩٥
٧۔ صرف یہیں جبکہ (ف) کیساتھ دیکھیے النسآء ٢٤ اور الطلاق ٦
٨۔ المآئدۃ ٥
٩۔ ضمیمہ ٧١
١٠۔ النسآء ٢٨
١١۔ ضمیمہ ١١٩
١٢۔ النسآء ٢٦

۱۔ ضمیمہ ۴۷ ۲۔ البقرۃ ۱۸۸ ۳۔ البقرۃ ۲۸۲ ٤۔ آل عمران ۲۸ ، النسآء ١١٤ اور المنافقون ۹ ۵۔ النسآء ۵٦ ٦۔ النسآء ١٦٩ ، الاحزاب ١٩ اور ٣٠ ۷۔ النحل ۷۱ جبکہ «بَعْضُكُم» النور ۵۸ میں استعمال ہوا ہے۔ ۸۔ النسآء ۷ ۹۔ الاحزاب ٥٤ ١٠۔ الاحزاب ٥٥ ١١۔ البقرۃ ۲۵۳ اور الاسرآء ۲۱ نیز ضمیمہ ٢٠٤

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿۲۹﴾ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿۳۰﴾ اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿۳۱﴾ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ﴿۳۲﴾ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا ﴿۳۳﴾ ع ۵ ۸ ۲

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿۳۴﴾

وَاِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَابۡعَثُوۡا حَكَمًا مِّنۡ اَهۡلِهٖ وَ
حَكَمًا مِّنۡ اَهۡلِهَا ۚ اِنۡ يُّرِيۡدَاۤ اِصۡلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيۡنَهُمَا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا خَبِيۡرًا ﴿۳۵﴾ وَاعۡبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشۡرِكُوۡا
بِهٖ شَيۡـًٔـا وَّبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا وَّبِذِى الۡقُرۡبٰى وَالۡيَتٰمٰى
وَالۡمَسٰكِيۡنِ وَالۡجَارِ ذِى الۡقُرۡبٰى وَالۡجَارِ الۡجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالۡجَنۡۢبِ وَابۡنِ السَّبِيۡلِ ۙ وَمَا مَلَكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يُحِبُّ مَنۡ كَانَ مُخۡتَالًا فَخُوۡرَا ۙ ﴿۳۶﴾ اۨلَّذِيۡنَ يَبۡخَلُوۡنَ وَيَاۡمُرُوۡنَ
النَّاسَ بِالۡبُخۡلِ وَيَكۡتُمُوۡنَ مَاۤ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ وَ
اَعۡتَدۡنَا لِلۡكٰفِرِيۡنَ عَذَابًا مُّهِيۡنًا ۚ ﴿۳۷﴾ وَالَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ
رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ وَمَنۡ
يَّكُنِ الشَّيۡطٰنُ لَهٗ قَرِيۡنًا فَسَآءَ قَرِيۡنًا ﴿۳۸﴾ وَمَاذَا عَلَيۡهِمۡ لَوۡ
اٰمَنُوۡا بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَاَنۡفَقُوۡا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَكَانَ
اللّٰهُ بِهِمۡ عَلِيۡمًا ﴿۳۹﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَاِنۡ تَكُ
حَسَنَةً يُّضٰعِفۡهَا وَيُؤۡتِ مِنۡ لَّدُنۡهُ اَجۡرًا عَظِيۡمًا ﴿۴۰﴾ فَكَيۡفَ اِذَا
جِئۡنَا مِنۡ كُلِّ اُمَّةٍۢ بِشَهِيۡدٍ وَّجِئۡنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَاۤءِ شَهِيۡدًا ﴿۴۱﴾

وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم

۳۔ الحدید ۲۳
٤۔ الحدید ۲٤
٥۔ النسآء ٥٤
٦۔ النسآء ۱۵۱ اور ۱٦۱
۷۔ النسآء ۱۰۲ و ۱۵۱ اور الاحزاب ٥۷
۸۔ التوبۃ ۲۹ نیز ضمیمہ ۳۷
۹۔ ضمیمہ ۳۷
۱۰۔ سبا ۲۲، الزلزال ۷ اور ۸ جبکہ یونس ٦۱ میں (ل) کی زیر اور سبا ۳ میں پیش استعمال ہوا ہے۔

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى
بِهِمُ الْاَرْضُ ؕ وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا ﴿۴۲﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا
تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ؕ وَاِنْ
كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ
اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا
غَفُوْرًا ﴿۴۳﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ
يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿۴۴﴾ وَاللّٰهُ
اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿۴۵﴾
مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَ
يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا
لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا
وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَ
لٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۴۶﴾

ع ٦

٤۔ ضمیمہ ۸۰ اور ۸۱
٥۔ آل عمران ۲۳ اور النسآء ۵۱
٦۔ یہاں اس آیت میں پہلی بار۔
٧۔ یہاں اس آیت میں مکرر۔
٨۔ المائدۃ ٤١
٩۔ المائدۃ ۱۳ اور ٤١
۱۰۔ البقرۃ ۹۳ نیز البقرۃ ۲۸۵، المائدۃ ۷ اور النور ۵۱
۱۱۔ البقرۃ ۲۸۵، المائدۃ ۷ اور النور ۵۱ نیز البقرۃ ۹۳
۱۲۔ ضمیمہ ۱۰۹
۱۳۔ البقرۃ ۸۸ اور النسآء ۱۵۵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰۤى اَدْبَارِهَاۤ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ اَصْحٰبَ السَّبْتِؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿۴۷﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰۤى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿۴۸﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿۴۹﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَؕ وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۵۰﴾ ع اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿۵۱﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ﴿۵۲﴾ اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿۵۳﴾ اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَاۤ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۚ فَقَدْ اٰتَيْنَاۤ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿۵۴﴾

ع ۸ / ۷ / ۴

۵۔ ضمیمہ ۸۰ اور ۸۱
۶۔ النسآء ۱۲۴، الاسرآء ۷۱ اور مریم ۶۰
۷۔ ضمیمہ ۱۲۰
۸۔ ضمیمہ ۸۰ اور ۸۱
۹۔ آل عمران ۲۳ اور النسآء ۴۴
۱۰۔ محمد ۲۳ نیز ضمیمہ ۱۳
۱۱۔ النسآء ۸۸ اور ۱۴۳
۱۲۔ النسآء ۱۲۴
۱۳۔ النسآء ۳۷

فَمِنۡهُمۡ مَّنۡ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ صَدَّ عَنۡهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيۡرًا ﴿۵۵﴾ اِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِنَا سَوۡفَ نُصۡلِيۡهِمۡ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتۡ جُلُوۡدُهُمۡ بَدَّلۡنٰهُمۡ جُلُوۡدًا غَيۡرَهَا لِيَذُوۡقُوا الۡعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيۡزًا حَكِيۡمًا ﴿۵۶﴾ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدۡخِلُهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَبَدًا ؕ لَهُمۡ فِيۡهَاۤ اَزۡوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّنُدۡخِلُهُمۡ ظِلًّا ظَلِيۡلًا ﴿۵۷﴾ اِنَّ اللّٰهَ يَاۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهۡلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمۡتُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمۡ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيۡعًاۢ بَصِيۡرًا ﴿۵۸﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَاُولِى الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡ ۚ فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِىۡ شَىۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوۡلِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيۡرٌ وَّاَحۡسَنُ تَاۡوِيۡلًا ﴿۵۹﴾ اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ يَزۡعُمُوۡنَ اَنَّهُمۡ اٰمَنُوۡا بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ وَمَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِكَ يُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ يَّتَحَاكَمُوۡۤا اِلَى الطَّاغُوۡتِ وَقَدۡ اُمِرُوۡۤا اَنۡ يَّكۡفُرُوۡا بِهٖ ؕ وَيُرِيۡدُ الشَّيۡطٰنُ اَنۡ يُّضِلَّهُمۡ ضَلٰلًاۢ بَعِيۡدًا ﴿۶۰﴾

اور الفتح ٧ و ١٩
٥ـ النسآء ١٢٢ نيز ضميمه ٤٢
٦ـ ضميمه ٢١
٧ـ ضميمه ١٢١
٨ـ البقرة ٢٥ اور آل عمران ١٥
٩ـ النسآء ١٣٤
١٠ـ ضميمه ٤٧
١١ـ محمد ٣٣ جبكه المآئدة ٩٢ اور التغابن ١٢ كى ابتداء ميں (و) اور النور ٥٤ كى ابتداء ميں «قُل» هے۔
١٢ـ النور ٢ جبكه «يُؤمِنُونَ»

آل عمران ١١٤ ، التوبة ٤٤ اور المحادلة ٢٢ ميں استعمال هوا هے نيز ضميمه ٣٧ ١٣ـ الاسرآء ٣٥
١٤ـ ضميمه ٨٠ اور ٨١ ١٥ـ البقرة ٤ اور النسآء ١٦٢ ١٦ـ النسآء ١١٦ ، ١٣٦ اور ١٦٧

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ﴿٦٢﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا ﴿٦٣﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾ وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿٦٦﴾ وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٦٧﴾ وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٦٨﴾

٤۔ التوبة ٥٦ ، ٦٢ اور ٧٤
٥۔ ضمیمہ ١٣
٦۔ ابراهیم ٤
٧۔ (ل) پر دو پیش هیں خیال سے پڑھیے.
٨۔ ضمیمہ ١٠٩

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ
عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ
وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿۶۹﴾ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى
بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿۷۰﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا
ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿۷۱﴾ وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ
اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ
شَهِيْدًا ﴿۷۲﴾ وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ
تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ
فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿۷۳﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ
الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۷۴﴾ وَمَا لَكُمْ
لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا
مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ
لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ﴿۷۵﴾

ع ۹ / ۱۱ / ٦

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا

يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿۷۶﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ

لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ

عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ

اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْ

لَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۭ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ

خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۣ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿۷۷﴾ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا

يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۭ وَاِنْ تُصِبْهُمْ

حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ

يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ۭ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۭ فَمَالِ

هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴿۷۸﴾ مَآ اَصَابَكَ مِنْ

حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۡ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ۭ وَاَرْسَلْنٰكَ

لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿۷۹﴾ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ

فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ﴿۸۰﴾ ۭ

ع ۱۰ / ۷

۵۔ ابراھیم ٤٤ اور المنافقون ۱۰

٦۔ (ی) پر زبر ہے خیال سے پڑھیے۔

۷۔ النسآء ۱٦٦ اور الفتح ۲۸

۸۔ النسآء ٦۹

۹۔ الانعام ۱۰۷ اور الشوریٰ ٤۸

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴿٨٥﴾ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾

النصف ع ۱۱ ۱۱ ۸

۵۔ ضمیمہ ۱۲۳
٦۔ یہاں اس آیت میں مکرر۔
۷۔ الکہف ٤۵ ، الاحزاب ۲۷ اور الفتح ۲۱
۸۔ ضمیمہ ۸٤ اور ۵۹
۹۔ الانعام ۱۲ نیز ضمیمہ ٤
۱۰۔ النسآء ۱۲۲

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ؕ
اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ
فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿۸۸﴾ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا
فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ
وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۸۹﴾ اِلَّا
الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ
جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا
قَوْمَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ
فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ
فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ﴿۹۰﴾ سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ
يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى
الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ
السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ
ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿۹۱﴾ ع

ع ۱۲ ۹

۴۔ ضمیمہ ۱۲۵
۵۔ النسآء ۹۲ اور الانفال ۷۲
۶۔ ضمیمہ ۱۴
۷۔ النسآء ۹۱
۸۔ النسآء ۹۰
۹۔ البقرة ۱۹۱ ، النسآء ۸۹ اور التوبة ۵

۱۔ اس آیت میں مزید ایک بار اور المحادلة ۳ نیز «وَتَحرِيرُ» کیساتھ اس آیت میں آگے بھی استعمال ہوا ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ؕ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؗ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۹۲﴾ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿۹۳﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؗ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ؕ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۹۴﴾ لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ؕ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۹۵﴾

۲۔ یہاں اس آیت میں پہلی بار۔
۳۔ یہاں اس آیت میں پہلی بار۔
٤۔ یہاں اس آیت میں مکرر اور المحادلة ۳ نیز «وَتَحرِيرُ» کیساتھ آگے بھی اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔
٥۔ یہاں اس آیت میں مکرر۔
٦۔ النسآء ۹۰ اور الانفال ۷۲
۷۔ یہاں اس آیت میں مکرر۔
۸۔ صرف یہیں نیز «فَتَحرِيرُ» کیساتھ اسی آیت میں دو بار گذر چکا ہے نیز المحادلة ۳

۹۔ البقرة ۱۹٦ ، المآئدة ۸۹ اور المحادلة ٤ اور التوبة ٦۳
۱۰۔ ضمیمہ ۱۱۸
۱۱۔ المآئدة ۹٥
۱۲۔ النسآء ۱٤
۱۳۔ ضمیمہ ٤۷
۱٤۔ «السَّلٰمَ» کے (ل) پر کھڑا زبر استعمال ہوا ہے خیال سے پڑھیے۔
۱٥۔ الاحزاب ۲
۱٦۔ الحدید ۱۰

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ﴿۹۶﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ
اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ
فِى الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا
فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۹۷﴾
اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ
لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿۹۸﴾
فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ
عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿۹۹﴾ وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ
فِى الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ؕ وَمَنْ يَّخْرُجْ
مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ
الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا
رَّحِيْمًا ﴿۱۰۰﴾ وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿۱۰۱﴾

ع ۱۳ / ۱۰
ع ۱٤ / ۱۱

۵۔ النسآء ۷۵ اور ۱۲۷
٦۔ النسآء ٤۳
۷۔ ضمیمہ ۱۲٦
۸۔ البقرة ۲۸۲ جبکہ «علیهن» کیساتھ النور ٦۰ میں ھے۔
۹۔ صرف یہیں جبکہ «وَاِن» کیساتھ النسآء ۳ و ۳۵ اور التوبة ۲۸ میں نیز «فاِن» کیساتھ البقرة ۲۳۹ اور النسآء ۳ میں ھے۔

۱۔ خیال رہے کہ یہاں «حِذرَهُم» نہیں ہے بلکہ وہ اسی آیت میں آگے استعمال ہوا ہے۔

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ
مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ ۣ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا
مِنْ وَّرَآئِكُمْ ۠ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا
مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ
عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۭ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ
اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَ
خُذُوْا حِذْرَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٠٢﴾
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّ
عَلٰي جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ
الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٣﴾ وَلَا تَهِنُوْا
فِي ابْتِغَاۗءِ الْقَوْمِ ۭ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ
كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ
عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٠٤﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ ۭ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَاۗىِٕنِيْنَ خَصِيْمًا ﴿١٠٥﴾

ع ۱۵

۲۔ «حِذرَهُم» کے بغیر یہ الفاظ اسی آیت میں اوپر گذر چکے۔
۳۔ «کُم» کا خیال رکھیے۔
٤۔ النسآء ۳۷ و ۱۵۱ اور الاحزاب ۵۷
۵۔ آل عمران ۱۹۱
٦۔ آل عمران ۱۳۹ جبکہ «فَلا» محمد ۳۵ میں استعمال ہوا ہے۔
۷۔ خیال سے پڑھیے یہاں (ع) شامل نہیں ہے۔
۸۔ ضمیمہ ۱۱۸
۹۔ الزمر ۲

۱۔ (ر) کے زیر کیساتھ صرف یہیں جبکہ «واستغفروا اللّٰہ» البقرۃ ۱۹۹ و المزمل ۲۰ میں اور «فاستغفروا اللّٰہ» النسآء ۶۴ میں ہے۔

وَّ اسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۚ ﴿۱۰۶﴾ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا ۚ ﴿۱۰۷﴾ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿۱۰۸﴾ هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿۱۰۹﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۱۰﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۱۱﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۱۱۲﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَىْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿۱۱۳﴾

۲۔ النسآء ۲۳ اور الاحزاب ۲۴ نیز ضمیمہ ۱۲۶
۳۔ آل عمران ۶۶ اور محمد ۳۸ نیز «اُولآء» آل عمران ۱۱۹ میں ہے۔
۴۔ النسآء ۱۲۳
۵۔ النسآء ۱۱۲
۶۔ ضمیمہ ۱۱۸
۷۔ النسآء ۱۱۱
۸۔ الاحزاب ۵۸
۹۔ النسآء ۲۰ اور الاحزاب ۵۸
۱۰۔ «علیك» کیساتھ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۲۳
۱۱۔ آل عمران ۶۹

ع ۱۶ ۸ ۱۳

۱۔ آل عمران ۲۸ ، النسآء ۳۰ اور المنافقون ۹ ۲۔ النسآء ۷٤ ۳۔ النسآء ۹۷ اور الفتح ٦

لَاخَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۱۴﴾ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۱۱۵﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿۱۱۶﴾ اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿۱۱۷﴾ لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿۱۱۸﴾ وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿۱۱۹﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿۱۲۰﴾ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۫ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿۱۲۱﴾

٤۔ النسآء ٤۸
۵۔ النسآء ۱۳٦ اور ۱٦۷ جبکہ «ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا» النسآء ٦۰ میں ھے
٦۔ ضمیمہ ۱۹
۷۔ الاسرآء ٦٤
۸۔ النسآء ۹۷

ع ۱۷ ۳ ۱٤

وقف النبی ﷺ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿۱۲۲﴾ لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۲۳﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿۱۲۴﴾ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿۱۲۵﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿۱۲۶﴾ ع ۱۸ / ۱۱ / ۱۵

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَآءِ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿۱۲۷﴾

جبکہ «وَعدا عَلیہِ» التوبۃ ۱۱۱ میں استعمال ہوا ہے۔
۵۔ النسآء ۸۷
۶۔ النسآء ۱۱۰
۷۔ ضمیمہ ۱۹
۸۔ ضمیمہ ۱۲۵
۹۔ طٰہٰ ۱۱۲ جبکہ «فَمَن» الانبیاء ۹۴ میں استعمال ہوا ہے۔
۱۰۔ مریم ۶۰ اور المؤمن ۴۰
۱۱۔ النسآء ۴۹، الاسرآء ۷۱ اور مریم ۶۰ نیز النسآء ۵۳
۱۲۔ البقرۃ ۱۱۲ اور لقمان ۲۲
۱۳۔ ضمیمہ ۵۳

۱۴۔ ضمیمہ ۱۰۸ اور ۸۶ ۱۵۔ النسآء ۱۷۶ ۱۶۔ النسآء ۷۵ اور ۹۸ ۱۷۔ البقرۃ ۱۹۷ اور ۲۱۵

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۲۸﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْۤا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَ تَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۲۹﴾ وَ اِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿۱۳۰﴾ وَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ اِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿۱۳۱﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۱۳۲﴾ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿۱۳۳﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿۱۳٤﴾

ع ۱۹ ۸ ۱٦

٥۔ ضمیمہ ۱۰۸ اور ۸٦
٦۔ النسآء ۱۷۰ نیز ضمیمہ ۹۵ اور ۸٦
۷۔ ضمیمہ ۱۰۸ اور ۸٦
۸۔ ضمیمہ ۱۲۲
۹۔ الانعام ۱۳۳، ابراھیم ۱۹ اور فاطر ۱٦
۱۰۔ النسآء ۵۸

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ
وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا
اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ
وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ
عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ
وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ
بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ
ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ؕ ﴿١٣٧﴾
بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمَا ۙ ﴿١٣٨﴾ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ
الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ
الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ
اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا
مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۙ ﴿١٤٠﴾

٤۔ النسآء ١٢٨
٥۔ ضمیمہ ٤٧
٦۔ الحدید ٧
٧۔ یہاں اس آیت میں پہلی بار۔
٨۔ (ز) مشدّد ہے خیال رکھیے۔
٩۔ یہاں اس آیت میں مکرر۔
١٠۔ البقرة ٩٨ اور ٢٨٥
١١۔ النسآء ١١٦ اور ١٦٧ جبکہ «ضَلٰلًاۢ بَعِیدًا» النسآء ٦٠ میں ہے۔
١٢۔ النسآء ١٦٨
١٣۔ آل عمران ٢٨ اور النسآء ١٤٤
١٤۔ یونس ٦٥
١٥۔ الانعام ٦٨

۵۔ آل عمران ۲۸ اور النسآء ۱۳۹
۶۔ النسآء ۱۴۲
۷۔ ضمیمہ ۵۷

الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْۤا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْۤا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۧ ﴿۱۴۱﴾

ع ۲۰ / ۱۷

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ﴿۱۴۲﴾ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَآءِ وَلَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَآءِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿۱۴۳﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿۱۴۴﴾ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۙ﴿۱۴۵﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۴۶﴾ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿۱۴۷﴾

۱۔ الاحزاب ۵۴ ۲۔ آل عمران ۲۱ ۳۔ یہاں اس آیت میں پہلی بار۔ ۴۔ یہاں اس آیت میں مکرر۔

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ
ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿۱۴۸﴾ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ
اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿۱۴۹﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ
وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ
اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿۱۵۰﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ
وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۱۵۱﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ
وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۵۲﴾ يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ
عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ
فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ
اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ
ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿۱۵۳﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ
الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا
لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿۱۵۴﴾

۵۔ «کافرون» کیساتھ صرف یہیں نیز الانفال ۴ اور ۷۴
۶۔ النسآء ۳۷ اور ۱۶۱
۷۔ النسآء ۳۷ و ۱۰۲ اور الاحزاب ۵۷
۸۔ الحدید ۱۹
۹۔ آل عمران ۵۷، النسآء ۱۷۳ اور فاطر ۳۰
۱۰۔ ضمیمہ ۱۲۶
۱۱۔ الذاریات ۴۴
۱۲۔ البقرۃ ۵۱ اور ۹۲
۱۳۔ البقرۃ ۲۱۳ و ۲۵۳ نیز آل عمران ۱۰۵
۱۴۔ الاحزاب ۷ نیز «اَخذنَ» النسآء ۲۱ میں ہے۔

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۵۵﴾ وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا
عَظِيْمًا ﴿۱۵۶﴾ وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ
اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ
اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ
الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۙ﴿۱۵۷﴾ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا
حَكِيْمًا ﴿۱۵۸﴾ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۚ﴿۱۵۹﴾ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
كَثِيْرًا ۙ﴿۱۶۰﴾ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۶۱﴾ لٰكِنِ
الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ
وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ
الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۶۲﴾

ع ۲۲ / ۲

۵۔ یہاں «رَسُولَ» کے (ل) پر زبر استعمال ہوا ہے خیال سے پڑھیے۔
٦۔ الکهف ٥ اور النجم ۲۸
۷۔ النسآء ۱٦٥، الفتح ۷ اور ۱۹ نیز «اِنَّ اللّٰه» کیساتھ النسآء ٥٦ میں ہے۔
۸۔ آل عمران ۱۹۹
۹۔ النسآء ۳۷ اور ۱٥۱
۱۰۔ البقرة ٤ اور النسآء ٦۰
۱۱۔ ضمیمه ۳۷

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَّالنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ
بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ
وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن
قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ
تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾
لَّٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ ۖ وَالْمَلَٰٓئِكَةُ
يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا۟
وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا۟ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَظَلَمُوا۟ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ
طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ
مِن رَّبِّكُمْ فَـَٔامِنُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ
مَا فِى السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

صفحہ نمبر ۱۰۵ ۔ ۱۔ البقرة ۱۳٦ و ۱٤۰ اور آل عمران ۸٤ ۲۔ الاسرآء ۵۵ ۳۔ البقرة ۲۱۳ ، الانعام ٤۸ اور الکهف ۵٦ ٤۔ البقرة ۱۵۰ ۵۔ النسآء ۱۵۸ ، الفتح ۷ اور ۱۹ جبکه «إنّ الله» کیساتھ النسآء ۵٦ میں هے. ٦۔ النسآء ۷۹ اور الفتح ۲۸ ۷۔ النسآء ۱٦۸ نیز ضمیمه ۷ ۸۔ النسآء ۱۱٦ اور ۱۳٦ جبکه صرف «ضَلٰلاً بعیدا» النسآء ٦۰ میں هے. ۹۔ النسآء ۱٦۷ نیز ضمیمه ۷ ۱۰۔ النسآء ۱۳۷ ۱۱۔ ضمیمه ۱۲۱ ۱۲۔ النسآء ۳۰ ، الاحزاب ۱۹ اور ۳۰ ۱۳۔ النسآء ۱۷٤ نیز ضمیمه ۱٦ ۱٤۔ النسآء ۱۳۱ نیز ضمیمه ۱۲۷ اور ۵۱ ۱۵۔ ضمیمه ۱۱۸

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ
اِلَّا الْحَقَّ ۭ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ
كَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۡ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۣ
وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۭ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۭ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۭ
سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى
الْاَرْضِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۱۷۱﴾ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ
يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰۗىِٕكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۭ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ
عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿۱۷۲﴾ فَاَمَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَ
يَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا
فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ڏ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ
اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۷۳﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۗءَكُمْ بُرْهَانٌ
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿۱۷٤﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ
مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿۱۷۵﴾

وقف لازم ۲۳ ع ۳

۵۔ ضمیمہ ۱۲۲
٦۔ الاعراف ۲۰٦ اور الانبیاء ۱۹
۷۔ الروم ۱۵ اور الجاثیۃ ۳۰
۸۔ آل عمران ۵۷ اور فاطر ۳۰ نیز صرف «اُجُورَهُم» النسآء ۱۵۲ میں ہے۔
۹۔ الشوری ۲٦ جبکہ النور ۳۸ اور فاطر ۳۰ میں (دَ) پر زبر ہے۔
۱۰۔ ضمیمہ ۱۹
۱۱۔ الاحزاب ۱۷ نیز ضمیمہ ۱۲۵
۱۲۔ النسآء ۱۷۰ نیز ضمیمہ ۱٦

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۷٦﴾

سُوْرَةُ الْمَآئِدَةِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّسِتَّةَ عَشَرَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿۱﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲﴾

۴۔ ضمیمہ ۷۲
۵۔ ضمیمہ ۹۴
٦۔ ضمیمہ ۴۷
۷۔ صرف یہیں نیز الحج ۳۰
۸۔ صرف یہیں نیز المآئدۃ ۹۵
۹۔ صرف یہیں نیز الحج ۲۴ ، ۱۴ اور الزمر ۳
۱۰۔ ضمیمہ ۴۷
۱۱۔ صرف یہیں نیز المآئدۃ ۹۷
۱۲۔ صرف یہیں نیز الفتح ۲۹ اور الحشر ۸ ، البقرۃ ۱۹۸ ، الاسرآء ۱۲ ، الدخان ۵۷ اور الحجرات ۸

ع ۲۴ ٤

۱۳۔ صرف یہیں نیز المآئدۃ ۸ ۱۴۔ ضمیمہ ٦٤ ۱۵۔ الحشر ۷ جبکہ «اَنَّ اللّٰهَ» کیساتھ البقرۃ ۱۹٦ ، المآئدۃ ۹۸ و الانفال ۲۵ میں ، «فَاِنَّ اللّٰهَ» کیساتھ البقرۃ ۲۱۱ ، الانفال ۱۳ و الحشر ٤ میں ، «وَاللّٰهُ» کیساتھ آل عمران ۱۱ و الانفال ٤۸ میں نیز الانفال ۵۲ ، البقرۃ ۱٦۵ ، الرعد ٦ اور المؤمن ۲۲

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

ع ۱

۳۔ البقرۃ ۱۵۰
۴۔ ضمیمہ ۶۶
۵۔ ضمیمہ ۶۴
۶۔ آل عمران ۱۹۹، ابراھیم ۵۱ اور المومن ۱۷
۷۔ الممتحنۃ ۱۰
۸۔ النسآء ۲۴
۹۔ النسآء ۲۵
۱۰۔ آل عمران ۸۵

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا
وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ
وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۭ
وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰي سَفَرٍ اَوْ جَاۗءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ
الْغَاۗىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۗءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۗءً فَتَيَمَّمُوْا
صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۭ مَا
يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ وَاذْكُرُوْا
نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ
قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ
بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ
لِلّٰهِ شُهَدَاۗءَ بِالْقِسْطِ ۡ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلٰٓي اَلَّا تَعْدِلُوْا ۭ اِعْدِلُوْا ۣ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۡ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

نیز ضمیمہ ۷۸
٥۔ البقرة ۲۸٥ اور النور ٥۱ نیز البقرة ۹۳ اور النسآء ٤٦
٦۔ ضمیمہ ٦٤
۷۔ آل عمران ۱۱۹ اور لقمان ۲۳ نیز آل عمران ۱٥٤ اور التغابن ٤
۸۔ ضمیمہ ٤۷
۹۔ النسآء ۱۳٥
۱۰۔ المآئدة ۲
۱۱۔ ضمیمہ ٦٤
۱۲۔ النور ٥۳ اور الحشر ۱۸
۱۳۔ الفتح ۲۹ نیز النور ٥٥ میں «منکم» زائد ہے.
۱٤۔ الحجرات ۳

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝۱۰ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝۱۱ وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۭ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ۭ لَىِٕنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْھٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاۗءَ السَّبِيْلِ ۝۱۲ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰي خَاۗىِٕنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝۱۳

ع ۲

فاطر ۳ نیز ضمیمہ ۴۷
٤۔ ضمیمہ ۷۸
۵۔ ضمیمہ ٦٤
٦۔ ضمیمہ ۱۱۰
۷۔ آل عمران ۱۹۵
۸۔ ضمیمہ ۲۱
۹۔ البقرۃ ۱۰۸ اور الممتحنۃ ۱
۱۰۔ النسآء ۱۵۵
۱۱۔ النسآء ٤٦ اور المآئدۃ ٤۱
۱۲۔ المآئدۃ ۱٤
۱۳۔ البقرۃ ۱۹۵

وَ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ
فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ
الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَ سَوْفَ
يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿۱۴﴾ يٰٓاَهْلَ
الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا
مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَعْفُوْا عَنْ
كَثِيْرٍ ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ
مُّبِيْنٌ ﴿۱۵﴾ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ
سُبُلَ السَّلٰمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ
بِاِذْنِهٖ وَ يَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۶﴾ لَقَدْ
كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ
قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ
يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ اُمَّهٗ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ
جَمِيْعًا ؕ وَ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ؕ
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۷﴾

٥۔ الشوریٰ ۳۰ نیز «وَيَعْفُ» الشوریٰ ۳٤ میں ہے۔
٦۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱٤۸
۷۔ ضمیمہ ۸۸
۸۔ ضمیمہ ٥٦
۹۔ المآئدۃ ۷۲ اور ۷۳
۱۰۔ الفتح ۱۱
۱۱۔ المآئدۃ ۱۸ نیز ضمیمہ ۱۱٥
۱۲۔ ضمیمہ ۲۲۹
۱۳۔ ضمیمہ ۹٦

۱۔ صرف یہیں نیز البقرة ۱۱۳ ، المآئدة ٦٤ اور التوبة ۳۰ ۲۔ آل عمران ۱۲۹ اور الفتح ١٤ نیز البقرة ٢٨٤ ، المآئدة ٤٠ اور العنكبوت ٢١

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۫ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۸﴾ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۫ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۹﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖۗ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۰﴾ يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿۲۱﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖۗ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿۲۲﴾ قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ۬ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۲۳﴾

ع ۳ / ۸ / ۷

۳۔ صرف یہیں نیز المآئدة ۱۷ ، المؤمن ۳ ، الشوری ۱۵ ، التغابن ۳ اور ضمیمہ ۱۱۵

٤۔ خیال سے پڑھیے نیز المآئدة ١٥ اور ضمیمہ ۱۰۳

٥۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۹٦

٦۔ صرف یہیں نیز ابراہیم ٦ اور ضمیمہ ۳٤ و ۷۸

۷۔ صرف یہیں نیز البقرة ۱۸۷ اور التوبة ٥١

۸۔ آل عمران ١٤٩

۹۔ المآئدة ٢٤ ، الاعراف ۱۱٥ ، ۱۳٤ و ۱۳۸ اور طه ٦٥ نیز الاعراف ١٤٤ اور القصص ۱۹ و ۲۰

۱۰۔ صرف یہیں نیز النسآء ٦۹ ، مریم ٥۸ ، النسآء ۷۲ اورالاحزاب ۳۷ ۱۱۔ صرف یہیں نیز یونس ۸٤ اور ضمیمہ ٤٥

قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَاۤ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ
اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿۲۴﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ
لَاۤ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَ اَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ
الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۵﴾ قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ
يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۶﴾ ع
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ
مِنْ اَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ
اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۲۷﴾ لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ
لِتَقْتُلَنِىْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّىْۤ اَخَافُ
اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾ اِنِّىْۤ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْۤاَ بِاِثْمِىْ وَ اِثْمِكَ
فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۹﴾ ۚ
فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۳۰﴾
فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ
سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ يٰوَيْلَتٰۤى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا
الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ﴿۳۱﴾ ۛۚ

۴۔ الحشر ۱۷

۵۔ خیال سے پڑھیے ملتے جلتے الفاظ آگے اسی آیت میں آرہے ھیں .

۶۔ خیال رھے کہ ملتے جلتے الفاظ اسی آیت میں اوپر گذر چکے ھیں.

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۡ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿۳۲﴾ اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْۤا اَوْ يُصَلَّبُوْۤا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۳۳﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۴﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۳۵﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۳۶﴾

معانقۃ عند المتاخرین ۔ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم

۵۔ ضمیمہ ۴۷ اور ۹۳
۶۔ ضمیمہ ۶۵
۷۔ ضمیمہ ۷
۸۔ الرعد ۱۸ اور الزمر ۴۷
۹۔ ضمیمہ ۱۰

ع ۵ ۸ ۹

يُرِيدُونَ اَنْ يَّخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ
مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿۳۷﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا
اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ ﴿۳۸﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ
يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۹﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ
يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۴۰﴾ يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا
يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا
اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ
هَادُوْا ۛۚ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ
يَاْتُوْكَ ؕ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ
اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ
وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ
فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ ۚۖ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۴۱﴾

۵۔ العنکبوت ۲۱
٦۔ ضمیمه ٩٦
۷۔ المآئدة ٦٧ نیز ضمیمه ۱۷٦
۸۔ آل عمران ۱۷٦
۹۔ النسآء ٤٦
۱۰۔ المآئدة ٤٢
۱۱۔ النسآء ٤٦ اور المآئدة ۱۳
۱۲۔ ضمیمه ۱۳
۱۳۔ البقرة ۱۱٤ اور المآئدة ۳۳

۱۔ المآئدۃ ۴۱ ۔ ۲۔ اسی آیت میں مزید ایک بار نیز المآئدۃ ۴۸ ۔ ۳۔ اسی آیت میں ایک بار گذر چکا نیز المآئدۃ ۴۸ ۔ ۴۔ الحجرات ۹ اور الممتحنۃ ۸ ۔ ۵۔ النور ۴۷ ۔ ۶۔ المآئدۃ ۶۳ ۔ ۷۔ البقرۃ ۴۱ ۔ ۸۔ ضمیمہ ۲۹ ۔ ۹۔ المآئدۃ ۴۵ اور ۴۷ ۔ ۱۰۔ المآئدۃ ۴۴ اور ۴۷ ۔ ۱۱۔ ضمیمہ ۷۷

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ
بَیْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَ اِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَّضُرُّوْكَ
شَیْـًٔا ؕ وَ اِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ
الْمُقْسِطِیْنَ ﴿۴۲﴾ وَ كَیْفَ یُحَكِّمُوْنَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ
فِیْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَ مَاۤ اُولٰٓىِٕكَ
بِالْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۴۳﴾ اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِیْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ ۚ
یَحْكُمُ بِهَا النَّبِیُّوْنَ الَّذِیْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِیْنَ هَادُوْا وَ
الرَّبّٰنِیُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ
وَ كَانُوْا عَلَیْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ
وَ لَا تَشْتَرُوْا بِاٰیٰتِیْ ثَمَنًا قَلِیْلًا ؕ وَ مَنْ لَّمْ یَحْكُمْ بِمَاۤ
اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۴۴﴾ وَ كَتَبْنَا عَلَیْهِمْ
فِیْهَاۤ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْاَنْفَ
بِالْاَنْفِ وَ الْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَ الْجُرُوْحَ
قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَ مَنْ
لَّمْ یَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۴۵﴾

ع ۶ / ۹ / ۱۰

وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ وَّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً
لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ؕ وَمَنْ
لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَاَنْزَلْنَآ
اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ
اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ
مِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ
فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ
اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿٤٩﴾ اَفَحُكْمَ
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

ع ۷ ۱۱

اسی آیت میں ہے.
۳۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۹۷ ، آل عمران ۳ اور المآئدۃ ۴۸
۴۔ البقرۃ ۶۶ اور النور ۳۴ نیز آل عمران ۱۳۸ میں (ۃ) پر دو پیش آئے ہیں.
۵۔ المآئدۃ ۴۴ اور ۴۵
۶۔ آل عمران ۸۲ اور النور ۵۵
۷۔ البقرۃ ۹۷ ، آل عمران ۳ اور المآئدۃ ۴۶ جبکہ المآئدۃ ۴۶ کے دوسرے موقع میں (و) ابتداء میں شامل ہے.
۸۔ المآئدۃ ۴۲ میں دو بار.
۹۔ المآئدۃ ۴۹ اور الشوری ۱۵

۱۰۔ النحل ۹۳ اور الشوری ۸ نیز ضمیمہ ۱۴   ۱۱۔ البقرۃ ۱۴۸   ۱۲۔ الانعام ۱۶۴ اور الزمر ۷
۱۳۔ المآئدۃ ۴۸ اور الشوری ۱۵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ۘ
بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۱﴾ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ
قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ
تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ
فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَاۤ اَسَرُّوْا فِىْۤ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ﴿۵۲﴾ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْۤا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ
لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿۵۳﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ
يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز
يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ
فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۵۴﴾ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ
اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿۵۵﴾ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿۵۶﴾ ع

۴۔ الانعام ۱۴۴، القصص ۵۰ اور الاحقاف ۱۰ نیز ضمیمہ ۹۰
۵۔ ضمیمہ ۹
۶۔ الاعراف ۴۹ خیال رہے کہ یہاں «اَقْسَمُوا» کی ابتداء میں (و) نہیں ہے۔
۷۔ ضمیمہ ۴۷
۸۔ ذرا توجہ کیساتھ پڑھیے۔
۹۔ ضمیمہ ۱۰۵
۱۰۔ ضمیمہ ۸۳
۱۱۔ المآئدۃ ۵۶
۱۲۔ المآئدۃ ۵۵

۱۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۱۱۸ ، النسآء ۱۴۴ ، المآئدۃ ۵۱ ، التوبۃ ۲۳ ، الممتحنۃ ۱ اور ضمیمہ ۴۷ ۲۔ المآئدۃ ۵۸ ۳۔ ضمیمہ ۶۴ ۴۔ ضمیمہ ۴۵ ۵۔ المآئدۃ ۵۷ ۶۔ الحشر ۱۴ نیز التوبۃ ۶ ، الحشر ۱۳ ، الانفال ۶۵ اور التوبۃ ۱۲۷ ۷۔ ضمیمہ ۱۰۲ ۸۔ البقرۃ ۱۳۶ اور آل عمران ۸۴

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۵۷﴾ وَ اِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّ لَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿۵۸﴾ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۵۹﴾ قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿۶۰﴾ وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ﴿۶۱﴾ وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۶۲﴾ لَوْلَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿۶۳﴾

۹۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۱۱۰ اور التوبۃ ۸
۱۰۔ صرف یہیں نیز الکہف ۱۰۳ اور الشعرآء ۲۲۱
۱۱۔ صرف یہیں نیز النسآء ۹۳ اور ۱۱۸
۱۲۔ صرف یہیں نیز الفرقان ۳۴
۱۳۔ صرف یہیں نیز المآئدۃ ۷۷
۱۴۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۱۴ و ۷۶ ، آل عمران ۱۱۹ اور المآئدۃ ۱۱۱
۱۵۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۱۶۷

۱۶۔ صرف یہیں نیز المآئدۃ ۸۰ ۱۷۔ المآئدۃ ۶۳ ۱۸۔ صرف یہیں نیز المآئدۃ ۶۳ اور المآئدۃ ۷۹
۱۹۔ صرف یہیں نیز المآئدۃ ۴۴ ۲۰۔ المآئدۃ ۶۲ ۲۱۔ صرف یہیں نیز المآئدۃ ۶۲

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا
قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا
مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا
لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا
التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن
فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ
مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ
مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ قُلْ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا
أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ
مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

۴۔ صرف یہیں نیز القصص ۷۷
۵۔ البقرۃ ۱۰۳ اور الاعراف ۹۶
۶۔ المآئدۃ ۶۸
۷۔ العنکبوت ۵۵
۸۔ المآئدۃ ۴۱ نیز ضمیمہ ۱۷۶
۹۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۲۶۴ اور التوبۃ ۳۷
۱۰۔ ضمیمہ ۱۰۲ اور ۱۰۳
۱۱۔ المآئدۃ ۶۶
۱۲۔ المآئدۃ ۶۴ اور الکہف ۸۰

صفحہ نمبر ۱۲۱ ۔ ۱۔ البقرة ٦٢ اور الحج ١٧ ۔ ٢۔ ضميمه ٣٧ ۔ ٣۔ البقرة ٦٢ ۔ ٤۔ ضميمه ٢٤

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ
اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ
رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا
وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ
تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا
يَعْمَلُوْنَ ﴿٧١﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ
وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ
مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَ
مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ
ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ
لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾ اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى
اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا
رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ
الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٧٥﴾

٥۔ البقرة ٨٣
٦۔ البقرة ٨٧
٧۔ البقرة ٩٦ اور آل عمران ١٦٣ نيز الحجرات ١٨
٨۔ المآئدة ١٧ اور ٧٣
٩۔ المآئدة ١١٧
١٠۔ صرف یہیں نیز آل عمران ١٥١، یونس ٨، النور ٥٧ اور السجدة ٢٠ نيز العنكبوت ٢٥ بھی۔
١١۔ البقرة ٢٧٠ اور آل عمران ١٩٢ نيز الحج ٧١ اور فاطر ٣٧
١٢۔ المآئدة ١٧ اور ٧٢

١٣۔ ضميمه ٧١ ۔ ١٤۔ آل عمران ١٤٤ ۔ ١٥۔ ضميمه ١٢٠ ۔ ١٦۔ التوبة ٣٠ اور المنافقون ٤

قُلۡ اَتَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرًّا وَّلَا نَفۡعًا ؕ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ ﴿۷۶﴾ قُلۡ يٰۤاَهۡلَ الۡكِتٰبِ لَا تَغۡلُوۡا فِىۡ دِيۡنِكُمۡ غَيۡرَ الۡحَـقِّ وَلَا تَتَّبِعُوۡۤا اَهۡوَآءَ قَوۡمٍ قَدۡ ضَلُّوۡا مِنۡ قَبۡلُ وَاَضَلُّوۡا كَثِيۡرًا وَّضَلُّوۡا عَنۡ سَوَآءِ السَّبِيۡلِ ﴿۷۷﴾ لُعِنَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡۢ بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيۡسَى ابۡنِ مَرۡيَمَ ؕ ذٰ لِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوۡا يَعۡتَدُوۡنَ ﴿۷۸﴾ كَانُوۡا لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَنۡ مُّنۡكَرٍ فَعَلُوۡهُ ؕ لَبِئۡسَ مَا كَانُوۡا يَفۡعَلُوۡنَ ﴿۷۹﴾ تَرٰى كَثِيۡرًا مِّنۡهُمۡ يَتَوَلَّوۡنَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا ؕ لَبِئۡسَ مَا قَدَّمَتۡ لَهُمۡ اَنۡفُسُهُمۡ اَنۡ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ وَفِى الۡعَذَابِ هُمۡ خٰلِدُوۡنَ ﴿۸۰﴾ وَلَوۡ كَانُوۡا يُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِىِّ وَمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡهِ مَا اتَّخَذُوۡهُمۡ اَوۡلِيَآءَ وَلٰـكِنَّ كَثِيۡرًا مِّنۡهُمۡ فٰسِقُوۡنَ ﴿۸۱﴾ لَـتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيۡنَ اٰمَنُوا الۡيَهُوۡدَ وَالَّذِيۡنَ اَشۡرَكُوۡا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقۡرَبَهُمۡ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيۡنَ اٰمَنُوا الَّذِيۡنَ قَالُوۡۤا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰ لِكَ بِاَنَّ مِنۡهُمۡ قِسِّيۡسِيۡنَ وَرُهۡبَانًا وَّاَنَّهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ﴿۸۲﴾

ع ۱۱ / ۱۰ / ۱٤

سبا ٤٢ میں نَفۡعًا وَّلَا ضَرًّا ہے۔
٣۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ٥٥
٤۔ ضمیمہ ١٠٢ اور ١٠٣
٥۔ النسآء ١٧١
٦۔ المآئدۃ ٦٠
٧۔ البقرۃ ٦١ اور آل عمران ١١٢
٨۔ المطففین ٣٦ نیز المآئدۃ ٦٢ اور ٦٣
٩۔ المآئدۃ ٦٢
١٠۔ التوبۃ ١٧
١١۔ یہاں اس آیت میں پہلی بار۔
١٢۔ یہاں اس آیت میں مکرر۔

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ
تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا
مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾
فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَ
اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ
بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

۵۔ ضمیمہ ۲۵ اور ۲۶
۶۔ المآئدة ۱۰، الحج ۵۱ اور الحدید ۱۹
۷۔ ضمیمہ ۴۷
۸۔ البقرة ۱۹۰
۹۔ البقرة ۱۶۸، الانفال ۶۹ اور النحل ۱۱۴
۱۰۔ الممتحنة ۱۱ نیز ضمیمہ ۶۴ اور ۱۱۶
۱۱۔ البقرة ۲۲۵
۱۲۔ البقرة ۱۹۶، النسآء ۹۲ اور المجادلة ۴
۱۳۔ ضمیمہ ۷۲
۱۴۔ ضمیمہ ۳۲

۱۔ ضمیمہ ۴۷ ۲۔ ضمیمہ ۶۵ ۳۔ المآئدة ۱۴ و ۶۴ اور الممتحنة ۴ ۴۔ التغابن ۱۲ نیز النسآء ۵۹ و محمد ۳۳ اور النور ۵۴ ۵۔ التغابن ۱۲ ۶۔ آل عمران ۱۳۴ اور ۱۴۸ ۷۔ ضمیمہ ۴۷ ۸۔ الحدید ۲۵ ۹۔ البقرة ۱۷۸ ۱۰۔ ضمیمہ ۴۷ ۱۱۔ المآئدة ۱ ۱۲۔ النسآء ۹۳ ۱۳۔ المآئدة ۱۰۶

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝۹۰ اِنَّمَا
يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَ
الْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۝۹۱
وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا
عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝۹۲ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝۹۳ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَ
رِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ
فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۹۴ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ
حُرُمٌ ۭ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًۢا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ
مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ۭ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا
سَلَفَ ۭ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝۹۵

ع ۱۲ / ۷ / ۲

۱۴۔ آل عمران ۴ نیز «انّ اللّٰہ» کیساتھ ابراهیم ۴۷ میں ہے۔

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ
عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اِلَيْهِ
تُحْشَرُوْنَ ﴿۹۶﴾ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ
وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ؕ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيْمٌ ﴿۹۷﴾ اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿۹۸﴾ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ
وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿۹۹﴾ قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ
اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۰﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ
تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ
لَكُمْ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۰۱﴾ قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ
مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾ مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ
بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۰۳﴾

۵۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۹٤
٦۔ البقرۃ ۱۹٦ اور الانفال ۲۵
۷۔ المآئدۃ ۳٤
۸۔ البقرۃ ۳۳ اور النور ۲۹
۹۔ ضمیمہ ۹۸
۱۰۔ ضمیمہ ٦۵
۱۱۔ ضمیمہ ٤۷
۱۲۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۱۲۰ اور التوبۃ ۵۰
۱۳۔ البقرۃ ۲۲۵ نیز آل عمران ۱۵۵
۱٤۔ یونس ٦۰ و ٦۹ اور النحل ۱۱٦
۱۵۔ الحجرات ٤

وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡا اِلٰى مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوۡلِ قَالُوۡا حَسۡبُنَا مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوۡ كَانَ اٰبَآؤُهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ شَيۡـئًا وَّلَا يَهۡتَدُوۡنَ ﴿۱۰۴﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا عَلَيۡكُمۡ اَنۡفُسَكُمۡ‌ ۚ لَا يَضُرُّكُمۡ مَّنۡ ضَلَّ اِذَا اهۡتَدَيۡتُمۡ‌ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيۡعًا فَيُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۰۵﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا شَهَادَةُ بَيۡنِكُمۡ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الۡمَوۡتُ حِيۡنَ الۡوَصِيَّةِ اثۡنٰنِ ذَوَا عَدۡلٍ مِّنۡكُمۡ اَوۡ اٰخَرٰنِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ اِنۡ اَنۡتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِى الۡاَرۡضِ فَاَصَابَتۡكُمۡ مُّصِيۡبَةُ الۡمَوۡتِ‌ ؕ تَحۡبِسُوۡنَهُمَا مِنۡۢ بَعۡدِ الصَّلٰوةِ فَيُقۡسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِىۡ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبٰى‌ ۙ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الۡاٰثِمِيۡنَ ﴿۱۰۶﴾ فَاِنۡ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسۡتَحَقَّاۤ اِثۡمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوۡمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيۡنَ اسۡتَحَقَّ عَلَيۡهِمُ الۡاَوۡلَيٰنِ فَيُقۡسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ مِنۡ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعۡتَدَيۡنَاۤ ‌ۖ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۱۰۷﴾ ذٰلِكَ اَدۡنٰٓى اَنۡ يَّاۡتُوۡا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجۡهِهَاۤ اَوۡ يَخَافُوۡۤا اَنۡ تُرَدَّ اَيۡمَانٌۢ بَعۡدَ اَيۡمَانِهِمۡ‌ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسۡمَعُوۡا‌ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهۡدِى الۡقَوۡمَ الۡفٰسِقِيۡنَ ﴿۱۰۸﴾ ع

٣۔ ضمیمہ ٤٧
٤۔ ضمیمہ ١٣٠
٥۔ ضمیمہ ٤٧
٦۔ البقرۃ ١٨٠ اور المنافقون ١٠ نیز النسآء ١٨ میں «احدهم الموت» ہے۔
٧۔ المآئدۃ ٩٥
٨۔ المآئدۃ ١٠٧
٩۔ الانعام ١٥٢ اور فاطر ١٨
١٠۔ المآئدۃ ١٠٧
١١۔ المآئدۃ ١٠٦
١٢۔ المآئدۃ ١٠٦ نیز یوسف ٧٩
١٣۔ النسآء ٣ اور الاحزاب ٥١ و ٥٩
١٤۔ ضمیمہ ٦٤
١٥۔ التوبۃ ٢٤ و ٨٠ اور الصف ٥ نیز «اِنَّ اللّٰہ» کیساتھ المنافقون ٦ ١٤ میں ہے۔

صفحہ نمبر ۱۲۷ ۱۔ خیال سے پڑھیے یہاں «سبحانك» نہیں ہے جبکہ «سبحانك» کیساتھ البقرة ۳۲ میں ہے.
۲۔ المآئدة ۱۱٦ نیز التوبة ۷۸ اور سبا ٤۸ ۳۔ خیال سے پڑھیے صرف یہیں نیز آل عمران ۵۵ ، المآئدة ۱۱٦ اور الصف ٦

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ط قَالُوْا لَا عِلْمَ
لَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿۱۰۹﴾ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ م اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ
الْقُدُسِ قف تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ج وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ج وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ
كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا م بِاِذْنِيْ وَ
تُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ج وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ج
وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۱۰﴾ وَ
اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ج قَالُوْٓا
اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۱۱﴾ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ
يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ
عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ط قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۲﴾ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا
وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۱۱۳﴾

٤۔ البقرة ۸۷ و ۲۵۳ نیز النحل ۱۰۲
۵۔ صرف یہیں نیز آل عمران ٤٦
٦۔ صرف یہیں نیز آل عمران ٤۸
۷۔ خیال سے پڑھیے یہاں «باذنی» استعمال ہوا ہے نیز آل عمران ٤۹
۸۔ صرف یہیں نیز ہود ۲۷ ، المؤمنون ۲٤ اور ضمیمہ ۱۹٤
۹۔ ضمیمہ ۱۳۱
۱۰۔ البقرة ۱٤ و ۷٦ ، آل عمران ۱۱۹ ، المآئدة ٤۱ و ٦۱، الاعراف ۱۲۱ ، طه ۷۰ ، الشعرآء ٤۷ ، القصص ۵۳ اور المؤمن ۸٤ نیز البقرة ۱۳٦ ، آل عمران ۸٤ اور سبا ۵۲
۱۱۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۵۲ میں «واشهد باَنّا» اور آل عمران ٦٤ میں «فقولوا اشهدوا باَنّا» کیساتھ ہے.
۱۲۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۵۲ اور الصف ۱٤
۱۳۔ صرف یہیں نیز المآئدة ۱۱٤
۱٤۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ٦٤
۱۵۔ ضمیمہ ٤۵

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿۱۱۴﴾ قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۱۵﴾ ع

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ ۚ بِحَقٍّ ۗ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ۚ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿۱۱۶﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ﴿۱۱۷﴾ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۱۸﴾ قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۱۹﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۲۰﴾ ع

وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم

۱۰۹ نیز التوبة ۷۸ اور سبا ٤۸
٦۔ المآئدة ۷۲
۷۔ ضمیمہ ۲۱
۸۔ ضمیمہ ۱۲۱
۹۔ التوبة ۱۰۰، المجادلة ۲۲ اور البینة ۸
۱۰۔ ضمیمہ ۱۳۳
۱۱۔ الشوری ٤۹
۱۲۔ ضمیمہ ۱۳٤

سُورَةُ الْاَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّخَمْسٌ وَّسِتُّونَ اٰيَةً وَّعِشْرُونَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۬ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ① هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ② وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ③ وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ④ فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑤ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ⑥ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ⑦ وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ⑧

۵۔ ضمیمہ ۱۳٦
٦۔ السجدۃ ۲٦ اور ص ۳ نیز ضمیمہ ۲۰۲
۷۔ صرف یہیں نیز «علیکم» کیساتھ دیکھیے ہود ۵۲ اور نوح ۱۱
۸۔ الانفال ۵٤
۹۔ المؤمنون ۳۱ اور ٤۲
۱۰۔ ضمیمہ ۱۳۱
۱۱۔ ضمیمہ ۱۳۷

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّ لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ۝۹ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝۱۰ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝۱۱ قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۱۲ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝۱۳ قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝۱۴ قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝۱۵ مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ۝۱۶ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۷ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝۱۸

آل عمران ۱۳۷، النحل ۳۶ اور الزخرف ۲۵
۳۔ ضمیمہ ۵۱
۴۔ الرعد ۱۶
۵۔ النسآء ۸۷ نیز ضمیمہ ۴
۶۔ ضمیمہ ۲۳۰
۷۔ ضمیمہ ۵۵
۸۔ الانعام ۱۶۴
۹۔ ابراھیم ۱۰ اور فاطر ۱
۱۰۔ الزمر ۱۱
۱۱۔ یونس ۱۰۵ اور القصص ۸۷
۱۲۔ یونس ۱۵ اور الزمر ۱۳
۱۳۔ صرف یہیں نیز الجاثیۃ ۳۰
۱۴۔ یونس ۱۰۷
۱۵۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۳۴
۱۶۔ الانعام ۶۱
۱۷۔ الانعام ۷۳ اور سبا ۱

قُلْ اَیُّ شَیْءٍ اَکْبَرُ شَهَادَةً ۭ قُلِ اللّٰهُ ۟ۙ شَهِیْدٌۢ بَیْنِیْ وَبَیْنَكُمْ
وَاُوْحِیَ اِلَیَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ؕ اَىِٕنَّكُمْ
لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰی ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا
هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝۱۹ اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ
الْكِتٰبَ یَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا یَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِیْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ
فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝۲۰ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ
كَذَّبَ بِاٰیٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝۲۱ وَیَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیْعًا
ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِیْنَ اَشْرَكُوْۤا اَیْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِیْنَ كُنْتُمْ
تَزْعُمُوْنَ ۝۲۲ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا
مُشْرِكِیْنَ ۝۲۳ اُنْظُرْ كَیْفَ كَذَبُوْا عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا
كَانُوْا یَفْتَرُوْنَ ۝۲۴ وَمِنْهُمْ مَّنْ یَّسْتَمِعُ اِلَیْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰی
قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ یَّفْقَهُوْهُ وَفِیْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ یَّرَوْا كُلَّ
اٰیَةٍ لَّا یُؤْمِنُوْا بِهَا ؕ حَتّٰۤی اِذَا جَآءُوْكَ یُجَادِلُوْنَكَ یَقُوْلُ الَّذِیْنَ
كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ۝۲۵ وَهُمْ یَنْهَوْنَ عَنْهُ
وَیَنْــَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَاِنْ یُّهْلِكُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُوْنَ ۝۲۶

۴۔ ضمیمہ ۱۳۸
۵۔ الانعام ۱۳۵ ، یوسف ۲۳ اور القصص ۳۷
۶۔ یونس ۲۸
۷۔ ضمیمہ ۱۲۰
۸۔ ضمیمہ ۱۳۹
۹۔ محمد ۱۶
۱۰۔ الاسرآء ۴۶ اور الکہف ۵۷
۱۱۔ الاعراف ۱۴۶ نیز ضمیمہ ۱۴۰
۱۲۔ ضمیمہ ۱۴۱
۱۳۔ البقرة ۹ اور آل عمران ۶۹

وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲۷﴾ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۲۸﴾ وَقَالُوْٓا اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿۲۹﴾ وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ؕ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۳۰﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿۳۱﴾ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۳۲﴾ قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۳۴﴾

ع ۳ / ۱۰ / ۹

۵۔ الانعام ۲۷
۶۔ الاحقاف ۳۴
۷۔ آل عمران ۱۰۶، الانفال ۳۵ اور الاحقاف ۳۴
۸۔ الانعام ۱۴۰ اور یونس ۴۵
۹۔ النحل ۲۵
۱۰۔ محمد ۳۶ اور الحدید ۲۰ نیز العنکبوت ۶۴ میں «لہو» پہلے ہے۔
۱۱۔ الاعراف ۱۶۹ اور یوسف ۱۰۹
۱۲۔ ضمیمہ ۳۱

وَاِنۡ كَانَ كَبُرَ عَلَيۡكَ اِعۡرَاضُهُمۡ فَاِنِ اسۡتَطَعۡتَ اَنۡ تَبۡتَغِىَ نَفَقًا فِى الۡاَرۡضِ اَوۡ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاۡتِيَهُمۡ بِاٰيَةٍ‌ ؕ وَلَوۡ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمۡ عَلَى الۡهُدٰى فَلَا تَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡجٰهِلِيۡنَ ﴿۳۵﴾ اِنَّمَا يَسۡتَجِيۡبُ الَّذِيۡنَ يَسۡمَعُوۡنَ ؕ وَالۡمَوۡتٰى يَبۡعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيۡهِ يُرۡجَعُوۡنَ ﴿۳۶﴾ وَقَالُوۡا لَوۡلَا نُزِّلَ عَلَيۡهِ اٰيَةٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ‌ ؕ قُلۡ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنۡ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰـكِنَّ اَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۳۷﴾ وَمَا مِنۡ دَآبَّةٍ فِى الۡاَرۡضِ وَلَا طٰۤـئِرٍ يَّطِيۡرُ بِجَنَاحَيۡهِ اِلَّاۤ اُمَمٌ اَمۡثَالُكُمۡ‌ ؕ مَا فَرَّطۡنَا فِى الۡكِتٰبِ مِنۡ شَىۡءٍ‌ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُوۡنَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكۡمٌ فِى الظُّلُمٰتِ‌ ؕ مَنۡ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضۡلِلۡهُ ؕ وَمَنۡ يَّشَاۡ يَجۡعَلۡهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ﴿۳۹﴾ قُلۡ اَرَءَيۡتَكُمۡ اِنۡ اَتٰٮكُمۡ عَذَابُ اللّٰهِ اَوۡ اَتَتۡكُمُ السَّاعَةُ اَغَيۡرَ اللّٰهِ تَدۡعُوۡنَ‌ ۚ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ﴿۴۰﴾ بَلۡ اِيَّاهُ تَدۡعُوۡنَ فَيَكۡشِفُ مَا تَدۡعُوۡنَ اِلَيۡهِ اِنۡ شَآءَ وَتَنۡسَوۡنَ مَا تُشۡرِكُوۡنَ ﴿۴۱﴾ وَلَقَدۡ اَرۡسَلۡنَاۤ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنۡ قَبۡلِكَ فَاَخَذۡنٰهُمۡ بِالۡبَاۡسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمۡ يَتَضَرَّعُوۡنَ ﴿۴۲﴾ فَلَوۡلَاۤ اِذۡ جَآءَهُمۡ بَاۡسُنَا تَضَرَّعُوۡا وَلٰـكِنۡ قَسَتۡ قُلُوۡبُهُمۡ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيۡطٰنُ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۴۳﴾

ع ۱۱ ٤ ۱۰

٤۔ الزخرف ۳۱ نیز ضمیمہ ۱۳۷
۵۔ ضمیمہ ۱٤۳
٦۔ ھود ٦
۷۔ ضمیمہ ۱٤٤
۸۔ ضمیمہ ۱٤۵
۹۔ الانعام ٤۷ نیز ضمیمہ ۱٤٦
۱۰۔ ضمیمہ ۲۰
۱۱۔ النحل ٦۳
۱۲۔ الاعراف ۹٤ نیز المومنون ۷٦
۱۳۔ النحل ۲٤ اور العنکبوت ۳۸ نیز النحل ٦۳ میں «فزین» کیساتھ ھے۔
۱٤۔ ضمیمہ ۱۲۹

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿۴۴﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۵﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ﴿۴۶﴾ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۴۷﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۴۸﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿۴۹﴾ قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۵۰﴾ ع وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿۵۱﴾

۴۔ ضمیمہ ۱۲۰
۵۔ الانعام ۴۰ نیز ضمیمہ ۱۴۶
۶۔ الکہف ۵۶
۷۔ البقرہ ۲۱۳، النسآء ۱۶۵ اور الکہف ۵۶
۸۔ ضمیمہ ۲۴
۹۔ ضمیمہ ۱۴۴
۱۰۔ ضمیمہ ۲۲۷
۱۱۔ ہود ۳۱
۱۲۔ یونس ۱۵ اور الاحقاف ۹
۱۳۔ الرعد ۱۶، فاطر ۱۹ اور المؤمن ۵۸
۱۴۔ الانعام ۷۰
۱۵۔ ضمیمہ ۶۳

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۲﴾ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿۵۳﴾ وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۵۴﴾ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۵۵﴾ قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿۵۶﴾ قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ﴿۵۷﴾ قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۸﴾

۵۔ الاعراف ۱۷٤
٦۔ المؤمن ٦٦ نیز ضمیمہ ۱۹
۷۔ یوسف ٤۰ اور ٦۷
۸۔ صرف یہیں نیز البقرة ۹۵ و ۲٤٦ نیز التوبة ٤۷ اورالجمعة ۷

ع ۶ ۱۲

۵۔ المؤمنون ۹۹
۶۔ یونس ۲۲
۷۔ ضمیمہ ۱۲۰
۸۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۵۶

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ۭ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۭ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا
رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝۵۹ وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ
بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ
مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۶۰ وَ
هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءَ
اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ۝۶۱ ثُمَّ رُدُّوْٓا
اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ۭ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۣ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ۝۶۲ قُلْ
مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ
لَىِٕنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝۶۳ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ
مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۝۶۴ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓي
اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ
يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۭ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ
الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ۝۶۵ وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۭ قُلْ
لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝۶۶ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۡ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝۶۷

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ
شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ
لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا
كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ
عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ
مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَنَدْعُو مِنْ
دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا
اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ
يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا
لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ
يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾

ع ۸ / ۱۰ / ۱۴ — النصف

۶۔ الانعام ۵۱
۷۔ ضمیمہ ۱۳
۸۔ یونس ۴
۹۔ ضمیمہ ۱۹
۱۰۔ البقرة ۱۲۰ اور آل عمران ۷۳
۱۱۔ طه ۱۰۲ اور النبا ۱۸
۱۲۔ ضمیمہ ۱۴۹
۱۳۔ الانعام ۱۸ اور سبا ۱

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۷۴﴾ وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ﴿۷۵﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿۷۶﴾ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿۷۷﴾ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿۷۸﴾ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۷۹﴾ وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ۚ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ۚ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْـًٔا ۚ وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۸۰﴾ وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ۚ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۱﴾

وقف لازم

۵۔ الانعام ۷٦ اور ۷۷
٦۔ الانعام ۱۹، التوبۃ ۳ اور ہود ۵٤
۷۔ یوسف ۱۰۸ نیز ضمیمہ ۵٤
۸۔ الاعراف ۸۹
۹۔ السجدۃ ٤ نیز المومن ۵۸
۱۰۔ آل عمران ۱۵۱، الاعراف ۳۳ اور الحج ۷۱
۱۱۔ ضمیمہ ٦۲

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ

الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۸۲﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ

عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۸۳﴾

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ

قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَ

مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۸٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَ

يَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۸٥﴾ وَاِسْمٰعِيْلَ

وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۸٦﴾ وَمِنْ

اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۸۷﴾ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ

عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۸۸﴾ اُولٰٓئِكَ

الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ

بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿۸۹﴾

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ

اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۰﴾

٤۔ یوسف ۲۲ اور القصص ۱٤ نیز الصافات ۱۱۰ اور ضمیمہ ۲۱۷
٥۔ صرف یہیں نیز الرعد ۲۳ اور المؤمن ۸
٦۔ ضمیمہ ٥٦
۷۔ الزمر ۲۳
۸۔ ضمیمہ ۱۲۹
۹۔ ضمیمہ ۱۳
۱۰۔ الزمر ۱۸ نیز ضمیمہ ۱۳
۱۱۔ الشوری ۲۳
۱۲۔ «ذِکرٰی» میں (ر) کھڑے زبر کیساتھ صرف یہیں نیز یوسف ۱۰٤ ، ص ۸۷ ، القلم ٥۲ اور التکویر ۲۷

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَیْءٍؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِیْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّ هُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِیْسَ تُبْدُوْنَهَا وَ تُخْفُوْنَ كَثِیْرًاۚ وَ عُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَ لَاۤ اٰبَآؤُكُمْؕ قُلِ اللّٰهُۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ ﴿۹۱﴾ وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَاؕ وَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ یُحَافِظُوْنَ ﴿۹۲﴾ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِیَ اِلَیَّ وَ لَمْ یُوْحَ اِلَیْهِ شَیْءٌ وَّ مَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُؕ وَ لَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِیْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ بَاسِطُوْۤا اَیْدِیْهِمْۚ اَخْرِجُوْۤا اَنْفُسَكُمْؕ اَلْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَیْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ اٰیٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۹۳﴾ وَ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ تَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْۚ وَ مَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِیْكُمْ شُرَكٰٓؤُاؕ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَیْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۹۴﴾ ع ۱۱ / ۱۷

۵۔ المؤمنون ۹ اور المعارج ۳۴
۶۔ ضمیمہ ۱۳۸
۷۔ سبا ۳۱ نیز ضمیمہ ۱۴۲
۸۔ الاحقاف ۲۰
۹۔ الکہف ۴۸

۱۔آل عمران ۲۷، یونس ۳۱ اور الروم ۱۹ خیال رہے کہ یہاں دونوں جگہ «مَیِّتِ» کی (ت) کے نیچے زیر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انْظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

ع ۱۲ ۶ ۱۸

۲۔ یونس ۳۴، فاطر ۳ اور المومن ۶۲
۳۔ یس ۳۸ اور حم السجدۃ ۱۲
۴۔ الانعام ۹۸ و ۱۲۶
۵۔ الانعام ۹۷ و ۱۲۶
۶۔ ضمیمہ ۱۸
۷۔ طہ ۵۳ اور فاطر ۲۷ نیز البقرۃ ۲۲ اور ابراھیم ۳۲
۸۔ الرعد ۴
۹۔ الانعام ۱۴۱
۱۰۔صرف یہیں نیز ضمیمہ ۲۲۵ اور ۲۰۰
۱۱۔ الانعام ۱۳۶ اور الرعد ۱۶ و ۳۳
۱۲۔ البقرۃ ۱۱۷
۱۳۔ «کُل» کے (لَ) پرزبر ہے خیال سے پڑھیے۔

۱۴۔ البقرۃ ۲۹ اور الحدید ۳ نیز یٰسٓ ۷۹ میں «خلق» کیساتھ ہے۔

۱۔ صرف یہیں نیز المؤمن ۶۲ اور ضمیمہ ۱۵۱ و ۵۹ ۲۔ صرف یہیں نیز الرعد ۱۶، الزمر ۶۲ اور المؤمن ۶۲ ۳۔ الزمر ۶۲ نیز هود ۱۲ ۴۔ الملك ۱۴ ۵۔ صرف یہیں نیز الاعراف ۲۰۳ ۶۔ هود ۸۶ ۷۔ صرف یہیں نیز الاعراف ۵۸ ۸۔ صرف یہیں نیز البقرة ۲۳۰ ۹۔ صرف یہیں نیز الاحزاب ۲ اور یونس ۱۰۹ ۱۰۔ ضمیمہ ۵۹ ۱۱۔ الحجر ۹۴ ۱۲۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۴ ۱۳۔ صرف یہیں نیز النسآء ۸۰ اور الشوری ۴۸ ۱۴۔ الزمر ۴۱ اور الشوری ۶ نیز یونس ۱۰۸ ۱۵۔ ضمیمہ ۱۹ ۱۶۔ صرف یہیں نیز الانعام ۱۳۷ ۱۷۔ صرف یہیں نیز الاعراف ۳۴، یونس ۴۷ و ۴۹ اور الحج ۳۴ و ۶۷ ۱۸۔ صرف یہیں نیز یونس ۷۰ ۱۹۔ صرف یہیں نیز الانعام ۶۰ اور ضمیمہ ۱۵۲

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿۱۰۲﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۫ وَهُوَ يُدْرِكُ
الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿۱۰۳﴾ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ
فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۭ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ
بِحَفِيْظٍ ﴿۱۰۴﴾ وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ
وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۵﴾ اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۰۶﴾ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ
اَشْرَكُوْا ۭ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيْلٍ ﴿۱۰۷﴾ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا
اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۭ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۠ ثُمَّ
اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۰۸﴾ وَاَقْسَمُوْا
بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۭ قُلْ
اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَآ اِذَا جَآءَتْ لَا
يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۰۹﴾ وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا
بِهٖٓ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۱۱۰﴾ ع ۱۳/۱۰/۱۹

۲۰۔ خیال سے پڑھیے یہاں «لئن جآء تهم» کیساتھ ہے نیز النحل ۳۸، النور ۵۳، فاطر ۴۲ اور المآئدة ۵۳
۲۱۔ العنکبوت ۵۰ نیز الملك ۲۶ و الاعراف ۱۸۷ ۲۲۔ خیال سے پڑھیے صرف یہیں یہاں «افئدتهم» میں (تَ) پر زبر ہے نیز پیش کیساتھ ابراھیم ۴۳ و الاحقاف ۲۶ میں ہے۔ ۲۳۔ صرف یہیں نیز الاسرآء ۷
۲۴۔ صرف یہیں نیز الاعراف ۱۸۶ اور ضمیمہ ۱۲

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿۱۱۱﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۱۲﴾ وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿۱۱۳﴾ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ؕ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿۱۱۴﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۱۵﴾ وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿۱۱۷﴾ فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۸﴾

۳۔ الانعام ۱۳۷
۴۔ البقرۃ ۱۴۷ اور یونس ۹۴
۵۔ الاعراف ۱۳۷ اور ہود ۱۱۹
۶۔ ضمیمہ ۵۵
۷۔ یونس ۶۶ اور النجم ۲۳ و ۲۸
۸۔ الانعام ۱۴۸ ، یونس ۶۶ اور الزخرف ۲۰
۹۔ ضمیمہ ۱۵۳
۱۰۔ النحل ۱۲۵ ، القصص ۵۶ اور القلم ۷ نیز النجم ۳۰
۱۱۔ الانعام ۱۱۹ و ۱۲۱

۴۔ الانعام ۱۳۸
۵۔ الانعام ۱۱۸ اور ۱۱۹
۶۔ یونس ۱۲
۷۔ ضمیمہ ۱۲۹
۸۔ الانعام ۱۱۲ اور الفرقان ۳۱
۹۔ التوبة ۹۰

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ
لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا
لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ
بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿۱۱۹﴾ وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ﴿۱۲۰﴾ وَلَا تَاْكُلُوْا
مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ
لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ
لَمُشْرِكُوْنَ ﴿۱۲۱﴾ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا
يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۲﴾ وَكَذٰلِكَ
جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ؕ وَمَا
يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۱۲۳﴾ وَاِذَا جَآءَتْهُمْ
اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ؔۘ
اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسٰلَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا
صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ﴿۱۲۴﴾

ع ۱۴ / ۱

وقف لازم / وقف منزل

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ
وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا
يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ۭ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۱۲۵ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۭ قَدْ فَصَّلْنَا
الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ۝۱۲۶ لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝۱۲۷ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ
اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ
اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ۭ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝۱۲۸ وَكَذٰلِكَ
نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝۱۲۹
يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ
يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ
هٰذَا ۭ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓي اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓي اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝۱۳۰

الفرقان ۱۷ میں «حمیعًا» کے بغیر۔ ۵۔ الانعام ۱۳۰ اور الرحمن ۳۳ ٦۔ ضمیمہ ۵۸ ۷۔ ضمیمہ ۱۵٤ ۸۔ الانعام ۸۳ نیز یوسف ٦ میں «علیم حکیم» ہے ۹۔ ضمیمہ ۱۵۵ ۱۰۔ الانعام ۱۲۸ اور الرحمن ۳۳ ۱۱۔ الاعراف ۳۵ اور الزمر ۷۱ ۱۲۔ السجدة ۱٤، الزمر ۷۱ اور الجاثیة ۳٤ نیز الاعراف ۵۱ ۱۳۔ الاعراف ۳۷

ع ۱۵ ۸ ۲

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا
غٰفِلُوْنَ ﴿۱۳۱﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ
بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۲﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ
اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ
كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿۱۳۳﴾ اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ
لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۱۳٤﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى
مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ
عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۱۳٥﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ
مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا
هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ
لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ
يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿۱۳٦﴾ وَكَذٰلِكَ
زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ
شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ؕ
وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۳۷﴾

٥۔ النسآء ۱۳۳، ابراهیم ۱۹ اور فاطر ۱٦
٦۔ یونس ٥۳، ہود ۳۳، العنکبوت ۲۲ اور الشوری ۳۱
۷۔ ہود ۹۳ اور الزمر ۳۹
۸۔ ضمیمہ ۱٥٦
۹۔ القصص ۳۷
۱۰۔ الانعام ۲۱، یوسف ۲۳ اور القصص ۳۷
۱۱۔ الانعام ۱۰۰ اور الرعد ۱٦ و ۳۳
۱۲۔ النحل ٥۹، العنکبوت ٤ اور الجاثیة ۲۱
۱۳۔ الانعام ۱۱۲ نیز ضمیمہ ۱٤

وَقَالُوْا هٰذِهٖۤ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَاۤ اِلَّا مَنْ
نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ
لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ
بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۱۳۸﴾ وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ
خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰۤى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ
مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ
عَلِيْمٌ ﴿۱۳۹﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْۤا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًۢا
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ؕ
قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿۱۴۰﴾ وَهُوَ الَّذِيْۤ اَنْشَاَ
جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ
حَصَادِهٖ ۖ ۫ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۱۴۱﴾ وَ
مِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ
وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۴۲﴾

ع ۱۶

۵۔ الحجر ۲۵
۶۔ الانعام ۳۱ اور یونس ۴۵
۷۔ الانعام ۹۹
۸۔ الاعراف ۳۱
۹۔ البقرة ۱۶۸ و ۲۰۸ اور النور ۲۱
۱۰۔ ضمیمه ۶۰

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ
قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّـُٔوْنِىْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۴۳﴾
وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ
حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ
اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ
افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۴﴾ قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ
مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ
دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ
لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ
رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴۵﴾ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ
ذِىْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ
اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ
بِعَظْمٍ ؕ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ ؗ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۱۴۶﴾

ع ۱۷ ۴

، یونس ۱۷ اور الکهف ۱۵ نیز ضمیمه ۱۳۸
۶۔ المآئدۃ ۵۱، القصص ۵۰ اور الاحقاف ۱۰ نیز ضمیمه ۹۰
۷۔ المآئدۃ ۳ اور النحل ۱۱۵ نیز البقرۃ ۱۷۳ میں «بہٖ» مقدم هے۔
۸۔ البقرۃ ۱۷۳ اور النحل ۱۱۵
۹۔ النحل ۱۱۸
۱۰۔ یوسف ۸۲، الحجر ۶۴ اور النمل ۴۹

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ
بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۴۷﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ۚ
كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ
قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَتَّبِعُونَ
إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿۱۴۸﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ
الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۴۹﴾ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ
الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۖ فَإِن شَهِدُوا
فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ
يَعْدِلُونَ ﴿۱۵۰﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۵۱﴾

ع ۱۸ / ۵

یونس ۶۶ اور الزخرف ۲۰
۵۔ النحل ۹
۶۔ البقرۃ ۸۳ ، النسآء ۳۶ اور الاسرآء ۲۳
۷۔ الاسرآء ۳۱
۸۔ الاسرآء ۳۱
۹۔ الاعراف ۳۳
۱۰۔ الاسرآء ۳۳ اور الفرقان ۶۸
۱۱۔ الانعام ۱۵۲ اور ۱۵۳
۱۲۔ ضمیمہ ۴۰

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ

اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ

نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ

وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۱۵۲﴾

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۵۳﴾

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا

لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاۗءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۴﴾ ع ۱۹

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۵۵﴾ اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰي طَاۗىِٕفَتَيْنِ

مِنْ قَبْلِنَا ۠ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿۱۵۶﴾ اَوْ تَقُوْلُوْا

لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ

جَاۗءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ

مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۭ سَنَجْزِي الَّذِيْنَ

يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْۗءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

۱۰۔ ضمیمہ ۱۱۱
۱۱۔ الاعراف ۱۷۲
۱۲۔ الانعام ۱۵۷
۱۳۔ الاعراف ۱۷۳
۱۴۔ الانعام ۱۵۶

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّآ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ
بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا
إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ إِيْمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ
انْتَظِرُوْٓا إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿۱۵۸﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا
لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ۗ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَفْعَلُوْنَ ﴿۱۵۹﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ
بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۱۶۰﴾ قُلْ إِنَّنِيْ
هَدٰىنِيْ رَبِّيْٓ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ
حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۶۱﴾ قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَ
مَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۶۲﴾ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۱۶۳﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ
وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى ۚ ثُمَّ إِلٰى
رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۶۴﴾ وَهُوَ الَّذِيْ
جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ
فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۶۵﴾

ع ۲۰ (۱۱) ۷

۵۔ ہود ۳۶
۶۔ النمل ۸۹ اور القصص ۸۴
۷۔ النمل ۹۰ اور القصص ۸۴
۸۔ المؤمن ۴۰
۹۔ ضمیمہ ۵۶
۱۰۔ ضمیمہ ۵۳
۱۱۔ ضمیمہ ۵۴
۱۲۔ الزمر ۱۲ میں «اَوَّل» استعمال ہوا ہے۔
۱۳۔ الانعام ۱۴
۱۴۔ ضمیمہ ۱۵۸
۱۵۔ المآئدۃ ۴۸ اور الزمر ۷
۱۶۔ یونس ۱۴ اور فاطر ۳۹
۱۷۔ الاعراف ۱۶۷

سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مِائَتَانِ وَّسِتُّ اٰيَاتٍ وَّاَرْبَعٌ وَّعِشْرُوْنَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓصٓ ﴿١﴾ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ
حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾ اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ
اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا
تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣﴾ وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا
اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ﴿٤﴾ فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ
اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ
وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦﴾ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا
غَآئِبِيْنَ ﴿٧﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ۨالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ
مَكَّنّٰكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا مَّا
تَشْكُرُوْنَ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ
اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿١١﴾

ع ۱ / ۸

۴۔ الاعراف ۵
۵۔ الاعراف ۴
۶۔ الانبیآء ۱۴ و ۴۶ اور القلم ۲۹ نیز القلم ۳۱ میں «طٰغین» ہے۔
۷۔ المومنون ۱۰۲
۸۔ المومنون ۱۰۲، الحشر ۹ اور التغابن ۱۶
۹۔ المومنون ۱۰۳ نیز ضمیمہ ۲۳۰
۱۰۔ الحجر ۲۰
۱۱۔ المومنون ۷۸، السجدۃ ۹ اور الملک ۲۳
۱۲۔ ضمیمہ ۲۲
۱۳۔ ضمیمہ ۲۳

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿۱۲﴾ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿۱۳﴾ قَالَ اَنْظِرْنِيْۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿۱۴﴾ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿۱۵﴾ قَالَ فَبِمَاۤ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۱٦﴾ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿۱۷﴾ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۸﴾ وَيٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَاوٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿۲۰﴾ وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿۲۱﴾ فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَاۤ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَاۤ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۲۲﴾

۵۔ الحجر ۳۷ اور ص ۸۰
٦۔ الحجر ۳۹ اور ص ۸۲
۷۔ حم السجدة ۱٤ جبکہ الرعد ۱۱، الاحقاف ۲۱ و الجن ۲۷ میں «يديه» اور «وخلفه» کیساتھ ھے نیز ضمیمہ ۸۷
۸۔ الاسراء ۱۸ اور ۳۹
۹۔ ص ۸۵
۱۰۔ البقرة ۳۵
۱۱۔ طه ۱۲۰
۱۲۔ الاعراف ۲۷
۱۳۔ طه ۱۲۱

۱۔ البقرة ۳٦ اور طه ۱۲۳ ۲۔البقرة ۳٦ نیز الانبیآء ۱۱۱ میں «ومتاع الیٰ حین» هے۔

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ٚ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۲۳﴾ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿۲٤﴾ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿۲۵﴾ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۲٦﴾ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۲۷﴾ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸﴾ قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ ۗ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿۲۹﴾ فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۳۰﴾

۳۔ الاعراف ۲۷، ۳۱ اور ۳۵
٤۔ الاعراف ۱۳۰ اور الانفال ۵۷
۵۔ الاعراف ۲٦، ۳۱ اور ۳۵
٦۔ الاعراف ۲۰
۷۔ آل عمران ۱۳۵
۸۔ یونس ٦۸ نیز البقرة ۸۰ میں «اَم» آیا هے۔
۹۔ الاعراف ۳۱
۱۰۔ ضمیمه ۱٦۰
۱۱۔ ضمیمه ۱۹
۱۲۔ الزخرف ۳۷

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۭ قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَاۗءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٤﴾ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٦﴾ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰي عَلَي اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۭ اُولٰۗىِٕكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ۭ حَتّٰٓي اِذَا جَاۗءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓي اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

اور الروم ٢٨
٥۔ الانعام ١٥١
٦۔ آل عمران ١٥١ ، الانعام ٨١ اور الحج ٧١
٧۔ البقرة ١٦٩
٨۔ یونس ٤٩
٩۔ النحل ٦١ اور فاطر ٤٥ نیز «اذا» کیساتھ یونس ٤٩ میں ھے.
١٠۔ یونس ٤٩ اور النحل ٦١ نیز «تستأخرون» کیساتھ سبا ٣٠ میں ھے.
١١۔ الاعراف ٢٦ ، ٢٧ اور ٣١
١٢۔ الانعام ١٣٠
١٣۔ ضمیمہ ٢٤
١٤۔ ضمیمہ ١٤٤

١٥۔ ضمیمہ ٢٧ ١٦۔ ضمیمہ ٢٨ ١٧۔ الانعام ١٤٤ ، یونس ١٧ اور الکھف ١٥ نیز ضمیمہ ١٣٨
١٨۔ ضمیمہ ١٩ ١٩۔ المؤمن ٧٤ ٢٠۔ الانعام ١٣٠

قَالَ ادْخُلُوا فِيٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ
فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا
جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ
عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۸﴾
وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ
فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿۳۹﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ وَكَذٰلِكَ
نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۴۰﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ؕ
وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۱﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ ۫ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ﴿۴۲﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۟ وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ
وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۴۳﴾

٦۔ یونس ٥۲ نیز الزمر ۲٤ میں «ما» کیساتھ ھے۔
۷۔ خیال رھے کہ اگلی آیت میں «ظلمین» استعمال ھوا ھے۔
۸۔ (و) کیساتھ صرف یھیں نیز یوسف ۷٥ اور الانبیآء ۲۹ میں (و) کے بغیر ھے۔
۹۔ ضمیمہ ٤۲
۱۰۔ البقرة ۲۳۳ و ۲۸٦، الانعام ۱٥۲، المومنون ٦۲ اور الطلاق ۷
۱۱۔ ضمیمہ ٤۳
۱۲۔ ضمیمہ ۲۸

۱۳۔ الحجر ٤۷ ۱٤۔ یونس ۹ اور الکھف ۳۱ نیز ضمیمہ ۲۱ ۱٥۔ فاطر ۳٤ اور الزمر ۷٤ جبکہ «وقال الحمد» کیساتھ النمل ۱٥ میں نیز ضمیمہ ۱ و ۱۳٥ ۱٦۔ الاعراف ٥۳ ۱۷۔ ضمیمہ ۱۳۰

وَنَادٰۤى اَصۡحٰبُ الۡجَـنَّةِ اَصۡحٰبَ النَّارِ اَنۡ قَدۡ وَجَدۡنَا مَا وَعَدَنَا
رَبُّنَا حَقًّا فَهَلۡ وَجَدْتُّمۡ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمۡ حَقًّا‌ ؕ قَالُوۡا نَعَمۡ‌ ۚ فَاَذَّنَ
مُؤَذِّنٌۢ بَيۡنَهُمۡ اَنۡ لَّعۡنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيۡنَ ۙ‏ ﴿۴۴﴾ الَّذِيۡنَ يَصُدُّوۡنَ
عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَيَبۡغُوۡنَهَا عِوَجًا‌ ۚ وَهُمۡ بِالۡاٰخِرَةِ كٰفِرُوۡنَ‌ۘ ‏﴿۴۵﴾
وَبَيۡنَهُمَا حِجَابٌ‌ ۚ وَعَلَى الۡاَعۡرَافِ رِجَالٌ يَّعۡرِفُوۡنَ كُلًّاۢ بِسِيۡمٰٮهُمۡ‌ ۚ
وَنَادَوۡا اَصۡحٰبَ الۡجَـنَّةِ اَنۡ سَلٰمٌ عَلَيۡكُمۡ‌ لَمۡ يَدۡخُلُوۡهَا وَهُمۡ يَطۡمَعُوۡنَ ﴿۴۶﴾
وَاِذَا صُرِفَتۡ اَبۡصَارُهُمۡ تِلۡقَآءَ اَصۡحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوۡا رَبَّنَا لَا
تَجۡعَلۡنَا مَعَ الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۴۷﴾ وَنَادٰۤى اَصۡحٰبُ الۡاَعۡرَافِ رِجَالًا
يَّعۡرِفُوۡنَهُمۡ بِسِيۡمٰٮهُمۡ قَالُوۡا مَاۤ اَغۡنٰى عَنۡكُمۡ جَمۡعُكُمۡ وَمَا كُنۡتُمۡ
تَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ﴿۴۸﴾ اَهٰٓؤُلَۤاءِ الَّذِيۡنَ اَقۡسَمۡتُمۡ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحۡمَةٍ‌ ؕ
اُدۡخُلُوا الۡجَـنَّةَ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمۡ وَلَاۤ اَنۡتُمۡ تَحۡزَنُوۡنَ ﴿۴۹﴾ وَنَادٰۤى
اَصۡحٰبُ النَّارِ اَصۡحٰبَ الۡجَـنَّةِ اَنۡ اَفِيۡضُوۡا عَلَيۡنَا مِنَ الۡمَآءِ اَوۡ مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللّٰهُ‌ ؕ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ ۙ‏ ﴿۵۰﴾ الَّذِيۡنَ
اتَّخَذُوۡا دِيۡنَهُمۡ لَهۡوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتۡهُمُ الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَا‌ ۚ فَالۡيَوۡمَ
نَـنۡسٰٮهُمۡ كَمَا نَسُوۡا لِقَآءَ يَوۡمِهِمۡ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوۡا بِاٰيٰتِنَا يَجۡحَدُوۡنَ ﴿۵۱﴾

(حاشیہ: وقف لازم / ع ۵ ۸ ۱۲)

کافرون» کیساتھ دیکھیے ہود ۱۹، یوسف ۳۷ اور حم السحدۃ ۷

۵۔ الاعراف ٤۸
٦۔ ضمیمہ ۱٤۷
۷۔ الاعراف ٤٦
۸۔ المائدۃ ۵۳
۹۔ یونس ٦۲ اور الزخرف ٦۸ نیز ضمیمہ ۳۸
۱۰۔ الاعراف ٤٤
۱۱۔ الانعام ۷۰
۱۲۔ «یومهم» کیساتھ صرف یہیں نیز «یومکم» کیساتھ الانعام ۱۳۰، السحدۃ ۱٤، الزمر ۷۱ اور الجاثیة ۳٤ میں آیا ہے۔

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۵۲﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ
تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ
رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ
غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا
كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۵۳﴾ ع اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۫ يُغْشِي الَّيْلَ
النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ
بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۵۴﴾ اُدْعُوْا
رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۵۵﴾ وَلَا تُفْسِدُوْا
فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ
اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵٦﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ
بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا
سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ
الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۷﴾

ع ٦ ۱۳

۳۔ الاعراف ٤۳
٤۔ فاطر ۳۷
۵۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۲۳۰
٦۔ ضمیمہ ۱۳۹
۷۔ یونس ۳
۸۔ ضمیمہ ۱٦۲
۹۔ الرعد ۳
۱۰۔ النحل ۱۲
۱۱۔ الاعراف ۸۵
۱۲۔ الرعد ۱۲، الروم ۲٤ اور السجدۃ ۱٦
۱۳۔ الفرقان ٤۸ اور النمل ٦۳
۱٤۔ فاطر ۹
۱۵۔ البقرۃ ۲٦٦، النحل ٦۹ اور محمد ۱۵
۱٦۔ ضمیمہ ۱۵۷

۱۔ الانعام ۱۰۵ ۲۔ خیال سے پڑھیے یہاں ابتداء میں (و) نہیں ہے۔ ۳۔ المؤمنون ۲۳ اور العنکبوت ۳۶ ٤۔ ضمیمہ ۱۶۳ ٥۔ الشعرآء ۱۳۵ اور الاحقاف ۲۱ نیز ھود ۲٦ اور الشعرآء ۱۸۹ ٦۔ صرف یہیں ۷۔ الاعراف ٦٦ نیز ضمیمہ ۱۵۰ ۸۔ الاعراف ٦۷ ۹۔ الاعراف ٦۷ نیز الاعراف ۱۰٤

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ۭ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿۵۸﴾

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۭ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۵۹﴾ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۶۰﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۶۱﴾ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۲﴾ اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاۗءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰي رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۶۳﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿۶۴﴾

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۭ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۭ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۶۵﴾ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۶۶﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۶۷﴾

۱۰۔ الاعراف ٦۸ نیز الاعراف ۹۳
۱۱۔ یوسف ۸٦ اور ۹٦
۱۲۔ الاعراف ٦۹
۱۳۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۱۱
۱٤۔ الاعراف ۷۲ اور یونس ۷۳ نیز الفتح ۲۹، الممتحنة ٤ خیال رہے کہ تمام مقامات (۷) میں «آمنوا» بھی شامل ہے۔
۱۵۔ یونس ۷۳
۱٦۔ ھود ۵۰
۱۷۔ ضمیمہ ۱٦٤
۱۸۔ ضمیمہ ۱٦۳

۱۹۔ ضمیمہ ۱٦۵ ۲۰۔ الاعراف ۹۰، ھود ۲۷ اور المؤمنون ۲٤ ۲۱۔ الاعراف ٦۰
۲۲۔ الاعراف ٦۱ ۲۳۔ الاعراف ٦۱ نیز الاعراف ۱۰٤ میں «اِنّی» کیساتھ آیا ہے۔

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾ اَوَعَجِبْتُمْ

اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ؕ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ

فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ

اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ؕ

اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا

نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ

الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٧١﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ

قَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٢﴾ ع

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا

لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ

هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ

اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

ع ۹ ۸ ۱۶ وقف لازم

۵۔ ضمیمہ ۶۵
۶۔ یونس ۷۸، الانبیآء ۵۵ اور الاحقاف ۲۲
۷۔ ابراهیم ۱۰
۸۔ هود ۳۲ اور الاحقاف ۲۲
۹۔ ضمیمہ ۱۶۶
۱۰۔ یوسف ۴۰ اور النجم ۲۳
۱۱۔ یونس ۲۰ اور ۱۰۲
۱۲۔ الاعراف ۶۴ اور یونس ۷۳ نیز الفتح ۲۹ اور الممتحنۃ ۴ خیال رهے که دیگر تمام مقامات (۷) میں «آمنوا» بهی شامل هے۔
۱۳۔ هود ۶۱
۱۴۔ ضمیمہ ۱۶۴
۱۵۔ ضمیمہ ۱۶۳

۱۶۔ الاعراف ۸۵ ۱۷۔ هود ۶۴ ۱۸۔ هود ۶۴ اور الشعرآء ۱۵۶

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِي الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَاۗءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝۷۴ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝۷۵ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝۷۶ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝۷۷ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝۷۸ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ۝۷۹ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝۸۰ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۗءِ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۝۸۱

۵۔ الاعراف ۹۱ اور العنکبوت ۳۷ نیز ھود ۶۷ و ۹٤ میں «دیارھم» زائد ھے۔
٦۔ الاعراف ۹۳
۷۔ النمل ۵٤ اور العنکبوت ۲۸
۸۔ العنکبوت ۲۸
۹۔ النمل ۵۵ اور العنکبوت ۲۹
۱۰۔ النمل ۵۵
۱۱۔ یس ۱۹

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿۸۲﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۸۳﴾ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۸۴﴾ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۸۵﴾ وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۠ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۸۶﴾ وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۸۷﴾

ع ۱۰ / ۱۷

النمل ۵۷ اور العنکبوت ۳۲
۴۔ النمل ۵۷ اور العنکبوت ۳۲ و ۳۳
۵۔ الشعرآء ۱۷۳ اور النمل ۵۸
۶۔ ضمیمہ ۱۶۷
۷۔ النمل ۶۹
۸۔ ہود ۸۴ اور العنکبوت ۳۶
۹۔ ضمیمہ ۱۶۴
۱۰۔ ضمیمہ ۱۶۳
۱۱۔ الاعراف ۷۳
۱۲۔ الانعام ۱۵۲ اور ہود ۸۵
۱۳۔ ہود ۸۵ اور الشعرآء ۱۸۳
۱۴۔ الاعراف ۵۶
۱۵۔ ضمیمہ ۴۵

۱۶۔ (ع) کے نیچے زیر ہے خیال سے پڑھیے۔ ۱۷۔ آل عمران ۹۹ ۱۸۔ الانفال ۲۶
۱۹۔ صرف یہیں ۲۰۔ الاعراف ۱۰۳ اور النمل ۱۴ ۲۱۔ آل عمران ۷۲ ۲۲۔ یونس ۱۰۹ نیز یوسف ۸۰

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَاۤ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴿۸۸﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَمَا يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَاۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿۸۹﴾ وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿۹۰﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿۹۱﴾ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۛ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۹۲﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿۹۳﴾ وَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّاۤ اَخَذْنَاۤ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿۹۴﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۹۵﴾

٦۔ الاعراف ۷۸ اور العنکبوت ۳۷ نیز ھود ٦۷ و ۹٤ میں «دِیَارھم» زائد ھے.
۷۔ یہاں اس آیت میں پہلی بار.
۸۔ یہاں اس آیت میں مکرر.
۹۔الاعراف ۷۹
۱۰۔ سبا ۳٤
۱۱۔ صرف یہیں نیز «یتضرّعون» کیساتھ الانعام ٤۲ میں اور «وما یتضرّعون» المؤمنون ۷٦ میں آیا ھے.
۱۲۔ ضمیمہ ۱٦۸ اور ۱٦۹

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۹٦﴾ اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿۹۷﴾ اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿۹۸﴾ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۹۹﴾ اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿۱۰۰﴾ تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ۭ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۰۱﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ﴿۱۰۲﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۱۰۳﴾ وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰٤﴾

٥۔ الاعراف ۹۸
٦۔ الاعراف ۹٦ و ۹۷
۷۔ الاعراف ۹۷
۸۔ المآئدۃ ۳۲
۹۔ یونس ۷٤ نیز یونس ۱۳ میں «وما کانوا لیومنوا» ہے۔
۱۰۔ الروم ٥۹، المؤمن ۳٥ نیز یونس ۷٤ میں «کذلك نطبع» ہے۔
۱۱۔ یونس ۷٤ اور ۷٥
۱۲۔ ضمیمہ ۱٦۷
۱۳۔ الاعراف ۸٦ اور النمل ۱٤
۱٤۔ صرف یہیں جبکہ «ولکنّی» کیساتھ الاعراف ٦۱ اور ٦۷ میں آیا ہے۔

صفحہ نمبر ۱۶۵ ۱۔آل عمران ۴۹ و ۵۰ ۲۔ طه ۴۷ اور الشعرآء ۱۷ ۳۔ الشعرآء ۳۱ نیز ضمیمه ۱۶۶

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّآ أَقُولَ عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ
مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ إِن كُنتَ
جِئْتَ بِـَٔايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَىٰ
عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ
لِلنّٰظِرِينَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ
عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾
قَالُوٓا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِينَ ﴿١١١﴾ يَأْتُوكَ
بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾ وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا
إِن كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾
قَالُوا يٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾
قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّآ أَلْقَوْا سَحَرُوٓا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ
وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صٰغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَ
أُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٢١﴾

۴۔ الشعرآء ۳۲ اور ۴۵
۵۔ الشعرآء ۳۲
۶۔ الشعرآء ۳۳
۷۔ الاعراف ۱۲۷ اور الشعرآء ۳۴
۸۔ الشعرآء ۳۵
ع ۱۳ ۹ ۳
۹۔ الشعرآء ۳۶
۱۰۔ الشعرآء ۳۶ و ۵۳
۱۱۔ الشعرآء ۳۷
۱۲۔ یونس ۷۹ اور الشعرآء ۳۷
۱۳۔ الشعرآء ۳۸
۱۴۔ الشعرآء ۴۱
۱۵۔ الشعرآء ۴۲
۱۶۔ طه ۶۵
۱۷۔ طه ۶۶
۱۸۔ یونس ۸۱
۱۹۔ النمل ۱۰ اور القصص ۳۱
۲۰۔ الشعرآء ۴۵

۲۱۔ ضمیمه ۱۲۹ ۲۲۔ طه ۷۰ اور الشعرآء ۴۶ ۲۳۔ طه ۷۰ اور الشعرآء ۴۷

رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ
اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا
مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۲۳﴾ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ
مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۲۴﴾ قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا
مُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۲۵﴾ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا
جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿۱۲۶﴾ وَقَالَ
الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا
فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ
وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿۱۲۷﴾ قَالَ مُوْسٰى
لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙۚ
يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۲۸﴾
قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ
قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى
الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۹﴾ وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ
فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۱۳۰﴾

۴۔ ضمیمه ۱۵۶
۵۔ طه ۷۱ اور الشعرآء ۴۹
۶۔ الشعرآء ۵۰ اور الزخرف ۱۴
۷۔ البقرة ۲۵۰
۸۔ الاعراف ۱۰۹
۹۔ القصص ۴
۱۰۔ القصص ۸۳
۱۱۔ الاسرآء ۸ اور التحریم ۸ نیز التحریم ۵ میں «عسٰی ربّه» ہے۔
۱۲۔ الاعراف ۲۶ اور الانفال ۵۷

۱۔ ضمیمہ ۱۴۳ ۲۔ ہود ۵۳ ۳۔ ضمیمہ ۱۷۰ ۴۔ یونس ۷۵ اور الجاثیة ۳۱ نیز المؤمنون ۴۶ میں «عالین» کیساتھ ہے۔

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳۱﴾ وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ
مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۳۲﴾ فَاَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ
مُّفَصَّلٰتٍ ۡ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿۱۳۳﴾ وَلَمَّا
وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ
عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ
مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿۱۳۴﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى
اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿۱۳۵﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ
فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا
غٰفِلِيْنَ ﴿۱۳۶﴾ وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ
مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ
رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ۬ بِمَا صَبَرُوْا ؕ وَدَمَّرْنَا
مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿۱۳۷﴾

۵۔ الزخرف ۴۹
۶۔ الزخرف ۵۰
۷۔ الحجر ۷۹، الروم ۴۷ اور الزخرف ۲۵
۸۔ الاعراف ۱۴۶
۹۔ الانعام ۱۱۵ اور ہود ۱۱۹
۱۰۔ خیال رہے کہ (نُ) اور (مُ) دونوں پیش والے ہیں نیز طٰہٰ ۷۹ میں «فرعونُ قومَہ» ہے۔

٤۔ البقرة ۲٦۰
٥۔ الشعرآء ٥۱

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۚ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿۱۳۸﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۹﴾ قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۴۰﴾ وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿۱۴۱﴾ وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۱۴۲﴾ وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۴۳﴾

قَالَ يٰمُوْسٰۤى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَ
بِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَاۤ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۴۴﴾ وَكَتَبْنَا
لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ
شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ۗ
سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۱۴۵﴾ سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ
يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ
لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ
وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿۱۴۶﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ
اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۷﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ
حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ
وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۸﴾ وَلَمَّا
سُقِطَ فِىْۤ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ
لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۱۴۹﴾

ع ۱۷ / ۷

وقف لازم

۴۔ ضمیمہ ۱۴۰
۵۔ ضمیمہ ۱۴۰
۶۔ الاعراف ۱۳۶
۷۔ ضمیمہ ۱۴۴
۸۔ سبا ۳۳ نیز ضمیمہ ۱۲۹
۹۔ طه ۸۸
۱۰۔ ضمیمہ ۱۳۶
۱۱۔ اگلی آیت (۱۵۰) کی ابتدا بھی انھی الفاظ سے ہورہی ہے خیال سے پڑھیے۔

۱۔ خیال رہے کہ پچھلی آیت (۱۴۹) کی ابتدا میں بھی یہی الفاظ تھے۔ ۲۔ طٰہٰ ۸٦

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۵۰﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿۱۵۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿۱۵۲﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۵۳﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿۱۵۴﴾ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ۖ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿۱۵۵﴾

ع ۱۸ / ۸

۳۔ الاعراف ۱۴۵ و ۱۵۴
۴۔ الانبیآء ۸۳
۵۔ النحل ۱۱۹
٦۔ النحل ۱۱۰ و ۱۱۹
۷۔ الاعراف ۱۴۵ و ۱۵۰
۸۔ (ت) پر دو پیش ہیں خیال سے پڑھیے۔
۹۔ «غفرین» میں (ر) استعمال ہوئی ہے توجہ سے پڑھیے۔

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا
هُدْنَآ اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۶﴾ اَلَّذِيْنَ
يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۫ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ
عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا
النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۵۷﴾
قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ
لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ
وَيُمِيْتُ ۠ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ
يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۸﴾ وَ
مِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿۱۵۹﴾

ع ۱۹ / ۹

۴۔ (و) کے بغیر صرف یہیں جبکہ (و) کیساتھ ضمیمہ ۶ میں ہے۔
۵۔ یونس ۱۰۴ و ۱۰۸ اور الحج ۴۹ نیز ضمیمہ ۱۶
۶۔ ضمیمہ ۴۹
۷۔ ضمیمہ ۵۹
۸۔ ضمیمہ ۸۹
۹۔ التغابن ۸
۱۰۔ الاعراف ۱۵۷
۱۱۔ ضمیمہ ۳۳
۱۲۔ الاعراف ۱۸۱

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى

مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ

فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ

اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا

عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ؕ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ

وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾ وَ

اِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا

حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓئٰتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ

الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا

يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾ وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ

حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ

حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا

تَاْتِيْهِمْ ۛ كَذٰلِكَ ۛ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾

۵۔ البقرة ۵۷ اور طٰه ۸۰
٦۔ البقرة ۵۷ اور طٰه ۸۱
۷۔ البقرة ۵۷ نیز ضمیمه ۳۵
۸۔ البقرة ۵۸
۹۔ البقرة ۵۹ نیز ضمیمه ۱۷۰
۱۰۔ صرف یہیں نیز ضمیمه ۲۲۷
۱۱۔ ضمیمه ۲۲۷

ع ۲۰ — وقف لازم — معانقة عند المتقدمین

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖۤ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۭ بَـِٔيْسٍۭ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٔيْنَ ﴿١٦٦﴾ وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٧﴾ وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۡ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٦٨﴾ فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦٩﴾ وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٧٠﴾

٥۔ البقرة ٦٥
٦۔ الانعام ١٦٥
٧۔ الاعراف ١٦٠
٨۔ ضمیمہ ١٠٤
٩۔ مریم ٥٩
١٠۔ الانعام ٣٢ اور یوسف ١٠٩
١١۔ ضمیمہ ٣١
١٢۔ الکہف ٣٠

وَ اِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّ ظَنُّوْۤا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ
خُذُوْا مَاۤ اٰتَیْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوْا مَا فِیْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۱﴾
وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِیْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ
اَشْهَدَهُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۛۚ شَهِدْنَا ۛۚ اَنْ
تَقُوْلُوْا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِیْنَ ﴿۱۷۲﴾ اَوْ تَقُوْلُوْۤا اِنَّمَاۤ
اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّیَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا
بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿۱۷۳﴾ وَ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ وَ لَعَلَّهُمْ
یَرْجِعُوْنَ ﴿۱۷۴﴾ وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَاَ الَّذِیْۤ اٰتَیْنٰهُ اٰیٰتِنَا فَانْسَلَخَ
مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّیْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِیْنَ ﴿۱۷۵﴾ وَ لَوْ شِئْنَا
لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَ لٰكِنَّهٗۤ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ
كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ یَلْهَثْ ؕ
ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۷۶﴾ سَآءَ مَثَلَا ِ۟الْقَوْمُ الَّذِیْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا وَ اَنْفُسَهُمْ كَانُوْا یَظْلِمُوْنَ ﴿۱۷۷﴾ مَنْ یَّهْدِ اللّٰهُ
فَهُوَ الْمُهْتَدِیْ ۚ وَ مَنْ یُّضْلِلْ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۷۸﴾

ع ۲۱ ۔ ۱۱

معانقۃ ۷ عند المتأخرین ۱۲

۵۔ الانعام ۱۵۷
۶۔ الانعام ۵۵ نیز ضمیمہ ۱۰۴
۷۔ المآئدۃ ۲۷، یونس ۷۱ اور الشعرآء ۶۹
۸۔ الاعراف ۱۷۷
۹۔ الحشر ۲۱ نیز النحل ۴۴
۱۰۔ الاعراف ۱۷۶
۱۱۔ الاسرآء ۹۷ اور الکہف ۱۷
۱۲۔ البقرۃ ۱۲۱ اور المنافقون ۹ نیز التوبۃ ۶۹ میں (و) کیساتھ۔

وَلَقَدۡ ذَرَاۡنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيۡرًا مِّنَ الۡجِنِّ وَالۡاِنۡسِ ۖ لَهُمۡ قُلُوۡبٌ لَّا
يَفۡقَهُوۡنَ بِهَا ۡ وَلَهُمۡ اَعۡيُنٌ لَّا يُبۡصِرُوۡنَ بِهَا ۡ وَلَهُمۡ اٰذَانٌ لَّا
يَسۡمَعُوۡنَ بِهَا ؕ اُولٰٓـئِكَ كَالۡاَنۡعَامِ بَلۡ هُمۡ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡغٰفِلُوۡنَ ﴿۱۷۹﴾
وَلِلّٰهِ الۡاَسۡمَآءُ الۡحُسۡنٰى فَادۡعُوۡهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيۡنَ يُلۡحِدُوۡنَ
فِىۡۤ اَسۡمَآئِهٖ ؕ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۸۰﴾ وَمِمَّنۡ خَلَقۡنَاۤ اُمَّةٌ
يَّهۡدُوۡنَ بِالۡحَـقِّ وَبِهٖ يَعۡدِلُوۡنَ ﴿۱۸۱﴾ وَالَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا
سَنَسۡتَدۡرِجُهُمۡ مِّنۡ حَيۡثُ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۸۲﴾ وَاُمۡلِىۡ لَهُمۡ ؕ اِنَّ كَيۡدِىۡ
مَتِيۡنٌ ﴿۱۸۳﴾ اَوَلَمۡ يَتَفَكَّرُوۡا ؕ مَا بِصَاحِبِهِمۡ مِّنۡ جِنَّةٍ ؕ اِنۡ هُوَ اِلَّا نَذِيۡرٌ
مُّبِيۡنٌ ﴿۱۸٤﴾ اَوَلَمۡ يَنۡظُرُوۡا فِىۡ مَلَكُوۡتِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا خَلَقَ
اللّٰهُ مِنۡ شَىۡءٍ ۙ وَّاَنۡ عَسٰٓى اَنۡ يَّكُوۡنَ قَدِ اقۡتَرَبَ اَجَلُهُمۡ ۚ فَبِاَىِّ
حَدِيۡثٍۢ بَعۡدَهٗ يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۸۵﴾ مَنۡ يُّضۡلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ ؕ وَ
يَذَرُهُمۡ فِىۡ طُغۡيَانِهِمۡ يَعۡمَهُوۡنَ ﴿۱۸٦﴾ يَسۡـئَلُوۡنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ
مُرۡسٰٮهَا ؕ قُلۡ اِنَّمَا عِلۡمُهَا عِنۡدَ رَبِّىۡ ۚ لَا يُجَلِّيۡهَا لِوَقۡتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ ثَقُلَتۡ
فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ لَا تَاۡتِيۡكُمۡ اِلَّا بَغۡتَةً ؕ يَسۡـئَلُوۡنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ
عَنۡهَا ؕ قُلۡ اِنَّمَا عِلۡمُهَا عِنۡدَ اللّٰهِ وَلٰـكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۸۷﴾

ع ۲۲ / ۱۰ / ۱۲

٤۔ ضمیمه ۱۲۹
٥۔ الاعراف ۱۵۹
٦۔ ضمیمه ۱٤٤
۷۔ القلم ٤٤
۸۔ القلم ٤٥
۹۔ الروم ۸ نیز اگلی آیت (۱۸۵) بهی «اَوَلَم» سے شروع هو رهی هے.
۱۰۔ سبا ٤٦
۱۱۔ پچھلی آیت (۱۸٤) بهی «اَوَلَم» سے شروع هو رهی هے.
۱۲۔ الجاثیة ٦ اور المرسلات ۵۰
۱۳۔ صرف یهیں نیز ضمیمه ۱۲٤

۱٤۔ ضمیمه ۱۲ ۔ ۱۵۔ النازعات ٤۲ ۔ ۱٦۔ یهی الفاظ اس آیت میں مزید ایک بار نیز الاحزاب ٦۳
۱۷۔ الاحزاب ٦۳ نیز یهی الفاظ اوپر ایک بار. ۔ ۱۸۔ ضمیمه ۱۷۲

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ
اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛۚ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ۛؕ
اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۱۸۸﴾ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ
مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا
تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا
اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۸۹﴾
فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ
عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹۰﴾ اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿۱۹۱﴾
وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿۱۹۲﴾ وَاِنْ
تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ
اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ﴿۱۹۳﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿۱۹۴﴾ اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ ۡ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ
بِهَآ ۡ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ ۡ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ
بِهَا ؕ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿۱۹۵﴾

میں «ضرًّا وّلا نفعًا» ہے۔

ع ۲۳ / ۷ / ۱۴

۳۔ ضمیمہ ۱۵۴
۴۔ النسآء ۱ اور الزمر ٦
۵۔ خیال رہے یہاں (بَ) پر زبر ہے۔
٦۔ صرف یہیں نیز المؤمنون ۹۲
۷۔ یس ۷۵
۸۔ الاعراف ۱۹۸
۹۔ الحج ۷۳ نیز ضمیمہ ۱۹
۱۰۔ ضمیمہ ۲۰

إِنَّ وَلِيِّۦَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِينَ ﴿١٩٦﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٧﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرٰىهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوٰنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاٰيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحٰىٓ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هٰذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُۥ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغٰفِلِينَ ﴿٢٠٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢٠٦﴾

۵۔ المؤمن ٥٦ اور حم السجدة ۳٦
٦۔ صرف یھیں نیز ضمیمه ۱۷۵
۷۔ (ۃ) کے دو پیش کیساتھ صرف یھیں نیز الاعراف ٥۲ ، یوسف ۱۱۱ اور النحل ٦٤
۸۔ ضمیمه ۱۱۱
۹۔ النسآء ۱۷۲ اور الانبیآء ۱۹

ع ۲٤ ۱۸ ۱٤

۱۔ آل عمران ۱۷۲ اور الانفال ۲٤ ۲۔ ضمیمہ ۹۸ ۳۔ ضمیمہ ٤۵ ٤۔ النور ٦۲ و الحجرات ۱۵ ۵۔ الحج ۳۵ ٦۔ ضمیمہ ۵ ۷۔ الانفال ۷٤ نیز النسآء ۱۵۱ میں «کافرونَ» کیساتھ ہے۔ ۸۔ خیال رہے کہ یہاں «دَرجت عِندَ ربّھم» زائد ہے نیز ان الفاظ کے بغیر دیکھیے الانفال ۷٤، الحج ۵۰، النور ۲٦ اور سبا ٤ ۹۔ یونس ۸۲ ۱۰۔ یونس ۸۲

سُورَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّعَشْرُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ① اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ② ۚۖ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ③ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ④ ۚ كَمَاۤ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۪ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ⑤ ۙ يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ⑥ ؕ وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ⑦ ۙ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ⑧ ۚ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ
مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ
بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم
مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ
الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾ إِذْ
يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ
سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ
الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ
عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

«ذلکم» سے شروع ہو رہی ہے۔
۳۔ ضمیمہ ٤۷
٤۔ آل عمران ۱۰۵، الانفال ٤۷ اورالحشر ۱۹ نیز آل عمران ۱۵٦ اور الاحزاب ٦۹ میں (و) کی کمی کیساتھ۔
۵۔ الانفال ۵۵
٦۔ ضمیمہ ٤۷
۷۔ آل عمران ۱۷۲ اور الانفال ۱
۸۔ البقرۃ ۱۹٦ اور المائدۃ ۹۸

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ
لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۷﴾ ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۸﴾ اِنْ
تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ
وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ
وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۹﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿۲۰﴾ وَلَا
تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿۲۱﴾ اِنَّ
شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا
يَعْقِلُوْنَ ﴿۲۲﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ ؕ وَلَوْ
اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۲۳﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ
وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗۤ اِلَيْهِ
تُحْشَرُوْنَ ﴿۲٤﴾ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲۵﴾

وَاذْكُرُوٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ
اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ
مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۲٦﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا
تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۷﴾
وَاعْلَمُوٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ
عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۲۸﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ
يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ
وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۹﴾ وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ۗ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۗ
وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿۳۰﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا
قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ
اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۳۱﴾ وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا
هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ
اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۲﴾ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ
فِيْهِمْ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿۳۳﴾

٦۔ البقرة ۲۷۱
۷۔ «ذُنُوبَكُم» یہاں نہیں ہے خیال سے پڑھیے نیز آل عمران ۳۱، الاحزاب ۷۱ اور الصف ۱۲
۸۔ ضمیمہ ۴۸
ع ۳ ۹ ۱۷
۹۔ آل عمران ۵٤
۱۰۔ ضمیمہ ۱۷۳ نیز خیال رہے کہ یہاں «بیّنات» شامل نہیں ہے۔
۱۱۔ ضمیمہ ۱٤۱
۱۲۔ سبا ٦
۱۳۔ یہاں اس آیت میں پہلی بار۔
۱٤۔ یہاں اس آیت میں مکرر۔

ص۱۸۲ ۱۔ ضمیمہ ۱۴۳ نیز یونس ۶۰ و النمل ۷۳ و ضمیمہ ۱۷۲ ۲۔ آل عمران ۱۰۶ ، الانعام ۳۰ اور الاحقاف ۳۴ نیز الاعراف ۳۹ اور یس ۶۴ ۳۔ صرف یہیں نیز النسآء ۱۶۷ اور محمد ۳۲ و ۳۴ ، الاعراف ۴۵ اور ھود ۱۹ ، الانفال ۴۷ ، التوبة ۳۴ ، ابراھیم ۳ و الحج ۲۵ اور ضمیمہ ۷ ۴۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۱۵۶ ۵۔ ضمیمہ ۲۵

وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۴﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ
عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ؕ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۳۵﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ
اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ
تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ۬ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا
اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ﴿۳۶﴾ لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ
وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا
فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۳۷﴾ قُلْ لِّلَّذِيْنَ
كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا
فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۳۸﴾ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا
تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۳۹﴾ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿۴۰﴾

ع ۹/۱۸

۶۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۱۲ ، الانعام ۳۸ اور الفرقان ۳۴
۷۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۱۷۹
۸۔ صرف یہیں نیز الرعد ۴ و النسآء ۳۲ اور ضمیمہ ۱۲۸ و ۲۰۴
۹۔ صرف یہیں نیز الاسرآء ۳۹
۱۰۔ البقرة ۲۷ ، العنکبوت ۵۲ اور الزمر ۶۳ نیز البقرة ۱۲۱ ، الاعراف ۱۷۸ اور المنافقون ۹ ، التوبة ۶۹ ، الحشر ۱۹ ، آل عمران ۸۲ ، المآئدة ۴۷ و النور ۵۵ و ۴ اور ضمیمہ ۶ و ۷۷
۱۱۔ آل عمران ۱۲ نیز الجاثیة ۱۴
۱۲۔ صرف یہیں نیز النسآء ۲۲ و ۲۳

۱۳۔ صرف یہیں نیز الانفال ۱۹ ۱۴۔ الحجر ۱۳ اور الکھف ۵۵ نیز فاطر ۴۳ ، الاحزاب ۳۸ و ۶۲ ، المومن ۸۵ اور الفتح ۲۳ ۱۵۔ صرف یہیں نیز البقرة ۱۹۳ و التوبة ۱۴ ۱۶۔ البقرة ۱۹۲ و ۱۹۳ ۱۷۔ صرف یہیں نیز البقرة ۹۶ ، آل عمران ۱۶۳ و المآئدة ۷۱ ، الحجرات ۱۸ و ضمیمہ ۹۱ ۱۸۔ البقرة ۱۳۷ و آل عمران ۲۰ نیز آل عمران ۳۲ ، ۶۳ و ۶۴ ، النسآء ۸۹ ، المآئدة ۴۹ ، التوبة ۱۲۹ ، النحل ۸۲ اور الانبیآء ۱۰۹ ۱۹۔ صرف یہیں نیز البقرة ۲۰۹ ، المآئدة ۳۴ ، البقرة ۱۹۴ ، ۱۹۶ ، ۲۳۱ ، ۲۳۳ ، ۲۴۴ و ۲۶۷ ، الانفال ۲۴ و ۲۵ ، التوبة ۳۶ و ۱۲۳ اور المآئدة ۹۸ و الحدید ۱۷ ۲۰۔ صرف یہیں نیز الحج ۷۸

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤١﴾ اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ۭ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ڏ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰي مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٤٢﴾ ۙ اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا ۭ وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٤٣﴾ وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٤٤﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٤٥﴾

ع ۵ / ۷ / ۱

۴۔ الانفال ۴۴
۵۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۷۵
۶۔ الانفال ۴۴
۷۔ آل عمران ۱۵۲
۸۔ ضمیمہ ۱۷۴
۹۔ الانفال ۴۳
۱۰۔ الانفال ۴۲
۱۱۔ ضمیمہ ۶۹
۱۲۔ الانفال ۱۵ نیز ضمیمہ ۴۷
۱۳۔ الجمعۃ ۱۰ نیز ضمیمہ ۶۵

۱۔ البقرۃ ۱۵۳ ۲۔ آل عمران ۱۰۵ ، الانفال ۲۱ اور الحشر ۱۹ نیز آل عمران ۱۵٦ اور الاحزاب ٦۹ ۳۔ آل عمران ۱۲۰ ٤۔ الحشر ۱٦ ۵۔ آل عمران ۱۱ ٦۔ الاحزاب ۱۲ ۷۔ ضمیمہ ۹ ۸۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۲۲۰ ، الانفال ۱۰ ، التوبۃ ۷۱ اور لقمان ۲۷ ۹۔ ضمیمہ ۱٤۲

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ
رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۚ ﴿۴۶﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا
كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَ
يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿۴۷﴾
وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ
الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ
نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ
اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۧ ﴿۴۸﴾ اِذْ يَقُوْلُ
الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ
وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۴۹﴾ وَ
لَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ
وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿۵۰﴾ ذٰلِكَ
بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۙ ﴿۵۱﴾
كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۵۲﴾

ع ٦

۱۰۔ محمد ۲۷ ۱۱۔ آل عمران ۱۸۱ ، الحج ۹ اور ۲۲ نیز البروج ۱۰ ۱۲۔ آل عمران ۱۸۲ نیز الحج ۱۰ ۱۳۔ ضمیمہ ۱۱٤ ۱٤۔ آل عمران ۱۱ اور الانفال ۵٤ ۱۵۔ آل عمران ۱۱ اور المؤمن ۲۱ ۱٦۔ المؤمن ۲۲

۱۔ صرف یہیں نیز الرعد ۱۱ ۲۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۲۴۴ اور ضمیمہ ۷۵ ۳۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۱۱ اور الانفال ۵۲ ۴۔ الانعام ۶ نیز آل عمران ۱۱، الانفال ۵۲ اور المؤمن ۲۱ ۵۔ البقرۃ ۵۰ ۶۔ صرف یہیں نیز العنکبوت ۳۱ اور الاعراف ۱۴۸ ۷۔ خیال سے پڑھیے یہاں «الذین کفروا» کیساتھ ھے نیز الانفال ۲۲ ۸۔ الانعام ۱۲ و ۲۰ اور یٰس ۷ نیز مریم ۳۹، الانبیآء ۳۰ اور الانشقاق ۲۰ ۹۔ الاعراف ۲۶ و ۱۳۰ نیز ضمیمہ ۷۳ ۱۰۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۱۹۰، النسآء ۳۶ و ۱۰۷، المآئدۃ ۸۷، الانفال ۵۸، الحج ۳۸، القصص ۷۶ و ۷۷، لقمان ۱۸ اور البقرۃ ۲۷۶ ۱۱۔ خیال سے پڑھیے یہاں «سبقوا» کیساتھ ھے نیز آل عمران ۱۶۹، ۱۷۸ اور ۱۸۰

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۵۳﴾ كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۵۴﴾ اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۵﴾ اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ﴿۵۶﴾ فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۵۷﴾ وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ﴿۵۸﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ۭ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ﴿۵۹﴾ وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۭ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۶۰﴾ وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۶۱﴾

۱۲۔ صرف یہیں نیز التوبۃ ۱۰۱ اور ابراھیم ۹ ۱۳۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۹۲ ۱۴۔ البقرۃ ۲۷۲ نیز البقرۃ ۲۷۹ اور النسآء ۷۷ ۱۵۔ النسآء ۸۱ اور الاحزاب ۳ و ۴۸ نیز آل عمران ۱۵۹ و النمل ۷۹، الانفال ۴۹ و الطلاق ۳، ھود ۱۲۳، الفرقان ۵۸ اور الشعرآء ۲۱۷ ۱۶۔ ضمیمہ ۱۷۵

وَاِنۡ يُّرِيۡدُوۡۤا اَنۡ يَّخۡدَعُوۡكَ فَاِنَّ حَسۡبَكَ اللّٰهُ‌ ؕ هُوَ الَّذِىۡۤ
اَيَّدَكَ بِنَصۡرِهٖ وَبِالۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۙ‏ ﴿۶۲﴾ وَاَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوۡبِهِمۡ‌ ؕ لَوۡ اَنۡفَقۡتَ
مَا فِى الۡاَرۡضِ جَمِيۡعًا مَّاۤ اَلَّفۡتَ بَيۡنَ قُلُوۡبِهِمۡ وَلٰـكِنَّ اللّٰهَ
اَلَّفَ بَيۡنَهُمۡ‌ ؕ اِنَّهٗ عَزِيۡزٌ حَكِيۡمٌ‏ ﴿۶۳﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ حَسۡبُكَ اللّٰهُ
وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ‏ ﴿۶۴﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ
عَلَى الۡقِتَالِ‌ ؕ اِنۡ يَّكُنۡ مِّنۡكُمۡ عِشۡرُوۡنَ صٰبِرُوۡنَ يَغۡلِبُوۡا
مِائَتَيۡنِ‌ ۚ وَاِنۡ يَّكُنۡ مِّنۡكُمۡ مِّائَةٌ يَّغۡلِبُوۡۤا اَلۡفًا مِّنَ الَّذِيۡنَ
كَفَرُوۡا بِاَنَّهُمۡ قَوۡمٌ لَّا يَفۡقَهُوۡنَ‏ ﴿۶۵﴾ اَلۡـئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنۡكُمۡ
وَعَلِمَ اَنَّ فِيۡكُمۡ ضَعۡفًا‌ ؕ فَاِنۡ يَّكُنۡ مِّنۡكُمۡ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغۡلِبُوۡا
مِائَتَيۡنِ‌ ۚ وَاِنۡ يَّكُنۡ مِّنۡكُمۡ اَلۡفٌ يَّغۡلِبُوۡۤا اَلۡفَيۡنِ بِاِذۡنِ اللّٰهِ‌ ؕ وَ
اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ‏ ﴿۶۶﴾ مَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنۡ يَّكُوۡنَ لَهٗۤ اَسۡرٰى حَتّٰى
يُثۡخِنَ فِى الۡاَرۡضِ‌ ؕ تُرِيۡدُوۡنَ عَرَضَ الدُّنۡيَا ‌ۖ وَاللّٰهُ يُرِيۡدُ
الۡاٰخِرَةَ‌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيۡزٌ حَكِيۡمٌ‏ ﴿۶۷﴾ لَوۡلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ
لَمَسَّكُمۡ فِيۡمَاۤ اَخَذۡتُمۡ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ‏ ﴿۶۸﴾ فَكُلُوۡا مِمَّا غَنِمۡتُمۡ
حَلٰلًا طَيِّبًا ‌ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۶۹﴾

۵۔ الانفال ۶۶
۶۔ التوبة ۱۲۷ اور الحشر ۱۳
۷۔ الانفال ۶۵
۸۔ البقرة ۲۴۹
۹۔ التوبة ۱۱۳
۱۰۔ ضمیمہ ۷۶
۱۱۔ النور ۱۴
۱۲۔ البقرة ۱۶۸، المآئدة ۸۸ اور النحل ۱۱۴
۱۳۔ ضمیمہ ۶۴
۱۴۔ ضمیمہ ۶۱

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ
فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۷۰ وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ
فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝۷۱ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا
وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ
نَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ
يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا
وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝۷۲ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ۝۷۳ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ
حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝۷۴ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدُ
وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۷۵

۳۔ صرف یہیں نیز الانفال ٦۲
٤۔ ضمیمہ ۱۱۹
۵۔ خیال سے پڑھیے صرف یہیں نیز البقرة ۲۱۸ ، النسآء ۹۵ ، الانفال ۷٤ و ۷۵ ، التوبة ۲۰ ، ٤۱ و ۸۸ اور الحجرات ۱۵
٦۔ الانفال ۷٤
۷۔ ضمیمہ ۱۲۸
۸۔ صرف یہیں نیز النسآء ۹۰ اور ۹۲
۹۔ ضمیمہ ۹۱
۱۰۔ ضمیمہ ۲۵
۱۱۔ ضمیمہ ۱۲۸
۱۲۔ خیال سے پڑھیے صرف یہیں نیز الانفال ۷۲ اور التوبة ۱۹

۱۳۔ الانفال ۷۲ ۱٤۔ الانفال ٤ نیز النسآء ۱۵۱ ۱۵۔ الحج ۵۰ ، النور ۲٦ و سبا ٤ اور الانفال ٤
۱٦۔ صرف یہیں نیز الانفال ۷۲ ، الانعام ۱۰۱ اور ضمیمہ ۹٤ ۱۷۔ الاحزاب ٦ ۱۸۔ العنکبوت ٦۲ اور المجادلة ۷ نیز المآئدة ۹۷

صفحہ نمبر ۱۸۸ ۱۔ صرف یہیں نیز التوبة ٤ و ٧ ۲۔ صرف یہیں نیز التوبة ٣ ۳۔ خیال سے پڑھیے یہاں (الف) پر زبر ہے نیز (الف) پر کھڑے زبر کیساتھ الاعراف ۱۷۹ و ۱۹۵ اور الحج ٤٦ ٤۔ صرف یہیں نیز الانعام ۱۹ و ۷۸ اور ھود ٥٤ ٥۔ صرف یہیں نیز البقرة ۲۷۹ ٦۔ البقرة ۲۷۱ و الانفال ۱۹ نیز البقرة ۲۱٦ ، النحل ۹٥ اور البقرة ۱۸٤ ۷۔ صرف یہیں نیز المائدة ۹۲ ، یونس ۷۲ ، محمد ۲۲ ، التغابن ۱۲ اور النور ٥٤ ۸۔ صرف یہیں نیز التوبة ۲ ۹۔ صرف یہیں نیز البقرة ۲٥ و یونس ۲ اور ضمیمہ ۷٤ ۱۰۔ صرف یہیں نیز التوبة ۱ اور التوبة ۷ ۱۱۔ التوبة ۷ نیز آل عمران ۷٦ ، البقرة ۱۹٥ و ۲۲۲ ، آل عمران ۱۵۹ ، المائدة ۱۳ و ٤۲ ، التوبة ٤ ، الحجرات ۹ ، الممتحنة ۸ اور الانفال ٥۸

سُورَةُ التَّوبَةِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّتِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّسِتَّةَ عَشَرَ رُكُوْعًا

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ؕ ① -۱-
فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ -۲-
وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ② وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى -۳-
النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ۬ وَ -٤-
رَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ -٥- -٦- -۷-
غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ ③ اِلَّا -۸- -۹-
الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ -۱۰-
يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ④ -۱۱- فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ -۱۲-
وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ
اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑤ وَاِنْ -۱۳- -۱٤-
اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ
اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ⑥ ع -۱٥-

ع ۱ ٦ ۷

۱۲۔ صرف یہیں نیز البقرة ۱۹۱ اور النسآء ۸۹ و ۹۱ نیز التوبة ۱۱ ، البقرة ۲۷۷ ، الحج ٤۱ اور ضمیمہ ۳۰ ۱۳۔خیال سے پڑھیے یہاں «فخلّوا سبیلَهم» کیساتھ ۱٤۔ ضمیمہ ٦۱ ۱٥۔ صرف یہیں نیز المائدة ٥۸

۱۔ اگلی آیت (۸) بھی «کیفَ» سے شروع ہو رہی ہے۔ ۲۔ التوبۃ ۱ اور ٤ ۳۔ التوبۃ ٤ نیز آل عمران ۷٦ جبکہ «واللّٰہ» کیساتھ کہیں نہیں۔ ٤۔ پچھلی آیت (۷) کی ابتداء بھی «کیفَ» سے ہو رہی ہے۔ ٥۔ التوبۃ ۱۰ ٦۔ ضمیمہ ۲۹ ۷۔ المجادلۃ ۱٥ اور المنافقون ۲ نیز ضمیمہ ۱۲۹ ۸۔ التوبۃ ۸ ۹۔ التوبۃ ٥ نیز البقرۃ ۲۷۷ و الحج ٤۱ اور ضمیمہ ۳۰ ۱۰۔ الاحزاب ۳۷ ۱۱۔ ضمیمہ ٤٥

كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝ كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۭ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝ اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ اِنَّهُمْ سَاۗءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ۝ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ۭ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَىِٕمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ۝ اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۭ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ
وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۴﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ
وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۙ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۵﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ
تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ۙ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ
شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۙ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ
وَفِي النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۱۷﴾ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ
فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿۱۸﴾ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ
الْحَآجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ۙ وَ
اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ
اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۙ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿۲۰﴾

البقرة ۲۱۴ و المؤمنون ۱۱۵
۴۔ ضمیمہ ۱۹
۵۔ آل عمران ۱۵۳، المجادلة ۱۳ اور المنافقون ۱۱ نیز ضمیمہ ۷۹
۶۔ التوبة ۶۹ نیز البقرة ۲۱۷، آل عمران ۲۲ اور الکھف ۱۰۵
۷۔ صرف یہیں نیز المائدة ۸۰
۸۔ ضمیمہ ۳۷
۹۔ البقرة ۱۷۷ نیز ضمیمہ ۳۰
۱۰۔ ضمیمہ ۳۷
۱۱۔ صرف یہیں نیز البقرة ۲۱۸، الانفال ۷۴ اور التوبة ۲۰
۱۲۔ البقرة ۲۶۴ اور ضمیمہ ۹۰

۱۳۔ خیال سے پڑھیے یہاں «فی سبیل اللّٰہ» پہلے آیا ہے نیز الانفال ۷۲، التوبة ۱۹ اور الصف ۱۱
۱۴۔ صرف یہیں نیز النور ۵۲ اور المؤمنون ۱۱۱ اور الحشر ۲۰

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ﴿٢١﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٢٢﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٣﴾ قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۨ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٤﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٦﴾

۴۔ ضمیمہ ۷۷
۵۔ البقرۃ ۱۰۹
۶۔ المآئدۃ ۱۰۸، التوبۃ ۸۰ اور الصف ۵ نیز «انّ اللّٰہ» کیساتھ المنافقون ۶ میں ہے۔
۷۔ آل عمران ۱۲۳
۸۔ التوبۃ ۱۱۸
۹۔ التوبۃ ۴۰ اور الفتح ۲۶

ع ۳ ۸ ۹

صفحہ نمبر ۱۹۲ ۱۔ ضمیمہ ۷۱ ۲۔ ضمیمہ ٤٧ ۳۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۱۹ ٤۔ النسآء ۳۸ نیز ضمیمہ ۳۷ ٥۔ البقرة ۱۱۳ اور المآئدة ۱۸ و ٦٤ ٦۔ المنافقون ٤ ۷۔ المآئدة ۷٥ اور المنافقون ٤ ۸۔ المجادلة ۱٦ اور المنافقون ۲ ۹۔ ضمیمہ ۱۹ ۱۰۔ ضمیمہ ٥۹ ۱۱۔ صرف یہیں نیز یونس ۱۸، النحل ۱، الروم ٤٠ و الزمر ٦٧ میں «وتعالیٰ» کیساتھ اور النحل ۳ میں صرف «تعالیٰ عمّا یشرکون» ہے۔

ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٧﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٨﴾ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾ ع وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۗ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٣٠﴾ اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى
اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۳۲﴾ هُوَ
الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ
عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿۳۳﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْۤا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ
اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ
وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۴﴾ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا
فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ
هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿۳۵﴾
اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ
كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَاۤ
اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا
فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا
يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۶﴾

۵۔ آل عمران ۲۱ اور الانشقاق ۲٤
٦۔ یوسف ٤۰ اور الروم ۳۰
٧۔ البقرة ۱۹٤ اور التوبة ۱۲۳

صفحہ نمبر ۱۹٤ ۱۔ خیال رهے یہاں (ضَ) پر زبر هے جبکه دیگر ۱۷ مقامات پر (ضِ) کے زیر کیساتھ هے۔

إِنَّمَا النَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

۲۔ خیال سے پڑھیے «أعمالِهم» (لِ) کے زیر کیساتھ صرف یہیں نیز زبر کیساتھ ۱۷ اور پیش کیساتھ ۹ مرتبہ آیا ھے۔
۳۔ البقرة ۲٦٤
٤۔ ضمیمه ٤۷
۵۔ صرف یہیں نیز القصص ٦۰ اور الشوری ۳٦ ، النسآء ۷۷ ، آل عمران ۱٤ و الزخرف ۳۵ ، یونس ۲۳ اور القصص ٦۱
٦۔ صرف یہیں نیز التوبة ٤۰
۷۔ الفتح ۱٦ نیز النسآء ۱۷۳ ، التوبة ۷٤ اور الفتح ۱۷
۸۔ صرف یہیں نیز محمد ۳۸

۹۔ صرف یہیں نیز هود ۵۷ ۱۰۔ ضمیمه ۹٦ ۱۱۔ صرف یہیں نیز التوبة ۳۹ ۱۲۔ صرف یہیں نیز الشعرآء ٦۲ ۱۳۔ صرف یہیں نیز الفتح ۲٦ اور التوبة ۲٦ ۱٤۔ ضمیمه ۷٦ ۱۵۔ صرف یہیں نیز الانفال ۷۲ اور الصف ۱۱ ۱٦۔ العنکبوت ۱٦ اور ضمیمه ٦۲

صفحہ نمبر ۱۹۵ ۱۔ صرف یہیں نیز التوبة ٩٥ ، النسآء ٦٢ اور التوبة ٦٢ و ٧٤ اور التوبة ٥٦ ۲۔ صرف یہیں نیز الانعام ٢٦ ۳۔ صرف یہیں نیز التوبة ١٠٧ و الحشر ١١ ، المنافقون ١ ، العنکبوت ١٢ ، الانعام ٢٨ ، المؤمنون ٩٠ اور الصافات ١٥٢ ، النحل ٨٦ ، النور ١٣ اور المجادلة ١٨ ٤۔ صرف یہیں نیز آل عمران ١٥٥ ، المآئدة ٩٥ اور المآئدة ١٠١ ٥۔ صرف یہیں نیز البقرة ١٨٧ ، حم السجدة ٥٣ ، البقرة ١٧٧ اور العنکبوت ٣ ٦۔ صرف یہیں نیز العنکبوت ٣ و ١١ ٧۔ صرف یہیں نیز التوبة ٤٥ اور النور ٥٨ ٨۔ آل عمران ١١٤ اور المجادلة ٢٢ نیز التوبة ٤٥ ، البقرة ٢٦٤ ، النسآء ٥٩ و النور ٢ اور ضمیمه ٣٧ ٩۔ التوبة ٨١ نیز الانفال ٧٢ ١٠۔ آل عمران ١١٥ نیز آل عمران ١٥٤ و التغابن ٤ ، آل عمران ٦٣ ، التوبة ٤٧ اور ضمیمه ١٧٤

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ
وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ
لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٤٢﴾ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ
لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا
وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾ لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ
اَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾ اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ
الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ
قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَوْ
اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ
اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ
الْقٰعِدِيْنَ ﴿٤٦﴾ لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا
خَبَالًا وَّلَاَاوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ
وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾

ع ٦ / ١٢

١١۔ صرف یہیں نیز التوبة ٤٤ ١٢۔ صرف یہیں نیز البقرة ٢٦٤ ، النسآء ٣٨ ، التوبة ٢٩ و ٤٤ اور ضمیمه ٣٧ ١٣۔ صرف یہیں نیز التوبة ٨٦ ١٤۔ صرف یہیں نیز المآئدة ٤١ و ٤٢
١٥۔ البقرة ٩٥ و ٢٤٦ اورالجمعة ٧ نیز الانعام ٥٨ اور التوبة ٤٤

۱۔ العنکبوت ۵٤ ۲۔ آل عمران ۱۲۰ نیز «تسؤکم» المآئدۃ ۱۰۱ میں ھے۔

۳۔ ضمیمہ ۱۱۰
٤۔ حم السجدۃ ۱۱
۵۔ التوبۃ ۸۰ اور ۸٤

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ
حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿۴۸﴾
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي
الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿۴۹﴾
اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ
يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَآ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ
فَرِحُوْنَ ﴿۵۰﴾ قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ
مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۱﴾ قُلْ
هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ؕ وَنَحْنُ
نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖۤ
اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۖ فَتَرَبَّصُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿۵۲﴾ قُلْ
اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ؕ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا
فٰسِقِيْنَ ﴿۵۳﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ
اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ
اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿۵۴﴾

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ۭ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ
لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ
كٰفِرُوْنَ ﴿۵۵﴾ وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ۭ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ
وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ﴿۵۶﴾ لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ
مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ﴿۵۷﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ
فِي الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ
اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿۵۸﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ
وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَ
رَسُوْلُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿۵۹﴾ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۗءِ
وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۭ فَرِيْضَةً
مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۶۰﴾ وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ
النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ۭ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ
بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۭ
وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۶۱﴾

ع ۱۷ / ۷ / ۱۳

٤۔ التوبة ٧٤ میں ترتیب بالعکس ھے نیز «وَرَسُوْلُهٗ» اسی آیت میں اوپر گذرچکا.
٥۔ النسآء ۱۱
٦۔ ضمیمه ۱۱۹
٧۔ «خیر لکم» (ر) کے دو زیر کیساتھ صرف یھیں.
٨۔ ضمیمه ۱۰۷

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ
اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿۶۲﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا
اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ
خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿۶۳﴾ يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ
اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ
قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿۶۴﴾ وَلَئِنْ
سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ؕ قُلْ اَبِاللّٰهِ
وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۶۵﴾ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ
كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ
نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿۶۶﴾ اَلْمُنٰفِقُوْنَ
وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا
اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۶۷﴾ وَعَدَ اللّٰهُ
الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿۶۸﴾

۴۔ آل عمران ۹۳
۵۔ ضمیمہ ۱۷۷
۶۔ التوبة ۷۱
۷۔ خیال رہے یہاں «مُنکَر» پہلے آیا ہے۔
۸۔ التوبة ۷۲
۹۔ ضمیمہ ۵۸
۱۰۔ المآئدة ۳۷

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ
اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ؕ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ
بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ
وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۶۹﴾ اَلَمْ يَاْتِهِمْ
نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ
اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُوْنَ ﴿۷۰﴾ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ
بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ
يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۷۱﴾
وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۷۲﴾

اور المؤمن ۳۱
٦۔ الحج ٤٤ میں (بُ) پر پیش ہے۔
۷۔ الروم ۹ نیز العنکبوت ٤۰ اور ضمیمہ ۳۵
۸۔ التوبة ٦۷ نیز ضمیمہ ۱۲۸
۹۔ آل عمران ۱۰٤ اور ۱۱٤
۱۰۔ النمل ۳ اور لقمان ٤
۱۱۔ البقرة ۲۲۰ ، الانفال ۱۰ اور لقمان ۲۷ نیز الانفال ٦۳ اور ضمیمہ ۷٦
۱۲۔ التوبة ٦۸
۱۳۔ الصف ۱۲ نیز ضمیمہ ۲۱ اور ۵۸
۱٤۔ یونس ٦٤ ، الدخان ۵۷ اور الحدید ۱۲

ع ۹ / ۱۵

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ
وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۷۳﴾ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۭ
وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا
بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ
مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا
يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ
فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۷۴﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ
اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۷۵﴾
فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۷۶﴾
فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا
اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿۷۷﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ
الْغُيُوْبِ ﴿۷۸﴾ اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ
فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۭ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۡ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۷۹﴾

۴۔ ضمیمہ ۵۲
۵۔ النسآء ۶۲ اور التوبة ۵۶ و ۶۲
۶۔ البروج ۸ خیال رہے یہاں «مِنهُم» نہیں ہے۔
۷۔ التوبة ۵۹ میں ترتیب بالعکس ہے۔
۸۔ ضمیمہ ۷۰
۹۔ البقرة ۱۲۰ اور الرعد ۳۷
۱۰۔ التوبة ۶۳ و ۱۰۴
۱۱۔ الزخرف ۸۰
۱۲۔ المآئدة ۱۰۹، ۱۱۶ اور سبا ۴۸
۱۳۔ ضمیمہ ۱۰

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۭ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً
فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۭ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ
خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ۭ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ
حَرًّا ۭ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ
جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَاۗىِٕفَةٍ
مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا
وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ۭ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ
فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓي اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ
اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰي قَبْرِهٖ ۭ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا
وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ۭ اِنَّمَا يُرِيْدُ
اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾
وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ
اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

۱۰ ع ۸ ۱۶

۳۔ المآئدة ١٠٨ و التوبة ٢٤ اور الصف ٥ نیز المنافقون ٦ میں «انّ اللّٰه» کیساتھ ھے۔
٤۔ التوبة ٤٤
٥۔ التوبة ٩٥ نیز ضمیمه ١٥٥
٦۔ التوبة ٥٤ و ٨٠
٧۔ التوبة ٥٥
٨۔ التوبة ١٢٤ و ١٢٧ اور محمد ٢٠

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿۸۷﴾ لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۡ

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۸۸﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۸۹﴾ ع وَ

جَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ

كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ

اَلِيْمٌ ﴿۹۰﴾ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ

لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ

مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۹۱﴾

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ

مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۠ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ

حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿۹۲﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ

يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ

الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۹۳﴾

یَعْتَذِرُوْنَ اِلَیْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَیْهِمْ ؕ قُلْ لَّا
تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ؕ وَ
سَیَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَیْبِ
وَ الشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۴﴾ سَیَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ
لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَیْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ
اِنَّهُمْ رِجْسٌ ؗ وَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۹۵﴾
یَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ
لَا یَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ ﴿۹۶﴾ اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ
نِفَاقًا وَّ اَجْدَرُ اَلَّا یَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى
رَسُوْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِیْمٌ حَكِیْمٌ ﴿۹۷﴾ وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ یَّتَّخِذُ
مَا یُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّ یَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَیْهِمْ
دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۹۸﴾ وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ
یُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَ یَتَّخِذُ مَا یُنْفِقُ قُرُبٰتٍ
عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَاۤ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ
سَیُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِیْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ﴿۹۹﴾

ع ۱۲ / ۱

۴۔ التوبۃ ۴۲
۵۔ التوبۃ ۷۳ ، الرعد ۱۸ اور التحریم ۹
۶۔ التوبۃ ۸۲ نیز ضمیمہ ۱۵۵
۷۔ ضمیمہ ۱۱۹
۸۔ التوبۃ ۹۹
۹۔ الفتح ۶
۱۰۔ ضمیمہ ۷۵
۱۱۔ التوبۃ ۹۸
۱۲۔ ضمیمہ ۳۷
۱۳۔ ضمیمہ ۶۱

صفحہ نمبر ۲۰٤ ۱۔ صرف یہیں نیز الواقعۃ ۱۰ ۲۔ صرف یہیں نیز التوبۃ ۱۱۷ ۳۔ المآئدۃ ۱۱۹ ، المجادلۃ ۲۲ اور البینۃ ۸ ٤۔ صرف یہیں خیال رہے کہ «تَحتَها الانهارُ» کی دونوں (ت) پر زبر ہے نیز ضمیمہ ۲۱ ۵۔ ضمیمہ ۱۲۱ ٦۔ ضمیمہ ۱۳۳ ۷۔ صرف یہیں نیز التوبۃ ۱۲۰ ۸۔ صرف یہیں نیز الانفال ٦۰ اور ابراهیم ۹

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ ۝۱۰۰ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۭ وَمِنْ
اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ڀ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۣ لَا تَعْلَمُهُمْ ۭ نَحْنُ
نَعْلَمُهُمْ ۭ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۝۱۰۱
وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ۭ
عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۰۲ خُذْ
مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۭ
اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝۱۰۳ اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَ
اَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝۱۰٤ وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ
عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۱۰۵ وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ
لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝۱۰٦

۹۔ صرف یہیں نیز التوبۃ ۹٤ اور الجمعۃ ۸
۱۰۔ صرف یہیں نیز التوبۃ ۱۰٦ اور المزمل ۲۰
۱۱۔ صرف یہیں نیز النسآء ۲۷
ربع / وقف منزل عند المتقدمین ۱۲
۱۲۔ ضمیمہ ٦۱
۱۳۔ ضمیمہ ۷۵
۱٤۔ التوبۃ ۷۸ نیز التوبۃ ٦۳ اور الزمر ۵۲
۱۵۔ صرف یہیں نیز الشوری ۲۵
۱٦۔ صرف یہیں نیز النور ۱۰ ، الحجرات ۱۲ اور البقرة ۱۲۸
۱۷۔ صرف یہیں نیز التوبۃ ۹٤

منزل۲

۱۸۔ صرف یہیں نیز التوبۃ ۹٤ و الجمعۃ ۸ ، المؤمنون ۹۲ اور ضمیمہ ۱٤۹ ۱۹۔ المآئدۃ ۱۰۵ ، التوبۃ ۹٤ ، الزمر ۷ اور الجمعۃ ۸ جبکہ «فیه تختلفون» المآئدۃ ٤۸ اور الانعام ۱٦٤ میں اور «ثمّ ینبئکم» کیساتھ الانعام ٦۰ میں نیز ضمیمہ ۱۳۰ ۲۰۔ صرف یہیں نیز التوبۃ ۱۰۲ ۲۱۔ ضمیمہ ۱۱۹

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّ كُفْرًا وَّ تَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۰۷﴾ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿۱۰۸﴾ اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰۹﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّاۤ اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۱۰﴾ ع ۱۳/۱۱/۲

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ؕ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۱۱﴾

٥۔ ضمیمه ۹۰
٦۔ ضمیمه ۱۱۹
۷۔ النحل ۳۸ جبکه «وعد الله حقا» النسآء ۱۲۲، یونس ٤ اور لقمان ۹ میں آیا هے.
۸۔ المؤمن ۹

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ
السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۲﴾ مَا كَانَ
لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَ
لَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ
اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۳﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ
اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ
عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۱۴﴾ وَ
مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ
لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾ اِنَّ اللّٰهَ
لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَمَا لَكُمْ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۱۱۶﴾ لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ
عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ
مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱۷﴾

العنکبوت ۶۲ اور المجادلۃ ۷ حبکہ «وَاَنَّ اللّٰہ» کیساتھ المآئدۃ ۹۷ میں نیز ضمیمہ ۹۴
۶۔ ضمیمہ ۴۹
۷۔ ضمیمہ ۸۹
۸۔ البقرۃ ۱۰۷، العنکبوت ۲۲ اور الشوری ۳۱ نیز ضمیمہ ۱۹
۹۔ التوبۃ ۱۰۰
۱۰۔ التوبۃ ۱۲۸، النور ۲۰ اور الحشر ۱۰

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۭ حَتّٰٓي اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُھُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ
لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ۭ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۭ اِنَّ
اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۱۸﴾ يٰٓاَيُّھَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ
وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۹﴾ مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ
حَوْلَھُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَ
لَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّھُمْ لَا يُصِيْبُھُمْ
ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَئُوْنَ
مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ
لَھُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۲۰﴾
وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ
وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَھُمْ لِيَجْزِيَھُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۱﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۗفَّةً ۭ فَلَوْلَا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْھُمْ طَاۗىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَ
لِيُنْذِرُوْا قَوْمَھُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّھُمْ يَحْذَرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾

نیز البقرة ۱۲۸ اور التوبة ۱۰٤
٤۔ ضمیمه ۹۳
٥۔ صرف یہیں جبکه «وممّن حولکم من الاعراب» التوبة ۱۰۱ میں هے۔
٦۔ صرف یہیں جبکه «ذلك بانّهم قالوا» البقرة ۲۷۵، آل عمران ۲٤ و ۷۵ اور محمد ۲٦ میں هے۔
۷۔ التوبة ۱۲۱
۸۔ صرف یہیں جبکه «انّه عمل غیر صالح» هود ٤٦ میں اور «والعمل الصّالح یرفعه» فاطر ۱۰ میں هے۔
۹۔ صرف یہیں جبکه «فانّ الله» کیساتھ هود ۱۱۵ اور یوسف ۹۰ میں نیز «ولانضیع اجر المحسنین» یوسف ٥٦ میں هے۔
۱۰۔ الکهف ٤۹
۱۱۔ التوبة ۱۲۰ ۱۲۔ صرف یہیں جبکه «اَحسن ما عملوا» کیساتھ النور ۳۸ میں نیز ضمیمه ۱۲۹
۱۳۔ خیال سے پڑھیے صرف یہیں جبکه «ولِیُنذَروا به» ابراهیم ٥۲ میں هے۔

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۲۳﴾ وَاِذَا مَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖۤ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۱۲۴﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۱۲۵﴾ اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۱۲۶﴾ وَاِذَا مَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ؕ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿۱۲۷﴾ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۲۹﴾

۴۔ ضمیمہ ۹
۵۔ التوبة ۸۶ و ۱۲۴ اور محمد ۲۰
۶۔ البقرة ۷۶، الانعام ۱۱۲ اور سبا ۳۱ نیز ضمیمہ ۲۰۴
۷۔ الانفال ۶۵ اور الحشر ۱۳
۸۔ التوبة ۱۱۷، النور ۲۰ اور الحشر ۱۰
۹۔ الزمر ۳۸
۱۰۔ ضمیمہ ۵۹
۱۱۔ ضمیمہ ۱۷۸
۱۲۔ المومنون ۸۶ اور النمل ۲۶ جبکہ «الکریم» المومنون ۱۱۶ میں ہے۔

۱۔ ضمیمہ ۱۷۹ ۲۔ لقمان ۲ نیز یوسف ۱ ، الشعرآء ۲ اور القصص ۲ ۳۔ صرف یہیں نیز ابراھیم ٤٤ اور نوح ۱ ٤۔ البقرۃ ۲۵ نیز التوبۃ ۳ اور ضمیمہ ۷٤ ۵۔ صرف یہیں نیز ص ٤ ، ق ۲ ، القمر ۸ اور النبا ٤۰ ٦۔ صرف یہیں نیز یونس ۷٦ ، الاعراف ۱۰۹ و الشعرآء ۳٤ اور ضمیمہ ۱۳۱ ۷۔ الاعراف ٥٤ ، نیز ھود ۷ ، الفرقان ٥۹ ، السجدۃ ٤ ، ق ۳۸ اور الحدید ٤

سُورَةُ يُونُسَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَتِسْعُ اٰيَاتٍ وَّاَحَدَ عَشَرَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ① اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ② اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ۗ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ۗ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۗ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ③ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ۗ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۗ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ④ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ⑤ اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ⑥

۸۔ صرف یہیں نیز الاعراف ٥٤ اور ضمیمہ ۱٦۲ ۹۔ الرعد ۲ و السجدۃ ٥ نیز یونس ۳۱ ۱۰۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۲٥٥ ، ھود ۱۰٥ اور الحج ٦٥ ۱۱۔ صرف یہیں نیز آل عمران ٥۱ ، مریم ۳٦ ، الزخرف ٦٤ و ضمیمہ ۱٥۱ ۱۲۔ ضمیمہ ۱۸۰ ۱۳۔ صرف یہیں نیز المآئدۃ ٤۸ و ۱۰٥ اور الانعام ٦۰ ۱٤۔ النسآء ۱۲۲ و لقمان ۹ نیز التوبۃ ۱۱۱ اور النحل ۳۸ ۱٥۔ صرف یہیں نیز یونس ۳٤ ، النحل ٦٤ اور الروم ۱۱ و ۲۷

اِنَّ الَّذِيْنَ

۱٦۔ صرف یہیں نیز سبا ٤ اور الروم ٤٥ ۱۷۔ ضمیمہ ۲٥ ۱۸۔ الانعام ۷۰ ۱۹۔ صرف یہیں نیز الاسرآء ۱۲ ۲۰۔ صرف یہیں نیز الروم ۸ ۲۱۔ صرف یہیں نیز الاعراف ۳۲ اور التوبۃ ۱۱ ۲۲۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۱٦٤ ، آل عمران ۱۹۰، المؤمنون ۸۰ اور الجاثیۃ ٥ ۲۳۔ صرف یہیں نیز العنکبوت ٤٤ ۲٤۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۲۲٥

۱۔ یونس ۱۱ و ۱۵ اور الفرقان ۲۱ ۲۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۱۵۱ ، المآئدۃ ۷۲ ، النور ۵۷ اور السجدۃ ۲۰ نیز العنکبوت ۲۵

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝۷ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝۸ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝۹ دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۱۰ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ۗ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝۱۱ وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ۗ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝۱۲ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝۱۳ ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝۱۴

ع ۱ / ۶

۳۔ ضمیمہ ۱۵۵
۴۔ ضمیمہ ۹۲
۵۔ الاعراف ۴۳ اور الکہف ۳۱ نیز ضمیمہ ۲۱
۶۔ الحج ۵۶ ، الصآفات ۴۳ اور الواقعۃ ۱۲
۷۔ ابراهیم ۲۳
۸۔ الزمر ۷۵ نیز ضمیمہ ۱ اور ۲
۹۔ یونس ۷ ، ۱۵ اور الفرقان ۲۱
۱۰۔ ضمیمہ ۱۲
۱۱۔ الروم ۳۳ اور الزمر ۸ و ۴۹
۱۲۔ الانعام ۱۲۲
۱۳۔ ضمیمہ ۱۲۹
۱۴۔ الاعراف ۱۰۱ اور یونس ۷۴

۱۵۔ الاحقاف ۲۵ ۱۶۔ الانعام ۱۶۵ اور فاطر ۳۹

۱۔ ضمیمہ ۱۷۳ ۲۔ یونس ۷ و ۱۱ اور الفرقان ۲۱ ۳۔ الانعام ۵۰ اور الاحقاف ۹

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ۭ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۵﴾ قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ڮ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۶﴾ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۱۷﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ۭ قُلْ اَتُنَبِّـــُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ۭ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۱۸﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿۲۰﴾

ع ۲ / ۱۰ / ۷

۴۔ الانعام ۱۵ اور الزمر ۱۳
۵۔ ضمیمہ ۱۴
۶۔ ضمیمہ ۳۱
۷۔ الانعام ۱۴۴، الاعراف ۳۷ اور الکہف ۱۵ نیز ضمیمہ ۱۳۸
۸۔ صرف یہیں۔
۹۔ ضمیمہ ۱۹
۱۰۔ البقرۃ ۱۰۲ اور الفرقان ۵۵
۱۱۔ سبا ۳ و ۲۲ اور فاطر ۴۴
۱۲۔ النحل ۱، الروم ۴۰ اور الزمر ۶۷ جبکہ «وتعالی» کے بغیر التوبۃ ۳۱ میں اور صرف «تعالی عمّا یشرکون» النحل ۳ میں استعمال ہوا ہے۔

۱۳۔ ضمیمہ ۱۸۱ ۱۴۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۵۰ ۱۵۔ الرعد ۷ و ۲۷ اور العنکبوت ۵۰ نیز ضمیمہ ۱۳۷ ۱۶۔ الاعراف ۷۱ اور یونس ۱۰۲

وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ
فِيْٓ اٰيَاتِنَا ۭ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ۭ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ ﴿۲۱﴾
هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۭ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ وَ
جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَاۗءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّ
جَاۗءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا
اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ڬ لَىِٕنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ
مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۲۲﴾ فَلَمَّآ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ ۭ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓي اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۡ
ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۳﴾ اِنَّمَا مَثَلُ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاۗءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاۗءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ
الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ۭ حَتّٰٓي اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ
زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ
اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ
بِالْاَمْسِ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۴﴾ وَاللّٰهُ
يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ۭ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۲۵﴾

۴۔ ضمیمہ ۱۶۰
۵۔ الانعام ۶۳
۶۔ العنکبوت ۶۵ اور لقمان ۳۲
۷۔ ضمیمہ ۱۷۱
۸۔ ضمیمہ ۱۶
۹۔ صرف یہیں نیز الانعام ۶۰
۱۰۔ ضمیمہ ۱۳۰
۱۱۔ الکہف ۴۵
۱۲۔ الاعراف ۳۲ اور الروم ۲۸
۱۳۔ البقرة ۱۴۲ و ۲۱۳ اور النور ۴۶ نیز ضمیمہ ۵۶

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا
ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا
السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ
جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ۚ
فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾
فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ
لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ
مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾ قُلْ مَنْ
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ
مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ
الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ
الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ
حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

۶۔ ضمیمہ ۲۸
۷۔ الانعام ۲۲
۸۔ القصص ٦۳
۹۔ ضمیمہ ۱۳۹
۱۰۔ النمل ٦٤، سبا ۲٤ اور فاطر ۳
۱۱۔ آل عمران ۲۷ اور الروم ۱۹ جبکہ «مُخرجُ المیّتِ» الانعام ۹۵ میں ھے۔
۱۲۔ یونس ۳، الرعد ۲ اور السجدۃ ۵
۱۳۔ ضمیمہ ۱٦۵
ع ۳ ۸
۱٤۔ المؤمن ٦

قُلۡ هَلۡ مِنۡ شُرَكَآئِكُمۡ مَّنۡ يَّبۡدَؤُا الۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيۡدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ
يَبۡدَؤُا الۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيۡدُهٗ فَاَنّٰى تُؤۡفَكُوۡنَ ﴿۳۴﴾ قُلۡ هَلۡ مِنۡ شُرَكَآئِكُمۡ
مَّنۡ يَّهۡدِىۡۤ اِلَى الۡحَـقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهۡدِىۡ لِلۡحَـقِّ ؕ اَفَمَنۡ يَّهۡدِىۡۤ
اِلَى الۡحَـقِّ اَحَقُّ اَنۡ يُّتَّبَعَ اَمَّنۡ لَّا يَهِدِّىۡۤ اِلَّاۤ اَنۡ يُّهۡدٰى ۚ فَمَا لَـكُمۡ ۚ
كَيۡفَ تَحۡكُمُوۡنَ ﴿۳۵﴾ وَمَا يَتَّبِعُ اَكۡثَرُهُمۡ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغۡنِىۡ
مِنَ الۡحَـقِّ شَيۡـئًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌۢ بِمَا يَفۡعَلُوۡنَ ﴿۳۶﴾ وَمَا كَانَ هٰذَا
الۡقُرۡاٰنُ اَنۡ يُّفۡتَرٰى مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَلٰـكِنۡ تَصۡدِيۡقَ الَّذِىۡ
بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَتَفۡصِيۡلَ الۡـكِتٰبِ لَا رَيۡبَ فِيۡهِ مِنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۳۷﴾
اَمۡ يَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰٮهُ ؕ قُلۡ فَاۡتُوۡا بِسُوۡرَةٍ مِّثۡلِهٖ وَادۡعُوۡا مَنِ
اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ﴿۳۸﴾ بَلۡ كَذَّبُوۡا
بِمَا لَمۡ يُحِيۡطُوۡا بِعِلۡمِهٖ وَلَمَّا يَاۡتِهِمۡ تَاۡوِيۡلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ
الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ فَانْظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۳۹﴾ وَ
مِنۡهُمۡ مَّنۡ يُّؤۡمِنُ بِهٖ وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ لَّا يُؤۡمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ اَعۡلَمُ
بِالۡمُفۡسِدِيۡنَ ﴿۴۰﴾ وَاِنۡ كَذَّبُوۡكَ فَقُلْ لِّىۡ عَمَلِىۡ وَلَـكُمۡ عَمَلُكُمۡ ۚ
اَنۡتُمۡ بَرِيۡٓــئُوۡنَ مِمَّاۤ اَعۡمَلُ وَاَنَا بَرِىۡٓءٌ مِّمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۴۱﴾

۵۔ النجم ۲۸
۶۔ النور ۴۱ جبکہ «یعملون» کیساتھ یوسف ۱۹ میں ہے۔
۷۔ ضمیمہ ۱۹
۸۔ یوسف ۱۱۱
۹۔ السجدۃ ۲ نیز ضمیمہ ۴
۱۰۔ ضمیمہ ۱۸۲
۱۱۔ البقرۃ ۲۳ اور ہود ۱۳
۱۲۔ ضمیمہ ۱۹
۱۳۔ ضمیمہ ۲۰
۱۴۔ الانعام ۱۴۸
۱۵۔ القصص ۴۰ نیز ضمیمہ ۱۶۷
۱۶۔ الشعراء ۲۱۶

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ۭ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ۭ اَفَاَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـــًٔا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَھُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ وَيَوْمَ يَحْشُرُھُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَھُمْ ۭ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاۗءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝ وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُھُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُھُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰي مَا يَفْعَلُوْنَ ۝ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَاۗءَ رَسُوْلُھُمْ قُضِيَ بَيْنَھُمْ بِالْقِسْطِ وَھُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَاۗءَ اللّٰهُ ۭ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۭ اِذَا جَاۗءَ اَجَلُھُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝ اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ۭ اٰۗلْــٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝ ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝

٤۔ الزخرف ٤٠
٥۔ الفرقان ١٧ جبکہ الانعام ١٢٨ اور سبا ٤٠ میں «جَمیعا» استعمال ہوا ہے۔
٦۔ الاحقاف ٣٥ اور النازعات ٤٦
٧۔ الانعام ٣١ اور ١٤٠
٨۔ الرعد ٤٠ اور المومن ٧٧
٩۔ یونس ٥٤ اور الزمر ٦٩ و ٧٥
١٠۔ ضمیمہ ١٨٣
١١۔ ضمیمہ ٢٠
١٢۔ الاعراف ١٨٨
١٣۔ المآئدۃ ٧٦ ، طه ٨٩ اور الفرقان ٣ جبکہ الاعراف ١٨٨ ، الرعد ١٦ اور سبا ٤٢ میں «نَفعا» مقدم ہے۔

١٤۔ ضمیمہ ١٥٤ ١٥۔ الاعراف ٣٤ ١٦۔ صرف یہیں نیز «فاِذا» کیساتھ الاعراف ٣٤ ، النحل ٦١ اور فاطر ٤٥ میں ہے۔ ١٧۔ الاعراف ٣٤ اور النحل ٦١ نیز «تستأخِرُونَ» کیساتھ سبا ٣٠ میں ہے۔
١٨۔ ضمیمہ ١٤٦ ١٩۔ یونس ٩١ ٢٠۔ السجدۃ ١٤ ٢١۔ الاعراف ٣٩ نیز الزمر ٢٤

وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ۭؔ قُلْ اِيْ وَرَبِّيْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ۚؕ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝۵۳
وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ۭ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ
لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝۵۴ اَلَآ
اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۵۵ هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝۵۶ يٰٓاَيُّهَا
النَّاسُ قَدْ جَاۗءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاۗءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ڏ
وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝۵۷ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ
فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ۭ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝۵۸ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ
اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ۭ قُلْ اٰۗللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ
اَمْ عَلَي اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ۝۵۹ وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَي اللّٰهِ
الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَي النَّاسِ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝۶۰ وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ
قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ
فِيْهِ ۭ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاۗءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝۶۱

٤۔ النور ٦٤ نیز ضمیمه ۱۲۷ اور ٥١
٥۔ ضمیمه ۱۸٤
٦۔ ضمیمه ۱٤۳
٧۔ ضمیمه ۸۹
۸۔ ضمیمه ۸۲
۹۔ ضمیمه ۱٦
۱۰۔ الاسرآء ۸۲ اور النمل ٧٧
۱۱۔ آل عمران ۱٥٧ اور الزخرف ۳۲
۱۲۔ ضمیمه ۱٤٦
۱۳۔ المآئدة ۱۰۳ ، یونس ٦٩ اور النحل ۱۱٦
۱٤۔ البقرة ۲٤۳ اور المؤمن ٦١

۱٥۔ النمل ٧۳ ۱٦۔ (لِ) زیر کیساتھ صرف یہیں جبکہ پیش کیساتھ سبا ۳ میں نیز زبر کیساتھ النسآء ٤۰ ، سبا ۲۲ اور الزلزال ٧ و ۸ میں آیا ہے۔ ۱٧۔ سبا ۳ ۱۸۔ ضمیمه ۱٤۸

اَلَآ اِنَّ اَوۡلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ ﴿۶۲﴾
الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَكَانُوۡا يَتَّقُوۡنَ ﴿۶۳﴾ لَهُمُ الۡبُشۡرٰى فِى الۡحَيٰوةِ
الدُّنۡيَا وَفِى الۡاٰخِرَةِ ‌ؕ لَا تَبۡدِيۡلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ‌ ؕ ذٰلِكَ هُوَ
الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ ﴿۶۴﴾ وَلَا يَحۡزُنۡكَ قَوۡلُهُمۡ‌ۘ اِنَّ الۡعِزَّةَ لِلّٰهِ
جَمِيۡعًا‌ ؕ هُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ ﴿۶۵﴾ اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَنۡ فِى السَّمٰوٰتِ
وَمَنۡ فِى الۡاَرۡضِ‌ ؕ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيۡنَ يَدۡعُوۡنَ مِنۡ
دُوۡنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ‌ ؕ اِنۡ يَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنۡ هُمۡ اِلَّا
يَخۡرُصُوۡنَ ﴿۶۶﴾ هُوَ الَّذِىۡ جَعَلَ لَـكُمُ الَّيۡلَ لِتَسۡكُنُوۡا
فِيۡهِ وَالنَّهَارَ مُبۡصِرًا‌ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ
يَّسۡمَعُوۡنَ ﴿۶۷﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا‌ سُبۡحٰنَهٗ‌ ؕ هُوَ الۡغَنِىُّ‌ ؕ
لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ‌ ؕ اِنۡ عِنۡدَكُمۡ مِّنۡ
سُلۡطٰنٍۢ بِهٰذَا‌ ؕ اَتَقُوۡلُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۶۸﴾
قُلۡ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَفۡتَرُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ الۡكَذِبَ لَا
يُفۡلِحُوۡنَ ﴿۶۹﴾ مَتَاعٌ فِى الدُّنۡيَا ثُمَّ اِلَيۡنَا مَرۡجِعُهُمۡ ثُمَّ
نُذِيۡقُهُمُ الۡعَذَابَ الشَّدِيۡدَ بِمَا كَانُوۡا يَكۡفُرُوۡنَ ﴿۷۰﴾

۱۸ ۳۔ الروم ۳۰ ٤۔ التوبة ۷۲ ، الدخان ٥٧ اور الحدید ۱۲ ٥۔ یس ٧٦ ٦۔ النسآء ۱۳۹ ۷۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ٥٥ ۸۔ صرف یہیں نیز الحج ۱۸ ، النمل ۸۷ اور الزمر ٦٨ ۹۔ ضمیمہ ۱۹ ۱۰۔ الانعام ۱۱٦ اور النجم ۲۳ و ۲۸ ۱۱۔ الانعام ۱۱٦ و ۱٤۸ اور الزخرف ۲۰ ۱۲۔ المؤمن ٦١

۱۳۔ الروم ۲۳ نیز النحل ٦٥ میں «لآیة» یعنی (ت) کے دو زبر کیساتھ ھے نیز ضمیمہ ۲۲٥
۱٤۔ البقرة ۱۱٦ ۱٥۔ ضمیمہ ۸٥ و ۸٦ ۱٦۔ الاعرف ۲۸ جبکہ «اَم» البقرة ۸۰ میں استعمال ہوا ھے۔ ۱۷۔ المآئدة ۱۰۳ ، یونس ٦۰ اور النحل ۱۱٦ ۱۸۔ النحل ۱۱۷

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿۷۱﴾ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۷۲﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿۷۳﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۷۴﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿۷۵﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۷۶﴾ قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ اَسِحْرٌ هٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿۷۷﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِي الْاَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿۷۸﴾

۴۔ یونس ۱۰۴ اور النمل ۹۱
۵۔ الاعراف ۶۴ اور ۷۲
۶۔ الاعراف ۶۴
۷۔ الصآفات ۷۳ نیز ضمیمہ ۱۶۷
۸۔ الاعراف ۱۰۳ اور یونس ۷۵
۹۔ الروم ۴۷
۱۰۔ الاعراف ۱۰۱ جبکہ «وَمَا كَانُوا لِيُؤمِنُوا» یونس ۱۳ میں ہے۔
۱۱۔ صرف یہیں۔
۱۲۔ الاعراف ۱۰۳ اور یونس ۷۴
۱۳۔ الاعراف ۱۳۳ اور الجاثیۃ ۳۱ جبکہ «عَالِينَ» المؤمنون ۴۶ میں ہے۔

۱۴۔ القصص ۴۸ اور المؤمن ۲۵ ۱۵۔ یونس ۲ ۱۶۔ الاعراف ۷۰ ، الانبیآء ۵۵ اور الاحقاف ۲۲

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ
قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰۤى اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى
مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ
الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾
فَمَاۤ اٰمَنَ لِمُوْسٰۤى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ
وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ
لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ
فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٥﴾ ۙ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ
الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ
لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا
الصَّلٰوةَ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَاۤ اِنَّكَ اٰتَيْتَ
فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا
لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰۤى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ
عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٨٨﴾

٥ـ الانفال ٧
٦ـ الانفال ٨
٧ـ صرف یہیں۔
٨ـ القصص ٤
٩ـ الاعراف ٨٩
١٠ـ صرف یہیں۔
ع ١٢ / ٨ / ١٣
١١ـ ضمیمہ ٧٤
١٢ـ یونس ٩٧ اور الشعرآء ٢٠١

قَالَ قَدْ اُجِیْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِیْمَا وَ لَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِیْلَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۸۹﴾ وَ جٰوَزْنَا بِبَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُوْدُهٗ بَغْیًا وَّ عَدْوًا ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِیْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۹۰﴾ آٰلْـٰٔنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ ﴿۹۱﴾ فَالْیَوْمَ نُنَجِّیْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰیَةً ؕ وَ اِنَّ كَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰیٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ﴿۹۲﴾ ع وَ لَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰی جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ یَقْضِیْ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فِیْمَا كَانُوْا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ ﴿۹۳﴾ فَاِنْ كُنْتَ فِیْ شَكٍّ مِّمَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِیْنَ یَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِیْنَ ﴿۹۴﴾ وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴿۹۵﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ حَقَّتْ عَلَیْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۹۶﴾ وَ لَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰیَةٍ حَتّٰی یَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِیْمَ ﴿۹۷﴾

۶۔ آل عمران ۱۹ ، الشوریٰ ۱۴ اور الجاثیۃ ۱۷
۷۔ النمل ۷۸ اور الجاثیۃ ۱۷
۸۔ ضمیمہ ۵۰
۹۔ البقرۃ ۱۴۷ اور الانعام ۱۱۴
۱۰۔ یونس ۸۸ اور الشعرآء ۲۰۱

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ۭ لَمَّآ
اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ
اِلٰى حِيْنٍ ۝۹۸ وَلَوْ شَاۗءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۭ
اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝۹۹ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ
اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَي الَّذِيْنَ لَا
يَعْقِلُوْنَ ۝۱۰۰ قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَمَا تُغْنِي
الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝۱۰۱ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا
مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ
مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝۱۰۲ ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ
حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۰۳ قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ
شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ښ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۰۴ وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝۱۰۵ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ
لَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝۱۰۶

ع ۱۰ ۱۱ ۱۵

۵۔ الانعام ۱۲۵
۶۔ البقرة ۲۱۴
۷۔ الاعراف ۷۱ اور یونس ۲۰
۸۔ الانبیآء ۸۸
۹۔ الاعراف ۱۵۸، یونس ۱۰۸ اور الحج ۴۹ نیز ضمیمہ ۱۶
۱۰۔ ضمیمہ ۱۹
۱۱۔ یونس ۷۲ اور النمل ۹۱
۱۲۔ الروم ۳۰ اور ۴۳
۱۳۔ الانعام ۱۴ اور القصص ۸۷
۱۴۔ القصص ۸۸
۱۵۔ ضمیمہ ۱۹
۱۶۔ صرف یہیں۔

وَاِنۡ يَّمۡسَسۡكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ‌ۚ وَاِنۡ يُّرِدۡكَ بِخَيۡرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهٖ‌ؕ يُصِيۡبُ بِهٖ مَنۡ يَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖ‌ؕ وَهُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِيۡمُ ۝۱۰۷ قُلۡ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدۡ جَآءَكُمُ الۡحَـقُّ مِنۡ رَّبِّكُمۡ‌ۚ فَمَنِ اهۡتَدٰى فَاِنَّمَا يَهۡتَدِىۡ لِنَفۡسِهٖ‌ۚ وَمَنۡ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَا‌ۚ وَمَاۤ اَنَا عَلَيۡكُمۡ بِوَكِيۡلٍؕ ۝۱۰۸ وَاتَّبِعۡ مَا يُوۡحٰۤى اِلَيۡكَ وَاصۡبِرۡ حَتّٰى يَحۡكُمَ اللّٰهُ ‌ۚ‌ۖ وَهُوَ خَيۡرُ الۡحٰكِمِيۡنَ ۝۱۰۹

ع ۱۱ ۱۶

سُوۡرَةُ هُوۡدٍ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَّثَلٰثٌ وَّعِشۡرُوۡنَ اٰيَةً وَّعَشۡرُ رُكُوۡعَاتٍ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

الٓرٰ‌ كِتٰبٌ اُحۡكِمَتۡ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِنۡ لَّدُنۡ حَكِيۡمٍ خَبِيۡرٍۙ ۝۱ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّا اللّٰهَ‌ؕ اِنَّنِىۡ لَـكُمۡ مِّنۡهُ نَذِيۡرٌ وَّبَشِيۡرٌۙ ۝۲ وَّاَنِ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَيۡهِ يُمَتِّعۡكُمۡ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤۡتِ كُلَّ ذِىۡ فَضۡلٍ فَضۡلَهٗ‌ؕ وَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَاِنِّىۡۤ اَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ كَبِيۡرٍ ۝۳ اِلَى اللّٰهِ مَرۡجِعُكُمۡ‌ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ۝۴ اَلَاۤ اِنَّهُمۡ يَثۡنُوۡنَ صُدُوۡرَهُمۡ لِيَسۡتَخۡفُوۡا مِنۡهُ‌ؕ اَلَا حِيۡنَ يَسۡتَغۡشُوۡنَ ثِيَابَهُمۡۙ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّوۡنَ وَمَا يُعۡلِنُوۡنَ‌ۚ اِنَّهٗ عَلِيۡمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ ۝۵

۱۶
۴۔ الاسرآء ۱۵ ، النمل ۹۲ اور الزمر ۴۱
۵۔ صرف یہیں نیز الانعام ۱۰۷ ، الزمر ۴۱ اور الشوری ۶
۶۔ الاعراف ۸۷ نیز صرف «وھو خیر الحکمین» یوسف ۸۰ میں ھے۔
۷۔ ضمیمہ ۱۷۹
۸۔ ھود ۲۶ ، حم السجدۃ ۱۴ اور الاحقاف ۲۱
۹۔ ھود ۵۲ ، ۶۱ اور ۹۰
۱۰۔ خیال رھے کہ یھاں «جَمِیعا» استعمال نھیں ھوا۔
۱۱۔ ضمیمہ ۱۳۴

۱۲۔ خیال رھے (شُ) پر پیش ھے۔ ۱۳۔ البقرۃ ۷۷ ، النحل ۲۳ اور یس ۷۶ ۱۴۔ ضمیمہ ۱۷۴

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿۶﴾ وَ
هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّ كَانَ
عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَلَئِنْ قُلْتَ
اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ
هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۷﴾ وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰۤى اُمَّةٍ
مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا
عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۸﴾ وَلَئِنْ اَذَقْنَا
الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ ﴿۹﴾
وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ
السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ ؕ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ﴿۱۰﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿۱۱﴾
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ
صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ
مَلَكٌ ؕ اِنَّمَاۤ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿۱۲﴾

ركوع ۱ ع ۸

۵۔ الروم ۵۸
۶۔ ضمیمہ ۱۳۱
۷۔ ضمیمہ ۱۸۵
۸۔ هود ۱۰
۹۔ الشوری ٤۸
۱۰۔ هود ۹ اور حم السجدة ۵۰
۱۱۔ حم السجدة ۵۰
۱۲۔ حم السجدة ۳۵
۱۳۔ فاطر ۷ اور الملك ۱۲
۱٤۔ الکهف ٦ اور الشعرآء ۳
۱۵۔ ضمیمہ ۱۳۷
۱٦۔ الانعام ۱۰۲ اور الزمر ٦۲

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۳﴾ فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَاۤ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱٤﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿۱۵﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱٦﴾ اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰۤى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۗ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۷﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۸﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿۱۹﴾

۵۔ القصص ۵۰
٦۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۵۹
۷۔ الانبیآء ۱۰۸
۸۔ ضمیمہ ۱۳
۹۔ خیال رہے یہاں (رُ) پر پیش ہے۔
۱۰۔ الاعراف ۱۳۹ نیز ضمیمہ ۱۲۹
۱۱۔ محمد ۱٤
۱۲۔ الاحقاف ۱۲
۱۳۔ البقرۃ ۱۲۱
۱٤۔ الرعد ۱ اور المومن ۵۹ نیز ضمیمہ ۱۷۲
۱۵۔ ضمیمہ ۱۳۸
۱٦۔ الاعراف ٤٤
۱۷۔ الاعراف ٤۵ اور ابراھیم ۳
۱۸۔ یوسف ۳۷ اور حم السجدۃ ۷ جبکہ «هُم» الاعراف ٤۵ میں شامل نہیں ہے۔

أُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِّنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا
يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿۲۰﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ
خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۱﴾ لَا جَرَمَ
أَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿۲۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلٰى رَبِّهِمْ ۙ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ
فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿۲۳﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمٰى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ
وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۲۴﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
نُوحًا إِلٰى قَوْمِهٖٓ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۵﴾ أَنْ لَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا
اللّٰهَ ۖ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿۲۶﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ
اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ
عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِينَ ﴿۲۷﴾ قَالَ يٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ
إِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّي وَاٰتٰىنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ
فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ۖ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُونَ ﴿۲۸﴾

۴۔ النحل ۱۰۹ اور النمل ۵
۵۔ ضمیمه ۹۲
۶۔ ضمیمه ۴۳
۷۔ ضمیمه ۲۸
۸۔ الزمر ۲۹
۹۔ ضمیمه ۱۸۰
۱۰۔ المؤمنون ۲۳، العنکبوت ۱۴ اور نوح ۱ نیز الحدید ۲۶
۱۱۔ نوح ۲
۱۲۔ هود ۲، حم السجدة ۱۴ اور الاحقاف ۲۱
۱۳۔ «الیم» کیساتھ صرف یهیں نیز الاعراف ۵۹، الشعرآء ۱۳۵ اور الاحقاف ۲۱
۱۴۔ الاعراف ۶۶ و ۹۰ اور المؤمنون ۲۴

۱۵۔ «بَشَرًا» (ر) کے دو زبر کیساتھ صرف یهیں جبکه دو پیش کیساتھ ابراهیم ۱۰ اور یس ۱۵ میں آیا هے۔
۱۶۔ هود ۶۳ اور ۸۸

۱۔ ھود ۵۱ نیز «وَیٰقَوْمِ» ھود ۳۰، ۵۲، ۶۴، ۸۵، ۸۹ و ۹۳ اور المؤمن ۳۲ و ۴۱ میں ھے۔

وَیٰقَوْمِ لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلَی اللّٰهِ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّیْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿۲۹﴾ وَیٰقَوْمِ مَنْ یَّنْصُرُنِیْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۳۰﴾ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِیْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّیْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِیْنَ تَزْدَرِیْٓ اَعْیُنُكُمْ لَنْ یُّؤْتِیَهُمُ اللّٰهُ خَیْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِیْٓ اَنْفُسِهِمْ ۚۖ اِنِّیْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِیْنَ ﴿۳۱﴾ قَالُوْا یٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۳۲﴾ قَالَ اِنَّمَا یَاْتِیْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ ﴿۳۳﴾ وَلَا یَنْفَعُكُمْ نُصْحِیْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ یُرِیْدُ اَنْ یُّغْوِیَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۫ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۳۴﴾ اَمْ یَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَیْتُهٗ فَعَلَیَّ اِجْرَامِیْ وَاَنَا بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَاُوْحِیَ اِلٰی نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ یُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا یَفْعَلُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِیْ فِی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿۳۷﴾

۲۔ یونس ۷۲ اور سبا ۴۷
۳۔ ھود ۲۹، ۵۲، ۶۴، ۸۵، ۸۹ و ۹۳ اور المؤمن ۳۲ و ۴۱
۴۔ ضمیمہ ۱۸۰
۵۔ الانعام ۵۰
۶۔ الاعراف ۷۰ اور الاحقاف ۲۲
۷۔ ضمیمہ ۱۶۶
۸۔ الانعام ۱۳۴، یونس ۵۳، العنکبوت ۲۲ اور الشوری ۳۱
۹۔ ضمیمہ ۸۲
۱۰۔ ضمیمہ ۱۸۲
۱۱۔ یوسف ۶۹
۱۲۔ الانعام ۱۵۹
۱۳۔ ھود ۳۸
۱۴۔ المؤمنون ۲۷

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ؕ
قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ﴿۳۸﴾ فَسَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ
مُّقِيْمٌ ﴿۳۹﴾ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ
كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ
اٰمَنَ ؕ وَمَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿۴۰﴾ وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ
اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۴۱﴾ وَهِيَ تَجْرِيْ
بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۫ وَنَادٰى نُوْحُ ِۨابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ
مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۴۲﴾ قَالَ سَاٰوِيْۤ
اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ
اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿۴۳﴾
وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ
وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۴﴾ وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ
اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۴۵﴾

۵۔ یوسف ۵۳ اور النمل ۱۱
٦۔ المؤمنون ٤١

روحفص بفتح الميم ومالہ الراء ۱۲

قَالَ يٰنُوۡحُ اِنَّهٗ لَيۡسَ مِنۡ اَهۡلِكَ‌ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيۡرُ صَالِحٍ‌ ‌ۖ فَلَا تَسۡـَٔلۡنِ مَا لَـيۡسَ لَـكَ بِهٖ عِلۡمٌ‌ ؕ اِنِّىۡۤ اَعِظُكَ اَنۡ تَكُوۡنَ مِنَ الۡجٰهِلِيۡنَ ۝۴٦ قَالَ رَبِّ اِنِّىۡۤ اَعُوۡذُ بِكَ اَنۡ اَسۡـَٔلَكَ مَا لَـيۡسَ لِىۡ بِهٖ عِلۡمٌ‌ ؕ وَاِلَّا تَغۡفِرۡ لِىۡ وَتَرۡحَمۡنِىۡۤ اَكُنۡ مِّنَ الۡخٰسِرِيۡنَ ۝۴۷ قِيۡلَ يٰنُوۡحُ اهۡبِطۡ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيۡكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنۡ مَّعَكَ‌ ؕ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمۡ ثُمَّ يَمَسُّهُمۡ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ۝۴۸ تِلۡكَ مِنۡ اَنۡۢبَآءِ الۡغَيۡبِ نُوۡحِيۡهَاۤ اِلَيۡكَ‌ۚ مَا كُنۡتَ تَعۡلَمُهَاۤ اَنۡتَ وَلَا قَوۡمُكَ مِنۡ قَبۡلِ هٰذَا‌ ۛؕ فَاصۡبِرۡ‌ ؕۛ اِنَّ الۡعَاقِبَةَ لِلۡمُتَّقِيۡنَ ۝۴۹ ع

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمۡ هُوۡدًا‌ ؕ قَالَ يٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ مَا لَـكُمۡ مِّنۡ اِلٰهٍ غَيۡرُهٗ‌ ؕ اِنۡ اَنۡتُمۡ اِلَّا مُفۡتَرُوۡنَ ۝۵۰ يٰقَوۡمِ لَاۤ اَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ اَجۡرًا‌ ؕ اِنۡ اَجۡرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىۡ فَطَرَنِىۡ‌ ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ ۝۵۱ وَيٰقَوۡمِ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَيۡهِ يُرۡسِلِ السَّمَآءَ عَلَيۡكُمۡ مِّدۡرَارًا وَّيَزِدۡكُمۡ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمۡ وَلَا تَتَوَلَّوۡا مُجۡرِمِيۡنَ ۝۵۲ قَالُوۡا يٰهُوۡدُ مَا جِئۡتَـنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحۡنُ بِتٰرِكِىۡۤ اٰلِهَتِنَا عَنۡ قَوۡلِكَ وَمَا نَحۡنُ لَـكَ بِمُؤۡمِنِيۡنَ ۝۵۳

٤ ع ۱۲ الوقف علیٰ فاصبر احسن والوقف علیٰ ھذا عند المتأخرین ۱۲

۳۔ المؤمن ۴۲
۴۔ یس ۱۸
۵۔ آل عمران ۴۴ اور یوسف ۱۰۲
٦۔ الاعراف ٦۵
۷۔ ضمیمہ ۱٦۴
۸۔ ضمیمہ ۱٦۳
۹۔ ھود ۲۹
۱۰۔ ضمیمہ ۳۱
۱۱۔ صرف یہیں نیز

«وان استغفروا ربکم» ھود ۳ میں، «واستغفروا ربکم» ھود ۹۰ میں نیز «ویاقوم»

ھود ۲۹ ، ۳۰ ، ۵۲ ، ٦۴ ، ۸۵ ، ۸۹ و ۹۳ اور المؤمن ۳۲ و ۴۱ میں ھے۔
۱۲۔ ھود ۳ ، ٦۱ اور ۹۰
۱۳۔ نوح ۱۱ جبکہ «عَلَیھِم» کیساتھ الانعام ٦ میں ھے۔
۱۴۔ الاعراف ۱۳۲

۱۔ الانعام ۱۹ و ۷۸ اور التوبۃ ۳ ۲۔ (ذ) دو پیش کیساتھ پورے قرآن کریم میں صرف بھیں استعمال ہوئی ھے.

إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَىٰكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّيٓ أُشْهِدُ اللّٰهَ
وَاشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِن دُونِهٖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا
ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِن دَآبَّةٍ
إِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَإِن
تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهٖٓ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا
غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهٗ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾ وَ
لَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ
نَجَّيْنٰهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ
وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوٓا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾ وَأُتْبِعُوا فِي
هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ
أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ
اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ
مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾ قَالُوا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ ۖ أَتَنْهٰنَآ أَن
نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾

ع ۵

۳۔ ضمیمہ ۱۴۵
۴۔ الاحقاف ۲۳
۵۔ التوبۃ ۳۹
۶۔ ھود ۶۶، ۸۲ اور ۹۴
۷۔ ھود ۶۶
۸۔ لقمان ۲۴ اور حم السجدۃ ۵۰
۹۔ ابراھیم ۱۵
۱۰۔ ھود ۹۹ اور القصص ۴۲
۱۱۔ الاعراف ۷۳
۱۲۔ ضمیمہ ۱۶۴
۱۳۔ ضمیمہ ۱۶۳
۱۴۔ ھود ۳، ۵۲ اور ۹۰
۱۵۔ ھود ۸۷
۱۶۔ ابراھیم ۹ اور حم السجدۃ ۵

قَالَ يٰقَوۡمِ اَرَءَيۡتُمۡ اِنۡ كُنۡتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنۡ رَّبِّىۡ وَاٰتٰٮنِىۡ مِنۡهُ رَحۡمَةً فَمَنۡ يَّنۡصُرُنِىۡ مِنَ اللّٰهِ اِنۡ عَصَيۡتُهٗ فَمَا تَزِيۡدُوۡنَنِىۡ غَيۡرَ تَخۡسِيۡرٍ ﴿۶۳﴾ وَيٰقَوۡمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَـكُمۡ اٰيَةً فَذَرُوۡهَا تَاۡكُلۡ فِىۡۤ اَرۡضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوۡهَا بِسُوۡۤءٍ فَيَاۡخُذَكُمۡ عَذَابٌ قَرِيۡبٌ ﴿۶۴﴾ فَعَقَرُوۡهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوۡا فِىۡ دَارِكُمۡ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعۡدٌ غَيۡرُ مَكۡذُوۡبٍ ﴿۶۵﴾ فَلَمَّا جَآءَ اَمۡرُنَا نَجَّيۡنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَعَهٗ بِرَحۡمَةٍ مِّنَّا وَمِنۡ خِزۡىِ يَوۡمِـئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الۡقَوِىُّ الۡعَزِيۡزُ ﴿۶۶﴾ وَاَخَذَ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوا الصَّيۡحَةُ فَاَصۡبَحُوۡا فِىۡ دِيَارِهِمۡ جٰثِمِيۡنَ ۙ ﴿۶۷﴾ كَاَنۡ لَّمۡ يَغۡنَوۡا فِيۡهَا ؕ اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوۡدَا۟ كَفَرُوۡا رَبَّهُمۡ ؕ اَلَا بُعۡدًا لِّـثَمُوۡدَ ﴿۶۸﴾ وَلَقَدۡ جَآءَتۡ رُسُلُنَاۤ اِبۡرٰهِيۡمَ بِالۡبُشۡرٰى قَالُوۡا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنۡ جَآءَ بِعِجۡلٍ حَنِيۡذٍ ﴿۶۹﴾ فَلَمَّا رَاٰۤ اَيۡدِيَهُمۡ لَا تَصِلُ اِلَيۡهِ نَكِرَهُمۡ وَاَوۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِيۡفَةً ؕ قَالُوۡا لَا تَخَفۡ اِنَّاۤ اُرۡسِلۡنَاۤ اِلٰى قَوۡمِ لُوۡطٍ ؕ ﴿۷۰﴾ وَامۡرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتۡ فَبَشَّرۡنٰهَا بِاِسۡحٰقَ ۙ وَمِنۡ وَّرَآءِ اِسۡحٰقَ يَعۡقُوۡبَ ﴿۷۱﴾ قَالَتۡ يٰوَيۡلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوۡزٌ وَّهٰذَا بَعۡلِىۡ شَيۡخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَىۡءٌ عَجِيۡبٌ ﴿۷۲﴾

٣ـ الاعراف ٧٣
٤ـ الاعراف ٧٣ اور الشعرآء ١٥٦
٥ـ الشعرآء ١٥٧
٦ـ هود ٥٨ ، ٨٢ اور ٩٤
٧ـ هود ٥٨
٨ـ المعارج ١١ نیز خیال رکھیے (م) کے نیچے زیر ہے.
٩ـ هود ٩٤
١٠ـ هود ٩٤ نیز الاعراف ٧٨ و ٩١ اور العنکبوت ٣٧ میں «دارِهِم» ہے.
١١ـ هود ٩٥
١٢ـ هود ٧٧ اور العنکبوت ٣١ و ٣٣
١٣ـ العنکبوت ٣١
١٤ـ الحجر ٥٢ اور الذاریات ٢٥

١٥ـ طه ٦٧ اور الذاریات ٢٨ ١٦ـ العنکبوت ٣٣ ، ص ٢٢ اور الذاریات ٢٨

قَالُوۡۤا اَتَعۡجَبِيۡنَ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ رَحۡمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيۡكُمۡ اَهۡلَ
الۡبَيۡتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيۡدٌ مَّجِيۡدٌ ﴿۷۳﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنۡ اِبۡرٰهِيۡمَ الرَّوۡعُ
وَجَآءَتۡهُ الۡبُشۡرٰى يُجَادِلُنَا فِىۡ قَوۡمِ لُوۡطٍ ؕ ﴿۷۴﴾ اِنَّ اِبۡرٰهِيۡمَ
لَحَلِيۡمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيۡبٌ ﴿۷۵﴾ يٰۤاِبۡرٰهِيۡمُ اَعۡرِضۡ عَنۡ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدۡ
جَآءَ اَمۡرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمۡ اٰتِيۡهِمۡ عَذَابٌ غَيۡرُ مَرۡدُوۡدٍ ﴿۷۶﴾ وَلَمَّا
جَآءَتۡ رُسُلُنَا لُوۡطًا سِىۡٓءَ بِهِمۡ وَضَاقَ بِهِمۡ ذَرۡعًا وَّقَالَ هٰذَا
يَوۡمٌ عَصِيۡبٌ ﴿۷۷﴾ وَجَآءَهٗ قَوۡمُهٗ يُهۡرَعُوۡنَ اِلَيۡهِ ؕ وَمِنۡ قَبۡلُ
كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوۡمِ هٰٓؤُلَۤاءِ بَنَاتِىۡ هُنَّ اَطۡهَرُ
لَـكُمۡ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخۡزُوۡنِ فِىۡ ضَيۡفِىۡ ؕ اَلَيۡسَ مِنۡكُمۡ رَجُلٌ
رَّشِيۡدٌ ﴿۷۸﴾ قَالُوۡا لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَا لَـنَا فِىۡ بَنٰتِكَ مِنۡ حَقٍّ ۚ
وَاِنَّكَ لَتَعۡلَمُ مَا نُرِيۡدُ ﴿۷۹﴾ قَالَ لَوۡ اَنَّ لِىۡ بِكُمۡ قُوَّةً اَوۡ
اٰوِىۡۤ اِلٰى رُكۡنٍ شَدِيۡدٍ ﴿۸۰﴾ قَالُوۡا يٰلُوۡطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ
لَنۡ يَّصِلُوۡۤا اِلَيۡكَ فَاَسۡرِ بِاَهۡلِكَ بِقِطۡعٍ مِّنَ الَّيۡلِ وَلَا
يَلۡتَفِتۡ مِنۡكُمۡ اَحَدٌ اِلَّا امۡرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيۡبُهَا مَاۤ اَصَابَهُمۡ ؕ
اِنَّ مَوۡعِدَهُمُ الصُّبۡحُ ؕ اَلَيۡسَ الصُّبۡحُ بِقَرِيۡبٍ ﴿۸۱﴾

جآء ت» کیساتھ العنکبوت ۳۳ میں اور «ولقد جآء ت» کیساتھ هود ۶۹ میں ہے۔
٤۔ العنکبوت ۳۳
٥۔ الحجر ٦۹ نیز ضمیمہ ۹۸
٦۔ الاسرآء ۱۰۲
۷۔ خیال سے پڑھیے نیز «واتبع ادبارهم» کیساتھ الحجر ٦٥ میں ہے۔

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا
حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ﴿۸۲﴾ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَ
مَاهِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ﴿۸۳﴾ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ
قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ وَلَا
تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْۤ
اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ﴿۸۴﴾ وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا
الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿۸۵﴾ بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿۸۶﴾ قَالُوْا يٰشُعَيْبُ
اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَاۤ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ
فِيْۤ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ﴿۸۷﴾ قَالَ
يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ
مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَاۤ
اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَ
مَا تَوْفِيْقِيْۤ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿۸۸﴾

ع ۷ ۵ ۷

٤۔ الاعراف ۸۵ اور العنکبوت ۳٦
۵۔ ضمیمہ ۱٦٤
٦۔ ضمیمہ ۱٦۳
۷۔ ہود ۲۹، ۳۰، ۵۲، ٦٤، ۸۹ و ۹۳ والمومن ۳۲ اور ٤۱
۸۔ الانعام ۱۵۲ اور الاعراف ۸۵
۹۔ الاعراف ۸۵ اور الشعرآء ۱۸۳
۱۰۔ ضمیمہ ۳٦
۱۱۔ ضمیمہ ٤۵
۱۲۔ الانعام ۱۰٤
۱۳۔ ہود ۹۱
۱٤۔ ہود ٦۲
۱۵۔ ہود ۲۸ اور ٦۳

۱٦۔ الشوریٰ ۱۰ نیز ضمیمہ ۱۷۸

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ
قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ۭ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ
بِبَعِيْدٍ ﴿۸۹﴾ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۭ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ
وَّدُوْدٌ ﴿۹۰﴾ قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا
لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۡ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا
بِعَزِيْزٍ ﴿۹۱﴾ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَ
اتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَاۗءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۭ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿۹۲﴾
وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰي مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۭ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ
مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۭ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّىْ
مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ﴿۹۳﴾ وَلَمَّا جَاۗءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ
فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿۹۴﴾ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۭ
اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ﴿۹۵﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا
مُوْسٰي بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۹۶﴾ ۙ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ىِٕهٖ
فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ﴿۹۷﴾

۳۔ هود ۸۷
٤۔ الانعام ۱۳۵ اور الزمر ۳۹ جبکه «وَيٰقوم» کیلئے مزید دیکھیے هود ۲۹، ۳۰، ۵۲، ٦٤، ۸۵ و ۸۹ اور المؤمن ۳۲ و ٤١
۵۔ التکاثر ۳ اور ٤ نیز ضمیمه ۱۵٦
٦۔ هود ۳۹ اور الزمر ٤٠
۷۔ هود ۵۸، ٦٦ اور ۸۲
۸۔ هود ٦٧
۹۔ هود ٦٧ جبکه دیگر مقامات (الاعراف ۷۸، ۹۱ اور العنکبوت ۳۷) پر «دارِهم» هے.
۱۰۔ هود ٦٨

ع ۸ ۱۲ ۸

۱۱۔ ابراهیم ۵ ، المؤمنون ٤٥ ، المؤمن ۲۳ اور الزخرف ٤٦

يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ؕ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ﴿۹۸﴾ وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ﴿۹۹﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ﴿۱۰۰﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَمَاۤ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ﴿۱۰۱﴾ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ﴿۱۰۲﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ﴿۱۰۳﴾ وَمَا نُؤَخِّرُهٗۤ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ﴿۱۰۴﴾ ؕ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ﴿۱۰۵﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ ﴿۱۰۶﴾ ۙ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿۱۰۷﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ﴿۱۰۸﴾

۵۔ «قِ» زیر والی ہے خیال سے پڑھیے۔
٦۔ خیال رھے (تَ) پر زبر ہے۔
۷۔ ضمیمہ ۵۸
۸۔ ہود ۱۰۸
۹۔ البروج ۱٦
۱۰۔ ضمیمہ ۵۸
۱۱۔ ہود ۱۰۷

فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ۭ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا
يَعْبُدُ اٰبَاۗؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ۭ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ
مَنْقُوْصٍ ﴿١٠٩﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۭ وَ
لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ
شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١١٠﴾ وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ۭ
اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١١﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ
مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۭ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٢﴾ وَلَا تَرْكَنُوْٓا
اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
مِنْ اَوْلِيَاۗءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ
زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۭ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّاٰتِ ۭ ذٰلِكَ ذِكْرٰي
لِلذّٰكِرِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٥﴾
فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ
الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿١١٦﴾ وَمَا
كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰي بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ﴿١١٧﴾

ع ۹ ۹

٥۔ الشوری ١٥
٦۔ حم السجدة ٤٠
٧۔ هود ٢٠ نیز ضمیمه ١٩
٨۔ الزمر ٥٤
٩۔ التوبة ١٢٠ اور یوسف ٥٦ و ٩٠
١٠۔ القصص ٥٩
١١۔ الانعام ١٣١

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ
مُخْتَلِفِيْنَ ﴿۱۱۸﴾ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ؕ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ؕ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ
رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۱۹﴾ وَكُلًّا
نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ
فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۲۰﴾ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ؕ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ﴿۱۲۱﴾ وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا
مُنْتَظِرُوْنَ ﴿۱۲۲﴾ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ
كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۲۳﴾ ع ۱۰ ۱۴

سُوْرَةُ يُوْسُفَ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّاِحْدٰى عَشْرَةَ اٰيَةً وَّاثْنَا عَشَرَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿۱﴾ اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا
لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۲﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ
بِمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ
الْغٰفِلِيْنَ ﴿۳﴾ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ
عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ﴿۴﴾

«مِنَ الجنّةِ وَ النّاس» النّاس ٦ میں هے۔
٤۔ الانعام ١٥٨ اور السجدة ٣٠
٥۔ النحل ٧٧
٦۔ النمل ٩٣
٧۔ ضمیمه ١٧٩
٨۔ الشعرآء ٢ اور القصص ٢
٩۔ الزخرف ٣ اور الدخان ٣
١٠۔ ضمیمه ٤٠
١١۔ الكهف ١٣

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ
كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۵﴾ وَكَذٰلِكَ
يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ
عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ
اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۶﴾ لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ
وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ﴿۷﴾ اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ
اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ ۚۖ ﴿۸﴾
اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَ
تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ﴿۹﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا
يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ
اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿۱۰﴾ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ
وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ﴿۱۱﴾ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا
لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿۱۲﴾ قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ
اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ﴿۱۳﴾ قَالُوْا لَئِنْ
اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿۱۴﴾

٤۔ ضمیمه ۱۱۳
٥۔ یوسف ۱٥
٦۔ الحجر ۷۱ اور الانبیآء ٦٨
۷۔ ضمیمه ۱۸٦
ع ٦ ۱ ۱۱
۸۔ یوسف ٦٣ اور الحجر ۹

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ ۚ
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾
وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا
نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَا
أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ
بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ
جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ
فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ
وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَرَوْهُ
بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾
وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ
عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ
فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ
عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ
أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

۵۔ الانبیاء ۱۱۲
٦۔ صرف یہیں جبکہ «یفعلون» کیساتھ یونس ۳٦ اور النور ٤۱ میں ہے۔
۷۔ القصص ۹
۸۔ یوسف ۵٦
۹۔ ضمیمہ ۱۷۲
۱۰۔ القصص ۱٤
۱۱۔ الانعام ۸٤ اور القصص ۱٤ جبکہ «کذلك» الصافات ۱۱۰ میں استعمال ہوا ہے نیز ضمیمہ ۲۱۷

۴۔ یوسف ۲۷ اور ۲۸
۵۔ یوسف ۲۶ اور ۲۸
۶۔ یوسف ۲۶ اور ۲۷
۷۔ ضمیمہ ۱۵۰

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْۤ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ۚ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۳﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَاۤ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۚ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ۚ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿۲۴﴾ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّاۤ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۵﴾ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۲۶﴾ وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۷﴾ فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۚ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ﴿۲۸﴾ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ٚ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۚ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ﴿۲۹﴾ ؏ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۰﴾

فَلَمَّا سَمِعَتۡ بِمَكۡرِهِنَّ اَرۡسَلَتۡ اِلَيۡهِنَّ وَاَعۡتَدَتۡ لَهُنَّ مُتَّكَاً
وَّاٰتَتۡ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنۡهُنَّ سِكِّيۡنًا وَّقَالَتِ اخۡرُجۡ عَلَيۡهِنَّ ۚ فَلَمَّا
رَاَيۡنَهٗۤ اَكۡبَرۡنَهٗ وَقَطَّعۡنَ اَيۡدِيَهُنَّ ۫ وَقُلۡنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ
اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيۡمٌ ﴿۳۱﴾ قَالَتۡ فَذٰلِكُنَّ الَّذِىۡ لُمۡتُنَّنِىۡ فِيۡهِ ؕ
وَلَقَدۡ رَاوَدْتُّهٗ عَنۡ نَّفۡسِهٖ فَاسۡتَعۡصَمَ ؕ وَلَئِنۡ لَّمۡ يَفۡعَلۡ مَاۤ اٰمُرُهٗ
لَيُسۡجَنَنَّ وَلَيَكُوۡنًا مِّنَ الصّٰغِرِيۡنَ ﴿۳۲﴾ قَالَ رَبِّ السِّجۡنُ اَحَبُّ
اِلَىَّ مِمَّا يَدۡعُوۡنَنِىۡۤ اِلَيۡهِ ۚ وَاِلَّا تَصۡرِفۡ عَنِّىۡ كَيۡدَهُنَّ اَصۡبُ
اِلَيۡهِنَّ وَاَكُنۡ مِّنَ الۡجٰهِلِيۡنَ ﴿۳۳﴾ فَاسۡتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنۡهُ
كَيۡدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيۡعُ الۡعَلِيۡمُ ﴿۳۴﴾ ثُمَّ بَدَا لَهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ مَا رَاَوُا
الۡاٰيٰتِ لَيَسۡجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيۡنٍ ﴿۳۵﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجۡنَ فَتَيٰنِ ؕ
قَالَ اَحَدُهُمَاۤ اِنِّىۡۤ اَرٰٮنِىۡۤ اَعۡصِرُ خَمۡرًا ۚ وَقَالَ الۡاٰخَرُ اِنِّىۡۤ اَرٰٮنِىۡۤ اَحۡمِلُ
فَوۡقَ رَاۡسِىۡ خُبۡزًا تَاۡكُلُ الطَّيۡرُ مِنۡهُ ؕ نَبِّئۡنَا بِتَاۡوِيۡلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰٮكَ مِنَ
الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿۳۶﴾ قَالَ لَا يَاۡتِيۡكُمَا طَعَامٌ تُرۡزَقٰنِهٖۤ اِلَّا نَبَّاۡتُكُمَا
بِتَاۡوِيۡلِهٖ قَبۡلَ اَنۡ يَّاۡتِيَكُمَا ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىۡ رَبِّىۡ ؕ اِنِّىۡ تَرَكۡتُ
مِلَّةَ قَوۡمٍ لَّا يُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَهُمۡ بِالۡاٰخِرَةِ هُمۡ كٰفِرُوۡنَ ﴿۳۷﴾

ع ٤ / ١٤

٤ـ البقرة ٦٧، الانعام ٣٥ اور هود ٤٦
٥ـ ضميمه ١٧٥
٦ـ خيال سے پڑهيے يهاں (ىَ) پر زبر هے.
٧ـ ضميمه ١٨٧
٨ـ يهاں اس آيت ميں پهلی بار.
٩ـ يهاں اس آيت ميں مكرّر.
١٠ـ يوسف ٤١
١١ـ يوسف ٧٨
١٢ـ هود ١٩ اور حم السجدة ٧ جبكه الاعراف ٤٥ ميں «هُم» استعمال نهيں هوا.

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِیْۤ اِبْرٰهِیْمَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ
لَنَاۤ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا
وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ﴿۳۸﴾ یٰصَاحِبَیِ
السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَیْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۳۹﴾ ؕ
مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّیْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَ
اٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ
اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۴۰﴾ یٰصَاحِبَیِ السِّجْنِ اَمَّاۤ اَحَدُكُمَا
فَیَسْقِیْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَیُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّیْرُ
مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِیَ الْاَمْرُ الَّذِیْ فِیْهِ تَسْتَفْتِیٰنِ ﴿۴۱﴾ ؕ وَقَالَ
لِلَّذِیْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِیْ عِنْدَ رَبِّكَ ز فَاَنْسٰهُ
الشَّیْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِی السِّجْنِ بِضْعَ سِنِیْنَ ﴿۴۲﴾ ع
وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّیْۤ اَرٰی سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ یَّاْكُلُهُنَّ
سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ یٰبِسٰتٍ ؕ یٰۤاَیُّهَا
الْمَلَاُ اَفْتُوْنِیْ فِیْ رُءْیَایَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْیَا تَعْبُرُوْنَ ﴿۴۳﴾

۵۔ الانعام ۵۷ اور یوسف ٦۷
٦۔ الاسرآء ۲۳
۷۔ التوبة ۳٦ اور الروم ۳۰
۸۔ ضمیمہ ۱۷۲
۹۔ یوسف ۳۹
۱۰۔ یوسف ۳٦
۱۱۔ یوسف ۵۰ اور ۵٤
۱۲۔ یوسف ٤٦
۱۳۔ النمل ۳۲ نیز ضمیمہ ۱۸۸

۶۔ یوسف ۴۸
۷۔ یوسف ۴۳ اور ۵۴
۸۔ یوسف ۳۱
۹۔ یوسف ۳۱
۱۰۔ النور ۶

قَالُوٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ﴿۴۴﴾ وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ﴿۴۵﴾ يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّيْ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۴۶﴾ قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ﴿۴۷﴾ ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ﴿۴۸﴾ ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ﴿۴۹﴾ ع ۶ ۱۶ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ۭ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ﴿۵۰﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ۭ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْۗءٍ ۭ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۡ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۵۱﴾ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَاۗىِٕنِيْنَ ﴿۵۲﴾

ھود ١١٥ اور یوسف ٩٠

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِيْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْۗءِ اِلَّا
مَا رَحِمَ رَبِّيْ ۭ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۵۳﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ
بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا
مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ﴿۵۴﴾ قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰي خَزَاۗىِٕنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّىْ حَفِيْظٌ
عَلِيْمٌ ﴿۵۵﴾ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ
يَشَاۗءُ ۭ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاۗءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۶﴾
وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿۵۷﴾ ع وَجَاۗءَ
اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿۵۸﴾
وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ اَلَا
تَرَوْنَ اَنِّىْٓ اُوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿۵۹﴾ فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ
بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ﴿۶۰﴾ قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ
اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ﴿۶۱﴾ وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ
رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُوْنَ ﴿۶۲﴾ فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا
الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿۶۳﴾

٥۔ یونس ٦٣ ، النمل ٥٣ اور حم السحدة ١٨
٦۔ یوسف ٧٠
٧۔ دو زبر کیساتھ (خ) صرف یہیں استعمال ہوا ھے۔
٨۔ یوسف ٦٥
٩۔ یس ٥٠ نیز ضمیمه ١٠٤
١٠۔ ضمیمه ١٨٦
١١۔ یوسف ١٢ اور الحجر ٩

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ
فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۶۴﴾ وَلَمَّا فَتَحُوْا
مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا
نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ
اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ﴿۶۵﴾ قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ
مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ
يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿۶۶﴾
وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ
اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ
اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۶۷﴾ وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا
كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ
يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۶۸﴾ ۧ وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ
اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَىِٕسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۶۹﴾

۵۔ یوسف ۸۰
۶۔ القصص ۲۸
۷۔ یوسف ۵
۸۔ یوسف ۶۸
۹۔ الانعام ۵۷ اور یوسف ۴۰
۱۰۔ ضمیمہ ۱۷۸
۱۱۔ ابراھیم ۱۲ اور الزمر ۳۸ نیز ضمیمہ ۱۱۰
۱۲۔ یوسف ۶۹، ۸۸ اور ۹۹
۱۳۔ یوسف ۶۷
۱٤۔ ضمیمہ ۱۷۲
۱۵۔ یوسف ۶۸، ۸۸ اور ۹۹
۱۶۔ یوسف ۹۹
۱۷۔ ھود ۳۶
۱۸۔ ضمیمہ ۱۵۲

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ اَخِيْهِ
ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ۝۷۰ قَالُوْا
وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ۝۷۱ قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ
الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ۝۷۲
قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا
كُنَّا سٰرِقِيْنَ ۝۷۳ قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ۝۷۴ قَالُوْا
جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِي رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي
الظّٰلِمِيْنَ ۝۷۵ فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ
اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا
كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ
دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۝۷۶ قَالُوْا اِنْ
يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ
نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ
بِمَا تَصِفُوْنَ ۝۷۷ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا
كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝۷۸

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ
اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿۷۹﴾ فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ
قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ
مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ
اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ
خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۸۰﴾ اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ
ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا
لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿۸۱﴾ وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا
وَالْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۸۲﴾ قَالَ بَلْ
سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ
يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۸۳﴾ وَتَوَلّٰى
عَنْهُمْ وَقَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ
الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿۸٤﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى
تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿۸۵﴾ قَالَ اِنَّمَاۤ اَشْكُوْا
بَثِّيْ وَحُزْنِيْۤ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۸٦﴾

۵۔ «فَقُولُوا» کیساتھ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۸٦
٦۔ الانعام ۱٤٦، الحجر ٦٤ اور النمل ٤۹
۷۔ یوسف ۱۸
۸۔ یوسف ۱۰۰ اور التحریم ۲
۹۔ یوسف ۷۳، ۹۱ اور ۹۵
۱۰۔ الاعراف ٦۲ اور یوسف ۹٦

۴۔ یوسف ۷۳، ۸۵ اور ۹۵
۵۔ یوسف ۶۴
۶۔ یوسف ۷۳، ۸۵ اور ۹۱

یٰبَنِیَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ یُّوْسُفَ وَاَخِیْهِ وَلَا
تَایْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِؕ اِنَّهٗ لَا یَایْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ
اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸۷﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَیْهِ قَالُوْا یٰۤاَیُّهَا
الْعَزِیْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ
فَاَوْفِ لَنَا الْكَیْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَاؕ اِنَّ اللّٰهَ یَجْزِی
الْمُتَصَدِّقِیْنَ ﴿۸۸﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِیُوْسُفَ
وَاَخِیْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿۸۹﴾ قَالُوْۤا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ یُوْسُفُؕ
قَالَ اَنَا یُوْسُفُ وَهٰذَاۤ اَخِیْ٘ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْنَاؕ اِنَّهٗ مَنْ
یَّتَّقِ وَیَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۹۰﴾ قَالُوْا
تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَیْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕیْنَ ﴿۹۱﴾ قَالَ
لَا تَثْرِیْبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَؕ یَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ٘ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ ﴿۹۲﴾
اِذْهَبُوْا بِقَمِیْصِیْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِیْ یَاْتِ
بَصِیْرًاۚ وَاْتُوْنِیْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِیْنَ ﴿۹۳﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ
الْعِیْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّیْ لَاَجِدُ رِیْحَ یُوْسُفَ لَوْ لَاۤ اَنْ
تُفَنِّدُوْنِ ﴿۹۴﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِیْ ضَلٰلِكَ الْقَدِیْمِ ﴿۹۵﴾

ع ۱۰ / ۱۴ / ۴

فَلَمَّآ اَنۡ جَآءَ الۡبَشِيۡرُ اَلۡقٰهُ عَلٰى وَجۡهِهٖ فَارۡتَدَّ بَصِيۡرًا ۚ
قَالَ اَلَمۡ اَقُلْ لَّكُمۡ ۚۙ اِنِّىۡۤ اَعۡلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۹۶﴾
قَالُوۡا يٰۤاَبَانَا اسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَاۤ اِنَّا كُنَّا خٰطِـئِيۡنَ ﴿۹۷﴾
قَالَ سَوۡفَ اَسۡتَغۡفِرُ لَـكُمۡ رَبِّىۡ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِيۡمُ ﴿۹۸﴾
فَلَمَّا دَخَلُوۡا عَلٰى يُوۡسُفَ اٰوٰۤى اِلَيۡهِ اَبَوَيۡهِ وَقَالَ ادۡخُلُوۡا
مِصۡرَ اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيۡنَ ﴿۹۹﴾ وَرَفَعَ اَبَوَيۡهِ عَلَى الۡعَرۡشِ
وَخَرُّوۡا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاۡوِيۡلُ رُءۡيَاىَ مِنۡ
قَبۡلُ قَدۡ جَعَلَهَا رَبِّىۡ حَقًّا ؕ وَقَدۡ اَحۡسَنَ بِىۡۤ اِذۡ اَخۡرَجَنِىۡ
مِنَ السِّجۡنِ وَجَآءَ بِكُمۡ مِّنَ الۡبَدۡوِ مِنۡۢ بَعۡدِ اَنۡ نَّزَغَ
الشَّيۡطٰنُ بَيۡنِىۡ وَبَيۡنَ اِخۡوَتِىۡ ؕ اِنَّ رَبِّىۡ لَطِيۡفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ
اِنَّهٗ هُوَ الۡعَلِيۡمُ الۡحَكِيۡمُ ﴿۱۰۰﴾ رَبِّ قَدۡ اٰتَيۡتَنِىۡ مِنَ الۡمُلۡكِ وَ
عَلَّمۡتَنِىۡ مِنۡ تَاۡوِيۡلِ الۡاَحَادِيۡثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ قف
اَنۡتَ وَلِىّٖ فِى الدُّنۡيَا وَالۡاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِىۡ مُسۡلِمًا وَّاَلۡحِقۡنِىۡ
بِالصّٰلِحِيۡنَ ﴿۱۰۱﴾ ذٰلِكَ مِنۡ اَنۡۢبَآءِ الۡغَيۡبِ نُوۡحِيۡهِ اِلَيۡكَ ۚ
وَمَا كُنۡتَ لَدَيۡهِمۡ اِذۡ اَجۡمَعُوۡۤا اَمۡرَهُمۡ وَهُمۡ يَمۡكُرُوۡنَ ﴿۱۰۲﴾

۵۔ القصص ۱٦ اور الزمر ۵۳
٦۔ یوسف ٦۸، ٦۹ اور ۸۸
۷۔ یوسف ٦۹
۸۔ الفتح ۲۷ نیز ضمیمہ ۳۹
۹۔ یوسف ۸۳ اور التحریم ۲
۱۰۔ الزمر ٤٦
۱۱۔ ضمیمہ ۷۰
۱۲۔ آل عمران ٤٤ اور ھود ٤۹
۱۳۔ آل عمران ٤٤

وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٦﴾ اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۚ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ؕ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾ حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّىَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١١٠﴾ لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١١١﴾

ع ۱۱ / ۵ — ع ۱۲ / ۷ — اقترب للناس حسابهم

۳۔ ضمیمہ ۱۱۲
۴۔ضمیمہ ۱۶۸ اور ۱۶۹
۵۔ الانعام ۷۹ نیز ضمیمہ ۵۴
۶۔ النحل ۴۳ ، الانبیآء ۲۵ اور الحج ۵۲ جبکہ «قبلَكَ» الانبیآء ۷ اور الفرقان ۲۰ میں ہے.
۷۔ النحل ۴۳ اور الانبیآء ۷

۸۔ الحج ۴۶ ، المؤمن ۸۲ اور محمد ۱۰ ۹۔ ضمیمہ ۲۲۸ ۱۰۔ الانعام ۳۲ اور الاعراف ۱۶۹ نیز النحل ۳۰ ۱۱۔ ضمیمہ ۳۱ ۱۲۔ الانعام ۱۴۷ ۱۳۔ یونس ۳۷ ۱۴۔ الاعراف ۵۲ اور النحل ۶۴ جبکہ الاعراف ۲۰۳ میں (ۃ) پر دو پیش ہیں.

صفحہ نمبر ۲۵۰ ۱۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۷۹ ۲۔ ہود ۱۷ اور المؤمن ۵۹ نیز ضمیمہ ۱۷۲ ۳۔ لقمان ۱۰

سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَلٰثٌ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّسِتُّ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ① اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ

عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ

بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ② وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا

رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ③ وَ

فِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ

صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا

عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ④

وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ

جَدِيْدٍ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ

اَعْنَاقِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ⑤

۴۔ ضمیمہ ۱۶۲
۵۔ ضمیمہ ۱۸۹
۶۔ فاطر ۱۳ اور الزمر ۵
۷۔ یونس ۳ و ۳۱ اور السجدۃ ۵
۸۔ حم السجدۃ ۱۰
۹۔ النحل ۱۱
۱۰۔ الاعراف ۵۴
۱۱۔ الروم ۲۱، الزمر ۴۲ اور الجاثیۃ ۱۳ نیز ضمیمہ ۲۲۵
۱۲۔ الانعام ۹۹
۱۳۔ النحل ۱۲ اور الروم ۲۴ نیز ضمیمہ ۲۲۵
۱۴۔ النمل ۶۷
۱۵۔ السجدۃ ۱۰ اور سبا ۷
۱۶۔ ضمیمہ ۱۳
۱۷۔ المؤمن ۷۱
۱۸۔ البقرۃ ۲۱۷ اور آل عمران ۱۱۶ نیز ضمیمہ ۲۷
۱۹۔ ضمیمہ ۲۸

۱۔ صرف یہیں نیز النمل ٤٦ و الحج ٤٧ اور العنکبوت ٥٣ و ٥٤ ۲۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۱۳۷ و الاعراف ۳۸، آل عمران ۱٤٤ والمآئدة ۷۵ اور حم السحدة ۲۵ والاحقاف ۱۸ ۳۔ صرف یہیں نیز النمل ۷۳، البقرة ۲٤۳، یونس ٦۰ و المؤمن ٦۱ اور حم السحدة ٤۳ ٤۔ صرف یہیں نیز المآئدة ۲

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى
ظُلْمِهِمْ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ
كَفَرُوا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ إِنَّمَآ أَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ
لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثٰى وَمَا تَغِيضُ
الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ
مَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾
لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُونَهٗ
مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ
مِّنْ دُونِهٖ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا
وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
مِنْ خِيفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ
يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾

ع ۱ / ۷ / ۷

۵۔ الرعد ۲۷ نیز یونس ۲۰، العنکبوت ۵۰ و ضمیمه ۱۳۷
٦۔ صرف یہیں نیز النازعات ٤۵
۷۔ صرف یہیں نیز النحل ۷٤ و ۹۱، العنکبوت ٤۲ اور الحجرات ۱۸، الانبیآء ۱۱۰ و الاعلیٰ ۷، النمل ۷٤، القصص ٦۹، المزمل ۲۰ جبکه خیال رہے که «اَنَّ اللّٰه یعلم» ۷ اور «واللّٰه یعلم» ۱٦ مقامات پر ہے۔
۸۔ صرف یہیں نیز القمر ۵۲
۹۔ ضمیمه ۱٤۹ نیز المومنون ۹۲
۱۰۔ صرف یہیں نیز یس ۱۰

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ

۱۱۔ الاحقاف ۲۱ اور الجن ۲۷ نیز الاعراف ۱۷ اور حم السحدة ۱٤ و ٤۲ ۱۲۔ صرف یہیں نیز الانفال ۵۳ ۱۳۔ صرف یہیں نیز المؤمن ۱۳ و آل عمران ٦
۱٤۔ صرف یہیں نیز الروم ۲٤، الاعراف ۵٦ و السحدة ۱٦ ۱۵۔ صرف یہیں نیز النور ٤۳ و یونس ۱۰۷
۱٦۔ صرف یہیں نیز المؤمن ٤، ۳۵، ۵٦ و ٦۹ ۱۷۔ صرف یہیں نیز المآئدة ۲

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا یَسْتَجِیْبُوْنَ لَهُمْ بِشَیْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّیْهِ اِلَى الْمَآءِ لِیَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِیْنَ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ ﴿۱۴﴾ وَلِلّٰهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿۱۵﴾ السجدۃ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِیَآءَ لَا یَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْاَعْمٰى وَالْبَصِیْرُ ۙ۬ اَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ۬ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَیْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۶﴾ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِیَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَدًا رَّابِیًا ؕ وَمِمَّا یُوْقِدُوْنَ عَلَیْهِ فِی النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْیَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ یَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۬ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْكُثُ فِی الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ یَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ﴿۱۷﴾

۴۔ آل عمران ۸۳
۵۔ الانعام ۱۲
۶۔ ضمیمہ ۱۵۹
۷۔ الاعراف ۱۸۸ اور سبا ۴۲ جبکہ المائدۃ ۷۶، یونس ۴۹، طہ ۸۹ اور الفرقان ۳ میں «ضرًا» مقدم ہے۔
۸۔ الانعام ۵۰، فاطر ۱۹ اور المؤمن ۵۸
۹۔ الانعام ۱۰۰ و ۱۳۶ اور الرعد ۳۳
۱۰۔ ضمیمہ ۱۸
۱۱۔ اس آیت میں پہلی بار۔
۱۲۔ یہاں اس آیت میں مکرر۔

۱۔ الزمر ۴۷ نیز المآئدۃ ۳۶ ۲۔ صرف یہیں نیز الرعد ۲۱ ۳۔ التوبۃ ۷۳ و ۹۵ اور التحریم ۹ نیز آل عمران ۱۹۷ ۴۔ آل عمران ۱۲ ۵۔ الزمر ۹ نیز آل عمران ۷ ۶۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۲۷ اور الرعد ۲۵ ۷۔ صرف یہیں نیز الرعد ۱۸ ۸۔ فاطر ۲۹ نیز البقرۃ ۲۷۴ اور ابراھیم ۳۱

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰىؕ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ
لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ
سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۱۸﴾ اَفَمَنْ يَّعْلَمُ
اَنَّمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰىؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا
الْاَلْبَابِ ﴿۱۹﴾ ۙ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ﴿۲۰﴾ ۙ
وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ
يَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿۲۱﴾ؕ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۲﴾ ۙ جَنّٰتُ عَدْنٍ
يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿۲۳﴾ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ
عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۴﴾ؕ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ
وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ
لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿۲۵﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُؕ
وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَاؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿۲۶﴾

۹۔ القصص ۵۴
۱۰۔ صرف یہیں نیز الرعد ۲۴ اور ۴۲
۱۱۔ النحل ۳۱ اور فاطر ۳۳
۱۲۔ المؤمن ۸ نیزالانعام ۸۷
۱۳۔ ضمیمہ ۱۴۷
۱۴۔ صرف یہیں نیز الرعد ۲۲ اور ۴۲
۱۵۔ (و) کیساتھ صرف یہیں جبکہ اسکے بغیر البقرۃ ۲۷ میں نیز الرعد ۲۱ خیال رہے کہ یہاں «ویقطعون» اور «ویفسدون فی الارض» آیا ہے۔

۱۶۔ صرف یہیں جبکہ «ولهم العنة» کیساتھ المؤمن ۵۲ میں ہے۔ ۱۷۔ ضمیمہ ۱۹۰
۱۸۔ صرف یہیں نیز «اِلّا متاع الغرور» کیساتھ آل عمران ۱۸۵ اور الحدید ۲۰ میں آیا ہے۔

۱۔ یونس ۲۰ ، الرعد ۷ اور العنکبوت ۵۰ نیز ضمیمہ ۱۳۷ ۲۔ اور ۳۔ خیال رہے دونوں (۲۸ و ۲۹) آیات کا آغاز ایک جیسا ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ
يُضِلُّ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۝۲۷ۚۖ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَىِٕنُّ
قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۭ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبُ ۝۲۸ۭ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ۝۲۹ كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ
اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَ
هُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۭ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ
مَتَابِ ۝۳۰ وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ
اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ۭ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ۭ اَفَلَمْ يَايْـــَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ
لَّوْ يَشَاۗءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ۭ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ
بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ۭ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝۳۱ۧ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ
لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۣ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝۳۲ اَفَمَنْ هُوَ قَاۗىِٕمٌ عَلٰي
كُلِّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاۗءَ ۭ قُلْ سَمُّوْهُمْ ۭ اَمْ تُنَبِّـــُٔـوْنَهٗ بِمَا
لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۭ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝۳۳

٤۔ ص ٢٥ اور ٤٠
٥۔ ضمیمہ ٥٩
٦۔ ضمیمہ ١٧٨
٧۔ الحج ٥٥
٨۔ آل عمران ٩ نیز آل عمران ١٩٤
٩۔ الانعام ١٠ اور الانبیآء ٤١
١٠۔ الحج ٤٤
١١۔ المومن ٥ نیز ضمیمہ ١٩١
١٢۔ الانعام ١٠٠ و ١٣٦ اور الرعد ١٦
١٣۔ المومن ٣٧
١٤۔ الزمر ٢٣ و ٣٦ اور المومن ٣٣ نیز ضمیمہ ١٢٤

لَهُمْ عَذَابٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا
لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿۳۴﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى
الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿۳۵﴾ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ
الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ
بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ اِلَيْهِ
اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ﴿۳۶﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ
اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ
مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿۳۷﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَ
جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ
بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿۳۸﴾ يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ
وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ﴿۳۹﴾ وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ
الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا
الْحِسَابُ ﴿۴۰﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ
وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ؕ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۴۱﴾

ع ٥ ٦ ۱۱

(و) جھوٹ نہ جائے۔
٥۔ طہ ۱۱۳ اور الحج ۱٦
٦۔ البقرة ۱۲۰ و ۱٤٥ اور آل عمران ٦۱
۷۔ البقرة ۱۲۰ اور التوبة ۷٤
۸۔ الروم ٤۷ اور المؤمن ۷۸
۹۔ المؤمن ۷۸
۱۰۔ یونس ٤٦ اور المؤمن ۷۷
۱۱۔ آل عمران ۲۰ اور النحل ۸۲
۱۲۔ ضمیمہ ۱۹۲
۱۳۔ الانبیآء ٤٤
۱٤۔ صرف یہیں۔

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ؕ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ؕ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۴۲﴾ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ؕ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ﴿۴۳﴾

ع ٦ ۱۲

سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اثْنَتَانِ وَخَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّسَبْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿۱﴾ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ﴿۳﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۴﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۵﴾

۴۔ ضمیمہ ۸۸
۵۔ البروج ۹ میں لفظ «اَللّٰہ» کے اور الحج ۲۴ میں «العزیز» کے بغیر نیز سبا ٦
٦۔ ضمیمہ ۸۵ اور ۸٦
۷۔ الاعراف ۴۵ اور ھود ۱۹
۸۔ النسآء ٦۴
۹۔ ضمیمہ ۱۹۳
۱۰۔ ھود ۹٦ ، المومنون ۴۵ ، المومن ۲۳ اور الزخرف ۴٦
۱۱۔ ضمیمہ ۸۸
۱۲۔ لقمان ۳۱ ، سبا ۱۹ اور الشوری ۳۳ نیز ضمیمہ ۲۲۵

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَ فِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۟﴿۶﴾ وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ﴿۷﴾ وَ قَالَ مُوْسٰۤى اِنْ تَكْفُرُوْۤا اَنْتُمْ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿۸﴾ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ۬ؕ۬ وَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۛؕ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ؕ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْۤا اَيْدِيَهُمْ فِيْۤ اَفْوَاهِهِمْ وَ قَالُوْۤا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَ اِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَاۤ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿۹﴾ قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ قَالُوْۤا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ؕ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۰﴾

ع ۱ / ۱۳ — مع ۲ عند المتقدمین ۲ — النصف

٤۔ لقمان ١٢
٥۔ التوبة ٧٠ اور التغابن ٥
٦۔ التوبة ٧٠ اور المؤمن ٣١
٧۔ المؤمن ٣١
٨۔ هود ٦٢ اور حم السجدة ٥
٩۔ ابراهیم ١١
١٠۔ الانعام ١٤ اور فاطر ١
١١۔ نوح ٤
١٢۔ یس ١٥ جبکه هود ٢٧ میں (ر) پر دو زبر ہیں۔
١٣۔ الاعراف ٧٠

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَمَا كَانَ لَنَآ أَنْ نَّأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱﴾ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ۗ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۗ فَأَوْحٰى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۳﴾ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ﴿۱۴﴾ وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿۱۵﴾ مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ﴿۱۶﴾ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۗ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴿۱۷﴾ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ِۨاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ۗ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿۱۸﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿۱۹﴾ وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿۲۰﴾

ع ۲ / ۱۴

۵۔ ابراهیم ۱۱
۶۔ یوسف ۶۷ اور الزمر ۳۸ نیز ضمیمہ ۱۱۰
۷۔ ضمیمہ ۱۹٤
۸۔ الاعراف ۸۸
۹۔ هود ۵۹
۱۰۔ یونس ۲۲
۱۱۔ خیال سے پڑھیے یہاں (ب) پر دو پیش ہیں۔
۱۲۔ البقرة ۲٦٤
۱۳۔ الحج ۱۲
۱٤۔ ضمیمہ ۸۰ اور ۱۹۵
۱۵۔ النسآء ۱۳۳، الانعام ۱۳۳ اور فاطر ۱٦
۱٦۔ فاطر ۱۷

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿۲۱﴾ وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۲﴾ وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ؕ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ﴿۲۳﴾ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ﴿۲۴﴾ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۵﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ِۨاجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿۲۶﴾

۵۔ یونس ۱۰
۶۔ الفجر ۶ اور الفیل ۱ نیز ضمیمہ ۸۰
۷۔ النور ۳۵
۸۔ البقرة ۲۲۱ نیز ضمیمہ ۷۳

ع ۳ ۱۵

۱۔ ضمیمہ ۸۰ اور ۸۱ ۲۔ ص ۵۶ اور المجادلۃ ۸ ۳۔ الزمر ۸ ۴۔ العنکبوت ۵۶ اور الزمر ۵۳ ۵۔ البقرۃ ۲۷۴، الرعد ۲۲ اور فاطر ۲۹ ۶۔ البقرۃ ۲۵۴، الروم ۴۳ اور الشوریٰ ۴۷ ۷۔ البقرۃ ۲۲ نیز الانعام ۹۹، طٰہٰ ۵۳، فاطر ۲۷ اور ضمیمہ ۱۸ ۸۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۸۹ ۹۔ النحل ۱۸ ۱۰۔ البقرۃ ۱۲۶

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿۲۷﴾ ع ۶/۱۶

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ

دَارَ الْبَوَارِ ﴿۲۸﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿۲۹﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ

اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ

اِلَى النَّارِ ﴿۳۰﴾ قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ

يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ﴿۳۱﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ

مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ

بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿۳۲﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿۳۳﴾ وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا

سَاَلْتُمُوْهُ ۗ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ

لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿۳۴﴾ ع ۵/۷/۱۷ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا

الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿۳۵﴾

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ ۚ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٦﴾ رَبَّنَآ اِنِّىْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ﴿٣٨﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۗ اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۬ؕ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِىْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾

ع ٦ ١٧ ١٨

۱۔ النسآء ۷۷ اور المنافقون ۱۰ ۲۔ ابراهیم ۴۲ ۳۔ صرف یهیں نیز آل عمران ۴ اور المآئدة ۹۵ ۴۔ ص ۳۸ ۵۔ آل عمران ۱۹۹، المآئدة ۴ اور المؤمن ۱۷ ۶۔ التوبة ۱۲۲ ۷۔ ص ۲۹ ۸۔ ضمیمه ۱۷۹ ۹۔ النمل ۱

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ﴿۴۴﴾ وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ﴿۴۵﴾ وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿۴۶﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۴۷﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿۴۸﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿۴۹﴾ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿۵۰﴾ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۵۱﴾ هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۵۲﴾

ع ۷ ۱۱ ۱۹

سُوْرَةُ الْحِجْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ اٰيَةً وَسِتُّ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱﴾

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝۲

ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ

يَعْلَمُوْنَ ۝۳ وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ۝۴

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝۵ وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا

الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ۝۶ لَوْ مَا تَاْتِيْنَا

بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۷ مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ

اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ۝۸ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ

وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝۹ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ

شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ۝۱۰ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ

يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝۱۱ كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝۱۲ لَا

يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ۝۱۳ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ

بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ۝۱۴ لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ

اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ۝۱۵ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ

بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ۝۱۶ وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ

رَّجِيْمٍ ۝۱۷ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ۝۱۸

۵۔ یوسف ۱۲ اور ۶۳
۶۔ الانبیآء ۲، الشعرآء ۵، یس ۳۰ اور الزخرف ۷
۷۔ الشعرآء ۲۰۰
۸۔ الشعرآء ۲۰۱
۹۔ المومنون ۷۷
۱۰۔ التکویر ۲۵

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ﴿۱۹﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ﴿۲۰﴾ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿۲۱﴾ وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ﴿۲۲﴾ وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ﴿۲۳﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ﴿۲٤﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۭ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۵﴾ ع ۲

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿۲٦﴾ وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿۲۷﴾ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿۲۸﴾ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿۲۹﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿۳۰﴾ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿۳۱﴾ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ﴿۳۲﴾ قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿۳۳﴾

استعمال ہوئی ہے خیال سے پڑھیے۔
۵۔ ضمیمہ ۱۸
٦۔ یس ۱۲ اور ق ٤۳
۷۔ الانعام ۱۳۹
۸۔ المؤمنون ۱۲ اور ق ۱٦
۹۔ الحجر ۲۸ اور ۳۳
۱۰۔ ص ۷۱
۱۱۔ الحجر ۲٦ اور ۳۳
۱۲۔ ص ۷۲
۱۳۔ ص ۷۳
۱٤۔ ضمیمہ ۲۳
۱۵۔ الحجر ۳۲
۱٦۔ ص ۷۵
۱۷۔ الحجر ۳۱
۱۸۔ الحجر ۲٦ اور ۲۸

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ
اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ
يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ
الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي
الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ
الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ
عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾
لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ
آمِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ
سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا
بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ
عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥١﴾
إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾

قَالُوا لَا

ص ٢٦٥ ١ـ ص ٧٧ ٢ـ خیال سے پڑھیے یہاں «علیك العنة» ہے جبکہ «علیك لعنتی» کیساتھ ص ٧٨ میں۔ ٣ـ ص ٧٩ جبکہ «قال انظرنی» کیساتھ الاعراف ١٤ میں۔ ٤ـ ص ٨٠ جبکہ «قال انك» کیساتھ الاعراف ١٥ میں ہے۔ ٥ـ ص ٨١ ٦ـ خیال سے پڑھیے صرف یہیں جبکہ «قال فبما اغویتنی» الاعراف ١٦ میں اور «قال فبعزتك» ص ٨٢ میں ہے۔ ٧ـ (و) کیساتھ صرف یہیں جبکہ اسکے بغیر ص ٨٢ میں۔ ٨ـ ص ٨٣ نیز ضمیمہ ٢١٦ ٩ـ صرف یہیں جبکہ «قال فالحق» ص ٨٤ میں نیز ضمیمہ ١٠٠ اور ١٤٥ ١٠ـ صرف یہیں جبکہ «وکفی بربك وکیلا» کیساتھ الاسرآء ٦٥ میں ہے۔ ١١ـ الذاریات ١٥ نیز الدخان ٥١ اور ٥٢ ١٢ـ ق ٣٤ نیز الزمر ٧٣

١٣ـ صرف یہیں نیز الاعراف ٤٣ اور القصص ٧٥ ١٤ـ الصآفات ٤٤ ١٥ـ صرف یہیں نیز فاطر ٣٥ ١٦ـ صرف یہیں نیز البقرة ١٢٨ ١٧ـ الذاریات ٢٥ نیز ص ٢٢ ١٨ـ صرف یہیں نیز الذاریات ٢٥ جبکہ «قالوا سلامًا قال سلام» ہود ٦٩ میں اور صرف «قالوا سلامًا» الفرقان ٦٣ میں ہے۔

قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿۵۳﴾ قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ
عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ﴿۵۴﴾ قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ
بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿۵۵﴾ قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ
مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ﴿۵۶﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا
الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۵۷﴾ قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿۵۸﴾ اِلَّآ اٰلَ
لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۵۹﴾ اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ
الْغٰبِرِيْنَ ﴿۶۰﴾ فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ِۨ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۶۱﴾ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ
مُّنْكَرُوْنَ ﴿۶۲﴾ قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿۶۳﴾ وَ
اَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۶۴﴾ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ
الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا
حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ﴿۶۵﴾ وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ
مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ﴿۶۶﴾ وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۶۷﴾
قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ﴿۶۸﴾ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا
تُخْزُوْنِ ﴿۶۹﴾ قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۷۰﴾ قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ
اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿۷۱﴾ لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۷۲﴾

٤۔ النمل ٥٧
٥۔ الانعام ١٤٦ ، یوسف ٨٢ اور النمل ٤٩
٦۔ هود ٨١
٧۔ الاسرآء ٤
٨۔ هود ٧٨ نیز ضمیمه ٦٤
٩۔ یوسف ١٠ اور الانبیاء ٦٨

ع ٤ / ٤

فَاَخَذَتۡهُمُ الصَّيۡحَةُ مُشۡرِقِيۡنَ ۝٧٣ فَجَعَلۡنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ
اَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةً مِّنۡ سِجِّيۡلٍ ۝٧٤ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّلۡمُتَوَسِّمِيۡنَ ۝٧٥ وَاِنَّهَا لَبِسَبِيۡلٍ مُّقِيۡمٍ ۝٧٦ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۝٧٧ وَاِنۡ كَانَ اَصۡحٰبُ الۡاَيۡكَةِ لَظٰلِمِيۡنَ ۝٧٨ فَانْتَقَمۡنَا
مِنۡهُمۡ‌ۘ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيۡنٍ ۝٧٩ وَلَقَدۡ كَذَّبَ اَصۡحٰبُ الۡحِجۡرِ
الۡمُرۡسَلِيۡنَ ۝٨٠ وَاٰتَيۡنٰهُمۡ اٰيٰتِنَا فَكَانُوۡا عَنۡهَا مُعۡرِضِيۡنَ ۝٨١
وَكَانُوۡا يَنۡحِتُوۡنَ مِنَ الۡجِبَالِ بُيُوۡتًا اٰمِنِيۡنَ ۝٨٢
فَاَخَذَتۡهُمُ الصَّيۡحَةُ مُصۡبِحِيۡنَ ۝٨٣ فَمَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُمۡ مَّا
كَانُوۡا يَكۡسِبُوۡنَ ۝٨٤ وَمَا خَلَقۡنَا السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَمَا
بَيۡنَهُمَاۤ اِلَّا بِالۡحَقِّ‌ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ‌ فَاصۡفَحِ الصَّفۡحَ
الۡجَمِيۡلَ ۝٨٥ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الۡخَلّٰقُ الۡعَلِيۡمُ ۝٨٦ وَلَقَدۡ اٰتَيۡنٰكَ
سَبۡعًا مِّنَ الۡمَثَانِىۡ وَالۡقُرۡاٰنَ الۡعَظِيۡمَ ۝٨٧ لَا تَمُدَّنَّ
عَيۡنَيۡكَ اِلٰى مَا مَتَّعۡنَا بِهٖۤ اَزۡوَاجًا مِّنۡهُمۡ وَلَا تَحۡزَنۡ
عَلَيۡهِمۡ وَاخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۝٨٨ وَقُلۡ اِنِّىۡۤ اَنَا
النَّذِيۡرُ الۡمُبِيۡنُ‌ ۝٨٩ كَمَاۤ اَنۡزَلۡنَا عَلَى الۡمُقۡتَسِمِيۡنَ ۝٩٠

ع ۵ ۱۹ / ۵

۵۔ الاعراف ۱۳۶، الروم ۴۷ اور الزخرف ۲۵
۶۔ الشعرآء ۱۴۹
۷۔ الحجر ۷۳
۸۔ الزمر ۵۰ اور المؤمن ۸۲ جبکہ «مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» المطففین ۱۴ میں ہے۔
۹۔ الدخان ۳۸ اور الاحقاف ۳
۱۰۔ المؤمن ۵۹
۱۱۔ طه ۱۳۱
۱۲۔ الشعرآء ۲۱۵

الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ﴿٩١﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ
اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ
اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٤﴾ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿٩٥﴾ الَّذِيْنَ
يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ
اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ
مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴿٩٩﴾

سُوْرَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّثَمَانٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّسِتَّةَ عَشَرَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ﴿١﴾ يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ
مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ﴿٢﴾ خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣﴾ خَلَقَ
الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤﴾ وَالْاَنْعَامَ
خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٥﴾
وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ﴿٦﴾

میں ہے۔
٣ـ ضمیمہ ١٩٧
٤ـ ضمیمہ ١٩٦
٥ـ النحل ١٠٣ جبکہ «قد نعلم» الانعام ٣٣ میں اور «انّا نعلم» یس ٧٦ میں ہے۔
٦ـ النصر ٣ نیز طٰہ ١٣٠، المومن ٥٥، ق ٣٩ اور الطور ٤٨
٧ـ صرف یہیں جبکہ «حتی آتانا الیقین» المدثر ٤٧ میں ہے۔
٨ـ یونس ١٨، الروم ٤٠ اور الزمر ٦٧ نیز الانعام ١٠٠، الاسرآء ٤٣، القصص ٦٨، التوبة ٣١، النحل ٣، النمل ٦٣، الطور ٤٣ اور الحشر ٢٣
٩ـ صرف یہیں نیز المؤمن ١٥

١٠ـ الزمر ٥ ١١ـ (و) کے بغیر صرف یہیں نیز النحل ١ ١٢ـ الرحمن ٣ و ١٤ اور العلق ٢
١٣ـ یس ٧٧ ١٤ـ خیال سے پڑھیے صرف یہیں جبکہ «وضرب لنا مثلا» یس ٧٨ میں ہے۔

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ
الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۙ﴿۷﴾ وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ
وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ؕ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۸﴾
وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ؕ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ
اَجْمَعِيْنَ ﴿۹﴾ هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ
شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ﴿۱۰﴾ يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ
الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ
الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۱﴾ وَسَخَّرَ
لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوْمُ
مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۙ﴿۱۲﴾
وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿۱۳﴾ وَهُوَ الَّذِيْ
سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا
مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ
فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۴﴾

ع ۱ / ۷

٦۔ الاعراف ٥٤
۷۔ الرعد ٤ اور الروم ۲٤ نیز ضمیمہ ۲۲۵
۸۔ الزمر ۲۱
۹۔ ضمیمہ ۲۲٤
۱۰۔ فاطر ۱۲
۱۱۔ ضمیمہ ۱۹۸

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵﴾ وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۶﴾ اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۱۷﴾ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۸﴾ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿۲۰﴾ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿۲۱﴾ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۲۲﴾ لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿۲۳﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۲۴﴾ لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿۲۵﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۲۶﴾

۸۔ الفرقان ۳ جبکہ «لا يخلق» کیساتھ الاعراف ۱۹۱ میں ہے
۹۔ النمل ٦٥
۱۰۔ خیال سے پڑھیے نیز البقرۃ ۱٦۳ اورالنمل ٦٦
۱۱۔ صرف یہیں نیز الانعام ۱٥۰ ، الانعام ۱۱۳ اور الاسرآء ٤٥ اور النحل ٦۰ و الانعام ۹۲
۱۲۔ المنافقون ٥
۱۳۔ البقرۃ ۷۷ نیز ھود ٥ ، یس ۷٦ و النحل ۱۹
۱٤۔ صرف یہیں نیز الانعام ۱٤۱ اور الاعرف ۳۱

۱٥۔ ضمیمہ ۱۱ ۱٦۔ النحل ۳۰ ۱۷۔ صرف یہیں نیز الفرقان ٥ ، القلم ۱٥ و المطففین ۱۳ اور ضمیمہ ۱٤۱ ۱۸۔ صرف یہیں نیز الانعام ۳۱ ۱۹۔ الانعام ۳۱ نیز النحل ٥۹
۲۰۔ صرف یہیں نیز الرعد ٤۲ ۲۱۔ صرف یہیں نیز الزمر ۲٥ و النحل ٤٥ اور ضمیمہ ۱٦۹

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ
كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ۭ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ
الْيَوْمَ وَالسُّوْۗءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۷﴾ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰۗىِٕكَةُ
ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۠ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْۗءٍ ۭ بَلٰٓى
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۸﴾ فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿۲۹﴾ وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ
اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۭ قَالُوْا خَيْرًا ۭ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۭ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ۭ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۰﴾
جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا
مَا يَشَاۗءُوْنَ ۭ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۱﴾ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ
الْمَلٰۗىِٕكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۳۲﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰۗىِٕكَةُ اَوْ
يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ۭ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ وَمَا ظَلَمَهُمُ
اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۳۳﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ
مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۴﴾

ع ۴ ۱۰

۴۔ ضمیمہ ۵۸
۵۔ الزمر ۷۲ اور المؤمن ۷۶
۶۔ النحل ۲۴
۷۔ النحل ۴۱ اور الزمر ۱۰
۸۔ یوسف ۱۰۹
۹۔ الرعد ۲۳ اور فاطر ۳۳
۱۰۔ ضمیمہ ۲۱
۱۱۔ الفرقان ۱۶
۱۲۔ النسآء ۹۷ اور النحل ۲۸
۱۳۔ ضمیمہ ۱۴۷
۱۴۔ ضمیمہ ۱۳۰
۱۵۔ ضمیمہ ۶۸
۱۶۔ الانعام ۱۵۸
۱۷۔ النحل ۳۵
۱۸۔ ضمیمہ ۳۵
۱۹۔ الزمر ۵۱
۲۰۔ الجاثیۃ ۳۳
۲۱۔ ضمیمہ ۱۸۵

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ

مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ

كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا

الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۳۵﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا

اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ

مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۳۶﴾ اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ

اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۳۷﴾ وَاَقْسَمُوْا

بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ؕ بَلٰى وَعْدًا

عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۸﴾ لِيُبَيِّنَ

لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنَّهُمْ

كَانُوْا كٰذِبِيْنَ ﴿۳۹﴾ اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَاۤ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ

كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۴۰﴾ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا

لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ

كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۴۱﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿۴۲﴾

ع ۵

۳۔ خیال رہے کہ «اللّٰہ» کی (ہٗ) پر پیش ہے۔
۴۔ آل عمران ۱۳۷، الانعام ۱۱ اور الزخرف ۲۵
۵۔ ضمیمہ ۹۷
۶۔ الانعام ۱۰۹، النور ۵۳ اور فاطر ۴۲ جبکہ «اَقسَموا» المائدۃ ۵۳ میں استعمال ہوا ہے۔
۷۔ ضمیمہ ۱۷۲
۸۔ النحل ۶۴
۹۔ الحج ۵۸
۱۰۔ النحل ۳۰ اور الزمر ۱۰
۱۱۔ ضمیمہ ۴۶
۱۲۔ النحل ۹۹، العنکبوت ۵۹ اور الشوری ۳۶

۱۔ یوسف ۱۰۹ ، الانبیاء ۲۵ اور الحج ۵۲ جبکہ «قَبلَكَ» الانبیآء ۷ و الفرقان ۲۰ میں آیا ھے۔

وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوۡحِىۡۤ اِلَيۡهِمۡ‌ فَسۡـئَلُوۡۤا اَهۡلَ الذِّكۡرِ اِنۡ كُنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَۙ ﴿۴۳﴾ بِالۡبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ‌ؕ وَاَنۡزَلۡنَاۤ اِلَيۡكَ الذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُوۡنَ ﴿۴۴﴾ اَفَاَمِنَ الَّذِيۡنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنۡ يَّخۡسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الۡاَرۡضَ اَوۡ يَاۡتِيَهُمُ الۡعَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَشۡعُرُوۡنَۙ ﴿۴۵﴾ اَوۡ يَاۡخُذَهُمۡ فِىۡ تَقَلُّبِهِمۡ فَمَا هُمۡ بِمُعۡجِزِيۡنَۙ ﴿۴۶﴾ اَوۡ يَاۡخُذَهُمۡ عَلٰى تَخَوُّفٍ ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوۡفٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۴۷﴾ اَوَلَمۡ يَرَوۡا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنۡ شَىۡءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الۡيَمِيۡنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمۡ دٰخِرُوۡنَ ﴿۴۸﴾ وَلِلّٰهِ يَسۡجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ مِنۡ دَآبَّةٍ وَّالۡمَلٰٓئِكَةُ وَهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ﴿۴۹﴾ يَخَافُوۡنَ رَبَّهُمۡ مِّنۡ فَوۡقِهِمۡ وَيَفۡعَلُوۡنَ مَا يُؤۡمَرُوۡنَ ۩ ﴿۵۰﴾ وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوۡۤا اِلٰهَيۡنِ اثۡنَيۡنِ‌ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ‌ ۚ فَاِيَّاىَ فَارۡهَبُوۡنِ ﴿۵۱﴾ وَلَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَلَهُ الدِّيۡنُ وَاصِبًا‌ ؕ اَفَغَيۡرَ اللّٰهِ تَتَّقُوۡنَ ﴿۵۲﴾ وَمَا بِكُمۡ مِّنۡ نِّعۡمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ‌ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيۡهِ تَجۡـئَرُوۡنَ‌ۚ ﴿۵۳﴾ ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنۡكُمۡ اِذَا فَرِيۡقٌ مِّنۡكُمۡ بِرَبِّهِمۡ يُشۡرِكُوۡنَۙ ﴿۵۴﴾

۲۔ یوسف ۱۰۹ اور الانبیآء ۷
۳۔ الانبیآء ۷ نیز ضمیمہ ۶۲
۴۔ صرف یہیں نیز الاعراف ۱۷۶ اور الحشر ۲۱
۵۔ النحل ۲۶ اور الزمر ۲۵
۶۔ النحل ۴۷
۷۔ النحل ۴۶
۸۔ النحل ۷
۹۔ ضمیمہ ۱۹۲
۱۰۔ الرعد ۱۵ نیز ضمیمہ ۸۶
۱۱۔ التحریم ۶
۱۲۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۵۱
۱۳۔ الروم ۳۳

لِيَكْفُرُوا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُوْنَ
لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ تَاللّٰهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ
تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٥٧﴾
وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٥٨﴾
يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ
يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٠﴾
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ
يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ
سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ
اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ
اَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ﴿٦٢﴾ تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ
فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى
اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾

٥۔ الزخرف ۱۷
٦۔ الانعام ۱۳٦، العنکبوت ٤ اور الجاثیة ۲۱
۷۔ الروم ۲۷
۸۔ ضمیمہ ۱۹۳
۹۔ فاطر ٤٥
۱۰۔ الاعراف ۳٤ اور فاطر ٤٥ نیز یونس ٤۹
۱۱۔ الاعراف ۳٤ اور یونس ٤۹ نیز سبا ۳۰
۱۲۔ النحل ٥٦ اور ٥۷
۱۳۔ النحل ۱۱٦
۱٤۔ الانعام ٤۲
۱٥۔ صرف یہیں نیز الانعام ٤۳، النمل ۲٤ اور العنکبوت ۳۸
۱٦۔ ضمیمہ ۱۰
۱۷۔ النحل ۳۹
۱۸۔ الاعراف ٥۲ اور یوسف ۱۱۱ جبکہ الاعراف ۲۰۳ میں (ۃ) پر دو پیش ہیں۔

وَاللّٰهُ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحۡيَا بِهِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا ؕ اِنَّ فِىۡ
ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوۡمٍ يَّسۡمَعُوۡنَ ﴿۶۵﴾ وَاِنَّ لَكُمۡ فِى الۡاَنۡعَامِ لَعِبۡرَةً ؕ نُسۡقِيۡكُمۡ
مِّمَّا فِىۡ بُطُوۡنِهٖ مِنۡۢ بَيۡنِ فَرۡثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيۡنَ ﴿۶۶﴾
وَمِنۡ ثَمَرٰتِ النَّخِيۡلِ وَالۡاَعۡنَابِ تَتَّخِذُوۡنَ مِنۡهُ سَكَرًا وَّرِزۡقًا
حَسَنًا ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوۡمٍ يَّعۡقِلُوۡنَ ﴿۶۷﴾ وَاَوۡحٰى رَبُّكَ اِلَى
النَّحۡلِ اَنِ اتَّخِذِىۡ مِنَ الۡجِبَالِ بُيُوۡتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعۡرِشُوۡنَ ﴿۶۸﴾
ثُمَّ كُلِىۡ مِنۡ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسۡلُكِىۡ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخۡرُجُ مِنۡۢ
بُطُوۡنِهَا شَرَابٌ مُّخۡتَلِفٌ اَلۡوَانُهٗ فِيۡهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ ﴿۶۹﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمۡ ثُمَّ يَتَوَفّٰٮكُمۡ ۙ وَمِنۡكُمۡ مَّنۡ
يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرۡذَلِ الۡعُمُرِ لِكَىۡ لَا يَعۡلَمَ بَعۡدَ عِلۡمٍ شَيۡـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌ
قَدِيۡرٌ ﴿۷۰﴾ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ فِى الرِّزۡقِ ۚ فَمَا الَّذِيۡنَ
فُضِّلُوۡا بِرَآدِّىۡ رِزۡقِهِمۡ عَلٰى مَا مَلَـكَتۡ اَيۡمَانُهُمۡ فَهُمۡ فِيۡهِ سَوَآءٌ ؕ
اَفَبِنِعۡمَةِ اللّٰهِ يَجۡحَدُوۡنَ ﴿۷۱﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَـكُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ
اَزۡوَاجًا وَّجَعَلَ لَـكُمۡ مِّنۡ اَزۡوَاجِكُمۡ بَنِيۡنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمۡ مِّنَ
الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالۡبَاطِلِ يُؤۡمِنُوۡنَ وَبِنِعۡمَتِ اللّٰهِ هُمۡ يَكۡفُرُوۡنَ ﴿۷۲﴾

ع ۸ / ٥ / ۱٤
ع ۹ / ٥ / ۱٥

یونس ٦۷ اور الروم ۲۳ میں نیز ضمیمہ ۲۲٤
٤۔ المؤمنون ۲۱
٥۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۲۲٤
٦۔ البقرة ۲٦٦، الاعراف ٥۷ اور محمد ۱٥
۷۔ النحل ۱۱ نیز ضمیمہ ۲۲٤
۸۔ الحج ٥
۹۔ النسآء ۳۲ نیز النور ٥۸
۱۰۔ ضمیمہ ۱۱۷
۱۱۔ الروم ۲۸
۱۲۔ النحل ۸۰ اور ۸۱
۱۳۔ الشوری ۱۱
۱٤۔ العنکبوت ٦۷

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿۷۳﴾ فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۷۴﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۷۵﴾ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَاۤ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۷٦﴾ ع ۱۰

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۷۷﴾ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۷۸﴾ اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۷۹﴾

۳۔ النحل ۱۱۲
۴۔ ضمیمہ ۱
۵۔ ضمیمہ ۱۹۹
٦۔ الزمر ۲۹
۷۔ ضمیمہ ۱۴۵
۸۔ هود ۱۲۳
۹۔ ضمیمہ ۱۵
۱۰۔ الزمر ٦ اور النجم ۳۲
۱۱۔ المومنون ۷۸ ، السجدة ۹ اور الملک ۲۳
۱۲۔ ضمیمہ ۳۲
۱۳۔ ضمیمہ ۱۳٦
۱۴۔ الملک ۱۹
۱۵۔ الملک ۱۹
۱٦۔ ضمیمہ ۲۲۵ اور ۲۰۰

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ
الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ
وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى
حِيْنٍ ﴿۸۰﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ
مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ
وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿۸۱﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ
الْمُبِيْنُ ﴿۸۲﴾ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ
الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸۳﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا
يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿۸۴﴾ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ
ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿۸۵﴾
وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ
شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا
اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۸۶﴾ وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ
يَوْمَئِذِ ِالسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۸۷﴾

ع ۱۱ / ۱۷

۴۔ النحل ۸۹
۵۔ الروم ۵۷ اور الجاثیة ۳۵
۶۔ النحل ۸۶
۷۔ اس ترتیب کیساتھ صرف یہیں نیز البقرة ۸۶ و ۱۶۲ اور آل عمران ۸۸
۸۔ النحل ۸۵
۹۔ ضمیمہ ۱۳۹

اَلَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا وَصَدُّوۡا عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ زِدۡنٰہُمۡ عَذَابًا فَوۡقَ الۡعَذَابِ بِمَا کَانُوۡا یُفۡسِدُوۡنَ ﴿۸۸﴾ وَیَوۡمَ نَبۡعَثُ فِیۡ کُلِّ اُمَّۃٍ شَہِیۡدًا عَلَیۡہِمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِہِمۡ وَجِئۡنَا بِکَ شَہِیۡدًا عَلٰی ہٰۤؤُلَآءِ ؕ وَنَزَّلۡنَا عَلَیۡکَ الۡکِتٰبَ تِبۡیَانًا لِّکُلِّ شَیۡءٍ وَّ ہُدًی وَّرَحۡمَۃً وَّبُشۡرٰی لِلۡمُسۡلِمِیۡنَ ﴿۸۹﴾ اِنَّ اللّٰہَ یَاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ وَالۡاِحۡسَانِ وَاِیۡتَآیِٔ ذِی الۡقُرۡبٰی وَیَنۡہٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡکَرِ وَالۡبَغۡیِ ۚ یَعِظُکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَذَکَّرُوۡنَ ﴿۹۰﴾ وَاَوۡفُوۡا بِعَہۡدِ اللّٰہِ اِذَا عٰہَدۡتُّمۡ وَلَا تَنۡقُضُوا الۡاَیۡمَانَ بَعۡدَ تَوۡکِیۡدِہَا وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ اللّٰہَ عَلَیۡکُمۡ کَفِیۡلًا ؕ اِنَّ اللّٰہَ یَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُوۡنَ ﴿۹۱﴾ وَلَا تَکُوۡنُوۡا کَالَّتِیۡ نَقَضَتۡ غَزۡلَہَا مِنۡۢ بَعۡدِ قُوَّۃٍ اَنۡکَاثًا ؕ تَتَّخِذُوۡنَ اَیۡمَانَکُمۡ دَخَلًۢا بَیۡنَکُمۡ اَنۡ تَکُوۡنَ اُمَّۃٌ ہِیَ اَرۡبٰی مِنۡ اُمَّۃٍ ؕ اِنَّمَا یَبۡلُوۡکُمُ اللّٰہُ بِہٖ ؕ وَلَیُبَیِّنَنَّ لَکُمۡ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ مَا کُنۡتُمۡ فِیۡہِ تَخۡتَلِفُوۡنَ ﴿۹۲﴾ وَلَوۡ شَآءَ اللّٰہُ لَجَعَلَکُمۡ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً وَّلٰکِنۡ یُّضِلُّ مَنۡ یَّشَآءُ وَیَہۡدِیۡ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَلَتُسۡـَٔلُنَّ عَمَّا کُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۹۳﴾

ع ۱۲ ۱۸

۵۔ ضمیمہ ۱۵۷
٦۔ صرف یہیں۔
۷۔ النحل ۹٤
۸۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۵۰
۹۔ المائدۃ ٤۸ اور الشوری ۸ نیز ضمیمہ ١٤

صفحہ نمبر ۲۷۹ ۱۔ النحل ۹۲ ۲۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۸ ۳۔ ضمیمہ ۲۹ ٤۔ البقرۃ ۱۸٤ اور ۲۸۰ نیز ضمیمہ ٦۲
٥۔ النحل ۹۷ اور الزمر ۳٥
٦۔ ضمیمہ ۱۲۹
۷۔ النحل ۹٦ اور الزمر ۳٥
۸۔ ضمیمہ ۱۲۹
۹۔ آل عمران ۳٦
۱۰۔ النحل ٤۲، العنکبوت ٥۹ اور الشوریٰ ۳٦
۱۱۔ ضمیمہ ۱۹۹
۱۲۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۸۷ و ۲٥۳ اور المآئدۃ ۱۱۰
۱۳۔ البقرۃ ۹۷، النحل ۸۹ اور النمل ۲

وَلَا تَتَّخِذُوٓا اَيۡمَانَكُمۡ دَخَلًاۢ بَيۡنَكُمۡ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعۡدَ
ثُبُوۡتِهَا وَتَذُوۡقُوا السُّوۡٓءَ بِمَا صَدَدۡتُّمۡ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۚ وَ
لَكُمۡ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ ﴿۹٤﴾ وَلَا تَشۡتَرُوۡا بِعَهۡدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ؕ
اِنَّمَا عِنۡدَ اللّٰهِ هُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۹٥﴾ مَا عِنۡدَكُمۡ
يَنۡفَدُ وَمَا عِنۡدَ اللّٰهِ بَاقٍ ؕ وَلَنَجۡزِيَنَّ الَّذِيۡنَ صَبَرُوۡۤا
اَجۡرَهُمۡ بِاَحۡسَنِ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۹٦﴾ مَنۡ عَمِلَ صَالِحًا
مِّنۡ ذَكَرٍ اَوۡ اُنۡثٰى وَهُوَ مُؤۡمِنٌ فَلَنُحۡيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ
لَنَجۡزِيَنَّهُمۡ اَجۡرَهُمۡ بِاَحۡسَنِ مَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۹۷﴾ فَاِذَا
قَرَاۡتَ الۡقُرۡاٰنَ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ﴿۹۸﴾
اِنَّهٗ لَيۡسَ لَهٗ سُلۡطٰنٌ عَلَى الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَلٰى رَبِّهِمۡ
يَتَوَكَّلُوۡنَ ﴿۹۹﴾ اِنَّمَا سُلۡطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيۡنَ يَتَوَلَّوۡنَهٗ وَالَّذِيۡنَ
هُمۡ بِهٖ مُشۡرِكُوۡنَ ﴿۱۰۰﴾ ع وَاِذَا بَدَّلۡنَاۤ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ
اَعۡلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوۡۤا اِنَّمَاۤ اَنۡتَ مُفۡتَرٍ ؕ بَلۡ اَكۡثَرُهُمۡ
لَا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۰۱﴾ قُلۡ نَزَّلَهٗ رُوۡحُ الۡقُدُسِ مِنۡ رَّبِّكَ بِالۡحَقِّ
لِيُثَبِّتَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَهُدًى وَّبُشۡرٰى لِلۡمُسۡلِمِيۡنَ ﴿۱۰۲﴾

١٣ ع ١١ ١٩

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِیْ
يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِیٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِیٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۰۳﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۰٤﴾ اِنَّمَا يَفْتَرِی الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿۱۰۵﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ
بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ
مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۰٦﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۰۷﴾
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿۱۰۸﴾ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ هُمُ
الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۰۹﴾ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ
مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْۤا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا
لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱۰﴾ يَوْمَ تَاْتِیْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ
نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰی كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۱۱۱﴾

٦۔ محمد ۱٦
۷۔ الاعراف ۱۷۹
۸۔ هود ۲۲
۹۔ النحل ۱۱۹
۱۰۔ الاعراف ۱۵۳ اور النحل ۱۱۹
۱۱۔ «عَمِلَت» کیساتھ صرف یہیں نیز البقرة ۲۸۱، آل عمران ۲۵ و ۱٦۱ اور الجاثیة ۲۲ جبکہ صرف «کُل نفس مّا عَمِلَت» آل عمران ۳۰ اور الزمر ۷۰ میں هے۔

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَىِٕنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿۱۱۲﴾ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿۱۱۳﴾ فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۱۴﴾ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱۵﴾ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۱۷﴾ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

۴۔ البقرۃ ۱۷۲ اور حم السجدۃ ۳۷
۵۔ البقرۃ ۱۷۳
۶۔ البقرۃ ۱۷۳ ، المآئدۃ ۳ اور الانعام ۱۴۵
۷۔ البقرۃ ۱۷۳ اور الانعام ۱۴۵
۸۔ ضمیمہ ۶۶
۹۔ النحل ۶۲
۱۰۔ المآئدۃ ۱۰۳ ، یونس ۶۰ اور ۶۹
۱۱۔ یونس ۷۰
۱۲۔ آل عمران ۱۹۷
۱۳۔ ضمیمہ ۱۰
۱۴۔ الانعام ۱۴۶
۱۵۔ ضمیمہ ۳۵

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۱۹﴾

ع ١٥ ٢١

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ؕ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۲۰﴾ شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ؕ اِجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۲۱﴾ وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۲۲﴾ ثُمَّ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۲۳﴾ اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۲۴﴾ اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿۱۲۵﴾ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ؕ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۲۶﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿۱۲۷﴾ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴿۱۲۸﴾

ع ١٦ ٢٢

٥۔ البقرة ١٣٠ اور العنکبوت ٢٧
٦۔ ضمیمہ ٥٣
٧۔ ضمیمہ ٥٤
٨۔ ضمیمہ ٥٠
٩۔ ضمیمہ ١٥٣
١٠۔ القلم ٧
١١۔ الانعام ١١٧، القصص ٥٦ اور القلم ٧ نیز النجم ٣٠
١٢۔ النمل ٧٠

سُورَةُ الْإِسْرَآءِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَّاَحَدَى عَشَرَةَ اٰيَةً وَّاثْنَا عَشَرَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ① وَاٰتَیْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَكِیْلًا ② ذُرِّیَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ③ وَقَضَیْنَاۤ اِلٰى بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ فِی الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِی الْاَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِیْرًا ④ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ عِبَادًا لَّنَاۤ اُولِیْ بَاْسٍ شَدِیْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّیَارِ ؕ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ⑤ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَیْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِیْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِیْرًا ⑥ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۫ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ؕ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِیَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِیَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِیُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِیْرًا ⑦

۵۔ الاسرآء ۷ اور ۱۰٤
۶۔ نوح ۱۲
۷۔ الاسرآء ۵ اور ۱۰٤

١ـ الاعراف ١٢٩ اور التحريم ٨ جبکہ« ربہ » کیساتھ التحریم ٥ میں ھے. ٢ـ النمل ٧٦

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ﴿٨﴾ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَ
يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ﴿٩﴾
وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٠﴾
وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ۭ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿١١﴾
وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ
وَالْحِسَابَ ۭ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ﴿١٢﴾ وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ
طٰۗىِٕرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ۭ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿١٣﴾
اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ۭ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿١٤﴾ ۭ مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا
يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۭ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِّزْرَ اُخْرٰى ۭ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾ وَاِذَآ اَرَدْنَآ
اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا
الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ
بَعْدِ نُوْحٍ ۭ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿١٧﴾

٣ـ الكهف ٢
٤ـ يونس ٥
٥ـ يونس ١٠٨، النمل ٩٢ اور الزمر ٤١
٦ـ ضميمه ١٥٨
٧ـ الفرقان ٣٦
٨ـ الفرقان ٥٨ نيز الاسرآء ٣٠ اور ٩٦

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا

لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿۱۸﴾ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا

سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿۱۹﴾ كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَ

هٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۭ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿۲۰﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ

فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۭ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿۲۱﴾

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ﴿۲۲﴾ وَقَضٰى رَبُّكَ

اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ

اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا

كَرِيْمًا ﴿۲۳﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا

كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿۲٤﴾ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ۭ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ

فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿۲۵﴾ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ

وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿۲٦﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ

الشَّيٰطِيْنِ ۭ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿۲۷﴾ وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ

رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿۲۸﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ

مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿۲۹﴾

ع ۲ (۱۲) ۲

٥۔ البقرۃ ۲۵۳ اور النسآء ۳٤ نیز ضمیمہ ۲۰٤
٦۔ الاسرآء ۲۹ اور ۳۹
۷۔ ضمیمہ ۱۹۷
۸۔ الاسرآء ۲۹
۹۔ یوسف ٤۰
۱۰۔ البقرۃ ۸۳، النسآء ۳٦ اور الانعام ۱۵۱
۱۱۔ الاسرآء ۵٤ و ۸٤ اور الکہف ۱۹
۱۲۔ الروم ۳۸
۱۳۔ الاسرآء ۲۲ اور ۳۹
۱٤۔ الاسرآء ۲۲

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ
خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ﴿٣١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً ۗ وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ
فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ وَلَا
تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ
طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ مِمَّآ
أَوْحٰىٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ
فَتُلْقٰى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾ أَفَأَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ
وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ ع

۵۔ النسآء ۲۲
۶۔ الانعام ۱۵۱ اور الفرقان ۶۸
۷۔ الانعام ۱۵۲
۸۔ الشعرآء ۱۸۲
۹۔ النسآء ۵۹
۱۰۔ ھود ۴۶ ، العنکبوت ۸ اور لقمان ۱۵
۱۱۔ لقمان ۱۸
۱۲۔ الاسرآء ۲۲ اور ۲۹
۱۳۔ ضمیمہ ۱۹۷
۱۴۔ الاعراف ۱۸ اور الاسرآء ۱۸

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ۭ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۝۴۱ قُلْ
لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا ۝۴۲
سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝۴۳ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ
وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۭ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا
تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝۴۴ وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ
جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۝۴۵
وَّجَعَلْنَا عَلٰي قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۭ وَاِذَا
ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓي اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۝۴۶ نَحْنُ
اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ
يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝۴۷ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا
لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝۴۸ وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا
عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۝۴۹ قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً
اَوْ حَدِيْدًا ۝۵۰ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ
يُّعِيْدُنَا ۭ قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ
رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ۭ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ۝۵۱

۴۔ المؤمنون ۷۱
۵۔ فاطر ۴۱
۶۔ الانعام ۲۵ اور الکہف ۵۷
۷۔ طٰہٰ ۱۰۴ اور ق ۴۵
۸۔ الفرقان ۸
۹۔ ضمیمہ ۱۲۰
۱۰۔ الفرقان ۹
۱۱۔ الاسرآء ۹۸

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

۳۔ النساء ۱۶۳
٤۔ سبا ۲۲
۵۔ ضمیمہ ۱۳
٦۔ الاسراء ۲۰
۷۔ ضمیمہ ۱۰۱
۸۔ الاحزاب ٦
۹۔ اگلی آیت (٦١) کی ابتدا بھی «وَاِذ» سے ہو رہی ہے۔

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ
ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ﴿٦١﴾ قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ
عَلَىَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا
قَلِيْلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ
جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ﴿٦٣﴾ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ
وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ
وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٦٤﴾ اِنَّ عِبَادِىْ
لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿٦٥﴾ رَبُّكُمُ الَّذِىْ
يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٦٦﴾ وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ
اِلَّآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ
كَفُوْرًا ﴿٦٧﴾ اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ
عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ﴿٦٨﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ
يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ
الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ﴿٦٩﴾

۳۔ ضمیمہ ۲۳
٤۔ النسآء ۱۲۰
٥۔ الحجر ٤۲
٦۔ الملک ۱٦
۷۔ الملک ۱۷
۸۔ الاسرآء ٦۹، ۷٥ اور ۸٦
۹۔ الملک ۱۷
۱۰۔ الاسرآء ٦۸، ۷٥ اور ۸٦

۴۔ الاسرآء ۷۶
۵۔ الاسرآء ۸۶
۶۔ الاسرآء ۶۸، ۶۹ اور ۸۶
۷۔ الاسرآء ۷۳

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ﴿۷۰﴾ يَوْمَ نَدْعُوْا
كُلَّ اُنَاسٍۭ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ
يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿۷۱﴾ وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ
اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿۷۲﴾ وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ
عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ
خَلِيْلًا ﴿۷۳﴾ وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ﴿۷۴﴾
اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ
عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴿۷۵﴾ وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ
مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۷۶﴾ سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا
قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ﴿۷۷﴾ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ
الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۭ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُوْدًا ﴿۷۸﴾ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ
رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿۷۹﴾ وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ
اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿۸۰﴾

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا
يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ
وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ
عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾ وَيَسْـَٔلُونَكَ
عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ
إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ
لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ
كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ
أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ
مَثَلٍ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ
حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن
نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ
كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَآئِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾

ع ۹ / ۷ / ۹

۳۔ الاسرآء ۲۵، ۵۴ اور الکھف ۱۹
۴۔ الاسرآء ۷۳
۵۔ الاسرآء ۶۸، ۶۹ اور ۷۵
۶۔ الاسرآء ۴۱، الکھف ۵۴، الروم ۵۸ اور الزمر ۲۷
۷۔ الفرقان ۵۰
۸۔ الاسرآء ۹۳
۹۔ البقرۃ ۲۶۶ اور یس ۳۴

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ ۚ وَلَن نُّؤْمِنَ
لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ
كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿۹۳﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ
الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿۹٤﴾ قُل لَّوْ كَانَ فِي
الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ
مَلَكًا رَّسُولًا ﴿۹۵﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ
بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿۹٦﴾ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن
يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ
زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿۹۷﴾ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿۹۸﴾
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ
أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ
إِلَّا كُفُورًا ﴿۹۹﴾ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا
لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿۱۰۰﴾

ع ۱۰ ۹ ۱۰

النصف

ع ۱۱ ۱۰ ۱۱

۵۔ الاسراء ٤۲
٦۔ الرعد ٤۳، العنکبوت ۵۲ اور الاحقاف ۸
۷۔ الاسراء ۱۷ اور ۳۰
۸۔ الاعراف ۱۷۸ اور الکہف ۱۷
۹۔ الکہف ۱۷
۱۰۔ صرف یہیں۔
۱۱۔ الکہف ۱۰٦
۱۲۔ الاسراء ٤۹
۱۳۔ یٰس ۸۱، حم السجدۃ ۱۵ اور الاحقاف ۳۳ نیز ضمیمہ ۱۹۲
۱٤۔ ضمیمہ ٤

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿١٠٢﴾ فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ﴿١٠٣﴾ وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿١٠٤﴾ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿١٠٥﴾ وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٦﴾ قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿١١١﴾

۵۔ الاسرآء ۵ اور ۷
٦۔ الفرقان ٥٦
۷۔ ضمیمہ ۱ اور ۱۳۵
۸۔ الفرقان ۲ نیز «وَلَم یَکُن لَه» الاسرآء ۱۱۱، الفرقان ۲ اور الاخلاص ٤
۹۔ اس آیت میں یہاں مکرر نیز الفرقان ۲ اور الاخلاص ٤

۴۔ ھود ۱۲ اور الشعرآء ۳
۵۔ ھود ۷ اور الملک ۲
۶۔ البقرۃ ۲۰۰ اور ۲۰۱

سُوْرَۃُ الْکَہْفِ مَکِّیَّۃٌ وَّہِیَ مِائَۃٌ وَّعَشْرُ اٰیٰتٍ وَّاثْنَا عَشَرَ رُکُوْعًا

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِہِ الْکِتٰبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ عِوَجًا ۞۱ قَیِّمًا لِّیُنْذِرَ بَاْسًا شَدِیْدًا مِّنْ لَّدُنْہُ وَیُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَہُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۞۲ مّٰکِثِیْنَ فِیْہِ اَبَدًا ۞۳ وَّیُنْذِرَ الَّذِیْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰہُ وَلَدًا ۞۴ مَا لَہُمْ بِہٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِہِمْ کَبُرَتْ کَلِمَۃً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاہِہِمْ اِنْ یَّقُوْلُوْنَ اِلَّا کَذِبًا ۞۵ فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ عَلٰٓی اٰثَارِہِمْ اِنْ لَّمْ یُؤْمِنُوْا بِہٰذَا الْحَدِیْثِ اَسَفًا ۞۶ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَی الْاَرْضِ زِیْنَۃً لَّہَا لِنَبْلُوَہُمْ اَیُّہُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۞۷ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَیْہَا صَعِیْدًا جُرُزًا ۞۸ اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْکَہْفِ وَالرَّقِیْمِ کَانُوْا مِنْ اٰیٰتِنَا عَجَبًا ۞۹ اِذْ اَوَی الْفِتْیَۃُ اِلَی الْکَہْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْکَ رَحْمَۃً وَّہَیِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۞۱۰ فَضَرَبْنَا عَلٰٓی اٰذَانِہِمْ فِی الْکَہْفِ سِنِیْنَ عَدَدًا ۞۱۱

ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَیُّ الْحِزْبَیْنِ اَحْصٰی لِمَا لَبِثُوْۤا اَمَدًا ﴿۱۲﴾

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ فِتْیَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ

وَ زِدْنٰهُمْ هُدًی ﴿۱۳﴾ وَّ رَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا

رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاۡ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ

قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ﴿۱۴﴾ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْ

لَا یَاْتُوْنَ عَلَیْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَیِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی

عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا ﴿۱۵﴾ وَ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَ مَا یَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ

فَاْوٗۤا اِلَی الْكَهْفِ یَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَ یُهَیِّئْ لَكُمْ

مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿۱۶﴾ وَ تَرَی الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ

كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِیْنِ وَ اِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ

وَ هُمْ فِیْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ یَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ

الْمُهْتَدِ ۚ وَ مَنْ یُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِیًّا مُّرْشِدًا ﴿۱۷﴾ وَ

تَحْسَبُهُمْ اَیْقَاظًا وَّ هُمْ رُقُوْدٌ ۖۗ وَّ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِیْنِ وَ

ذَاتَ الشِّمَالِ ۖۗ وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیْدِ ؕ لَوِ اطَّلَعْتَ

عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿۱۸﴾

۳۔ الکهف ۱۸
۴۔ الاعراف ۱۷۸ اور الاسرآء ۹۷
۵۔ الاسرآء ۹۷ نیز النسآء ۸۸ اور ۱۴۳
۶۔ الکهف ۱۷

۱۔ صرف یہیں جبکہ «ثُمّ بعثناهم» الکهف ۱۲ میں اور «وکذلك أعثرنا عليهم» الکهف ۲۱ میں هے. ۲۔ یوسف ۱۰ اور الصافات ۵۱ ۳۔ صرف یہیں نیز البقرة ۲۵۹ اور المؤمنون ۱۱۳

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ
كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالُوْا رَبُّكُمْ
اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ؕ فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ
اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿۱۹﴾
اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ
فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿۲۰﴾ وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا
عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا
رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا
عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا
عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿۲۱﴾ سَيَقُوْلُوْنَ
ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ
رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ؕ قُلْ
رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ
اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۪ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿۲۲﴾ ع

ع ۳ ۵ ۱۵

نصف القرآن باعتبار عدد الحروف بان التاء بعد الیاء من النصف الاول و اللام الثانیة من النصف الاخیر ۱۲

۴۔ صرف یہیں نیز الاسرآء ۲۵، ۵۴ و ۸۴
۵۔ صرف یہیں جبکہ «فلن یّهتدوا» کیساتھ الکهف ۵۷ میں هے.
۶۔ خیال سے پڑھیے صرف یہیں جبکہ «وکذلك بعثناهم» الکهف ۱۹ میں هے.
۷۔ القصص ۱۳ جبکہ «إنّ وعد الله حق» ضمیمه ۱۸۴ میں هے.

۸۔ صرف یہیں جبکہ «وأنّ الساعة آتية» کیساتھ الحج ۷ میں نیز المؤمن ۵۹، الجاثیة ۳۲ اور ضمیمه ۴
۹۔ صرف یہیں جبکہ «أمرهم بينهم» طه ۶۲، الانبیآء ۹۳ اور المؤمنون ۵۳ میں هے.

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿۲۳﴾ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ
اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ
رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴿۲۴﴾ وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ
ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴿۲۵﴾ قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا
لَبِثُوْا لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ مَا
لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ﴿۲۶﴾
وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ
وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿۲۷﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ
يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ
وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ
لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ
اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿۲۸﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ
وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا
اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ
كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿۲۹﴾

۴۔ الانعام ۵۲
۵۔ الکہف ۴۶
۶۔ الکہف ۱۰۲
۷۔ خیال رہے (ہٗ) پر زبر ہے۔
۸۔ الکہف ۳۱

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ
أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ
يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا
عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾ وَاضْرِبْ
لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ
وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ
آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾
وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ
مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ
لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا
أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ
خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ
أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ
سَوَّاكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾

ع ٤ ٩ ١٦

٤۔ الحج ۲۳ اور فاطر ۳۳
٥۔ الدھر ۲۱
٦۔ ص ۵۱ اور الدھر ۱۳
۷۔ الکھف ۲۹
۸۔ الکھف ۴۵ اور یس ۱۳
۹۔ الکھف ۳۷
۱۰۔ حم السجدۃ ۵۰
۱۱۔ الکھف ۳٤
۱۲۔ الحج ٥، فاطر ۱۱ اور المومن ٦۷
۱۳۔ الکھف ۲٦، ٤۲ و ۱۱۰ اور الجن ۲۰

وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ
اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّ وَلَدًا ﴿۳۹﴾ فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ
يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ
فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿۴۰﴾ اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ
لَهٗ طَلَبًا ﴿۴۱﴾ وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ
اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ
لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿۴۲﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿۴۳﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ
لِلّٰهِ الْحَقِّ ؕ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ﴿۴۴﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ
مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ
الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿۴۵﴾ اَلْمَالُ وَ
الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ﴿۴۶﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ
تَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿۴۷﴾

۴۔ القصص ۸۱
۵۔ القصص ۸۱ نیز ضمیمہ ۱۹
۶۔ الکھف ۴۶ اور مریم ۷۶
۷۔ الکھف ۳۲ اور یٰس ۱۳
۸۔ یونس ۲۴
۹۔ النسآء ۸۵، الاحزاب ۲۷ اور الفتح ۲۱
۱۰۔ الکھف ۲۸
۱۱۔ الکھف ۴۴ اور مریم ۷۶

ع ۵ / ۱۳ / ۱۷

وَعُرِضُوْا عَلٰی رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ
اَوَّلَ مَرَّةٍۭ ۫ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿۴۸﴾ وَ وُضِعَ
الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ
يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً
وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَ
لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿۴۹﴾ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا
لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ
اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗۤ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ
لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿۵۰﴾ مَاۤ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۪ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ
الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿۵۱﴾ وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ
زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ
مَّوْبِقًا ﴿۵۲﴾ وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَ
لَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿۵۳﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ
لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿۵۴﴾

ع ٦ ۵ ۱۸

ع ۷ ٤ ۱۹

٦۔ خیال سے پڑھیے (ضِ) کے نیچے زیر ہے نیز العنکبوت ٤٤ اور الجاثیۃ ۲۲

۷۔ القصص ٦٤

۸۔ الاسراء ٤١ و ۸۹، الروم ۵۸ اور الزمر ۲۷

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿۵۵﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ﴿۵۶﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ۭ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰي قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۭ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿۵۷﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ۭ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۭ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْىِٕلًا ﴿۵۸﴾ وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿۵۹﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا ﴿۶۰﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿۶۱﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَاۗءَنَا ۡ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿۶۲﴾

ع ۸ ۶ ۲۰

۴۔ المؤمن ۵
۵۔ الکهف ۱۰۶
۶۔ السجدة ۲۲
۷۔ النبا ۴۰
۸۔ الانعام ۲۵ اور الاسرآء ۴۶
۹۔ الکهف ۲۰
۱۰۔ الانعام ۱۳۳
۱۱۔ ضمیمه ۳۴
۱۲۔ آخر میں (الف) شامل هے خیال سے پڑھیے۔
۱۳۔ الکهف ۶۳
۱۴۔ خیال رهے یهاں (ص) استعمال هوا هے۔

٤۔ الکھف ٧٢ اور ٧٥
٥۔ القصص ٢٧ اور الصافات ۱۰۲ نیز ضمیمہ ۳۹
٦۔ الکھف ٧٤ اور ٧٧
٧۔ الکھف ٧٤
٨۔ الکھف ٦٧ اور ٧٥
٩۔ الکھف ٧١ اور ٧٧
١٠۔ الکھف ٧١

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَاۤ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَاۤ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰۤى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَاۤ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰۤى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِىْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَاۤ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْـَٔلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰۤى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ فَانْطَلَقَا ۗ حَتّٰۤى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانْطَلَقَا ۗ حَتّٰۤى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾

ع ۹ ۱۱ ۲۱

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾
قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ
مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۨاسْتَطْعَمَآ
اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ
يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ
هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ
صَبْرًا ﴿٧٨﴾ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ
فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ
غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا
طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً
وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي
الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ
رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ
وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾
وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

۵۔ الکھف ٨٢
٦۔ المآئدة ٦٤ اور ٦٨
٧۔ الکھف ٧٨

اور ۹۲
۵۔ الکہف ۸٦
اور ۹۳
٦۔ الکہف ۸۵
اور ۸۹
۷۔ الکہف ۸٦
اور ۹۰
۸۔ الکہف ۸٦
۹۔ اور ۱۰۔ ایک ہی آیت میں دو بار۔

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَٰهُ مِن كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَأَتْبَعَ
سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ
حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن
تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ
نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾ وَأَمَّا مَنْ
ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا
يُسْرًا ﴿٨٨﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ
عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا
بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ
وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوا۟
يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ
نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا
مَكَّنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
رَدْمًا ﴿٩٥﴾ ءَاتُونِى زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ
ٱنفُخُوا۟ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارًا قَالَ ءَاتُونِىٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هٰذَا
رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ
رَبِّيْ حَقًّا ﴿٩٨﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ
فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ
عَرْضَا ﴿١٠٠﴾ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا
لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾ اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا
عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ۭ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا
نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا
وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ
لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

۴۔ المآئدۃ ۶۰
۵۔ ضمیمہ ۱۳
۶۔ الاسرآء ۹۸
۷۔ الکہف ۵۶
۸۔ ضمیمہ ۹۲
۹۔ ضمیمہ ۵۸

ع ۱۱ ۱۹ ۳

۱۔ حم السجدۃ ٦ جبکہ «بَشَر مثلُکم» کے بغیر الانبیآء ۱۰۸ میں ھے. ۲۔ النحل ۲۲ ، الانبیآء ۱۰۸ اور حم السجدۃ ٦ جبکہ «وَاِلٰھُکم» البقرۃ ۱٦۳ میں اور «فَاِلٰھُکم» الحج ۳٤ میں ھے.
۳۔ الکھف ۲٦ ، ۳۸ و ٤۲ اور الجن ۲۰
٤۔ مریم ٤۸
٥۔ الحجر ٥۳
٦۔ آل عمران ٤۰
۷۔ مریم ۲۱
۸۔ مریم ٦۷
۹۔ آل عمران ٤۱
۱۰۔ القصص ۷۹
۱۱۔ مریم ٦۲

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَمَانٍ وَّتِسْعُونَ آيَةً وَّسِتُّ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

كٓهيٰعٓصٓ ﴿١﴾ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَّلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَّرَآءِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَّرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾ يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ اسْمُهُۥ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿١١﴾

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَّحَنَانًا
مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَّبَرًّاۢ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ
جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ
يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا
مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۫ فَاَرْسَلْنَاۤ
اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ اِنِّىْۤ اَعُوْذُ
بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ اِنَّمَاۤ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ
لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ
يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ
هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ
اَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾
فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ
قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَاۤ
اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهُزِّىْۤ
اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾

ع ٥ وقف لازم

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا

فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿٢٦﴾

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾

يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي

مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ

حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَالسَّلَامُ

عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾ ذَٰلِكَ

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾ مَا كَانَ

لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا

صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ

لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ

يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ وَّ
هُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۹﴾ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا
يُرْجَعُوْنَ ﴿٤۰﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا
نَّبِيًّا ﴿٤۱﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ
وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا ﴿٤۲﴾ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ
يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤۳﴾ يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ
اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ
عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤۵﴾ قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ
عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾
قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَ
اَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ۖ عَسٰۤى اَلَّاۤ
اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ﴿٤۸﴾ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤۹﴾
وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿۵۰﴾
وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰۤى ۫ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿۵۱﴾

٦۔ مریم ٤۲ ، ٤٤ اور ٤۵
۷۔ مریم ٤۲ ، ٤۳ اور ٤۵
۸۔ مریم ٤۲ ، ٤۳ اور ٤٤
۹۔ الشعرآء ۱۱٦ اور ۱٦۷
۱۰۔ ضمیمہ ۱۹
۱۱۔ مریم ٤
۱۲۔ ضمیمہ ۱۹
۱۳۔ الانعام ۸٤ ، الانبیآء ۷۲ اور العنکبوت ۲۷
۱٤۔ مریم ۵۳ اور ص ٤۳
۱۵۔ ضمیمہ ۲۰۱

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ﴿۵۲﴾ وَ
وَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ﴿۵۳﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ
اِسْمٰعِيْلَ ؗ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿۵۴﴾ وَ
كَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۪ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿۵۵﴾
وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ؗ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿۵۶﴾ وَّرَفَعْنٰهُ
مَكَانًا عَلِيًّا ﴿۵۷﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ
مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ق وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؗ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ
وَاِسْرَآءِيْلَ ؗ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ؕ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ
الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ﴿۵۸﴾ السجدة فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿۵۹﴾
اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ﴿۶۰﴾ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨالَّتِيْ وَعَدَ
الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ﴿۶۱﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ
فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿۶۲﴾
تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿۶۳﴾

۵۔ ضمیمہ ۲۰۱
۶۔ مریم ۴۱
۷۔ ضمیمہ ۱۳
۸۔ النسآء ۶۹
۹۔ اور ۱۰۔ ایک ہی قسم کے الفاظ کی تکرار ہے۔
۱۱۔ (و) کی کمی کیساتھ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۷۳
۱۲۔ الاعراف ۱۶۹
۱۳۔ الفرقان ۷۰ اور ۷۱
۱۴۔ النسآء ۱۲۴ اور المومن ۴۰
۱۵۔ النسآء ۴۹ و ۱۲۴ اور الاسرآء ۷۱
۱۶۔ الواقعۃ ۲۵ اور النبا ۳۵
۱۷۔ مریم ۱۱
۱۸۔ الزخرف ۷۲

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۚ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا
وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ
لَهٗ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾ وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ ع ٤ ٥ ٧
اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ﴿٦٧﴾
فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ
جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ
عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ وَاِنْ
مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي
الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ
اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ۙ اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ
خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ
اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ﴿٧٤﴾ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ
الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا
السَّاعَةَ ؕ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾

۱۔ الکھف ٤٤ اور ٤٦ ۲۔ مریم ۸۷ ۳۔ آگے ایک آیت (۸۲) کی ابتداء بھی «کَلَّا» سے ہو رہی ہے۔
٤۔ یٰس ٧٤ نیز ضمیمہ ١٩
٥۔ اوپر ایک آیت (٧٩) کی ابتدا بھی «کَلَّا» سے ہو رہی ہے۔
٦۔ ضمیمہ ٨٠
٧۔ مریم ٧٨
٨۔ الشوریٰ ٥
٩۔ ضمیمہ ١٠٦

وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ؕ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾ اَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا
وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٧٧﴾ اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ
الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا ؕ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ
مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ؕ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ
يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّاۤ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى
الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾
يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ
اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ
الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا
اِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ
هَدًّا ﴿٩٠﴾ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾
اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ
اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

ع ١٧ ٥ ٨

وقف لازم وقف لازم

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

سُوْرَةُ طٰهٰ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّخَمْسٌ وَّثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّثَمَانُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

طه ﴿١﴾ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴿٢﴾ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿٣﴾ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى ﴿٤﴾ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴿٥﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ﴿٦﴾ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿٨﴾ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿٩﴾ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ ﴿١١﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾

۵۔ ضمیمہ ۸٤ اور ۵۹
٦۔ النازعات ۱۵ جبکہ «وَهَلْ اَتٰكَ» ص ۲۱ میں ھے۔
۷۔ النمل ۷ اور القصص ۲۹
۸۔ النازعات ۱٦

ع ٦ / ١٦ / ٩

اور القصص ۳۲ ۶۔ طٰہ ٤۳ اور النازعات ۱۷

وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ﴿۱۳﴾ اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ

اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ﴿۱٤﴾ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ

اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا تَسْعٰى ﴿۱۵﴾ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ

لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿۱۶﴾ وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿۱۷﴾

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا

مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿۱۸﴾ قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿۱۹﴾ فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ

تَسْعٰى ﴿۲۰﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ٚ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿۲۱﴾

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً

اُخْرٰى ۙ ﴿۲۲﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿۲۳﴾ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ

طَغٰى ﴿۲٤﴾ ع قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۙ ﴿۲۵﴾ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۙ ﴿۲۶﴾ وَاحْلُلْ

عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۙ ﴿۲۷﴾ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۠ ﴿۲۸﴾ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ

اَهْلِيْ ۙ ﴿۲۹﴾ هٰرُوْنَ اَخِي ۙ ﴿۳۰﴾ اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ۙ ﴿۳۱﴾ وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ

اَمْرِيْ ۙ ﴿۳۲﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۙ ﴿۳۳﴾ وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۭ ﴿۳٤﴾ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا

بَصِيْرًا ﴿۳۵﴾ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿۳۶﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا

عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى ۙ ﴿۳۷﴾ اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى ۙ ﴿۳۸﴾

صفحہ نمبر ۳۱۵ ۱۔ خیال سے پڑھیے یہاں (مَ) پر زبر ہے۔ ۲۔ القصص ۱۲ اور الصف ۱۰ ۳۔ القصص ۱۳

ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم
بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة
مني ولتصنع على عيني ﴿۳۹﴾ اذ تمشي اختك فتقول هل
ادلكم على من يكفله فرجعنك الى امك كي تقر عينها ولا
تحزن وقتلت نفسا فنجينك من الغم وفتنك فتونا
فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يموسى ﴿۴۰﴾
واصطنعتك لنفسي ﴿۴۱﴾ اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا
في ذكري ﴿۴۲﴾ اذهبا الى فرعون انه طغى ﴿۴۳﴾ فقولا له قولا لينا
لعله يتذكر او يخشى ﴿۴۴﴾ قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا
او ان يطغى ﴿۴۵﴾ قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى ﴿۴۶﴾
فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسراءيل
ولا تعذبهم قد جئنك باية من ربك والسلم على من
اتبع الهدى ﴿۴۷﴾ انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب
وتولى ﴿۴۸﴾ قال فمن ربكما يموسى ﴿۴۹﴾ قال ربنا الذي اعطى
كل شيء خلقه ثم هدى ﴿۵۰﴾ قال فما بال القرون الاولى ﴿۵۱﴾

۴۔ طه ۲۴ اور النازعات ۱۷
۵۔ الشعرآء ۱۶
۶۔ الاعراف ۱۰۵ اور الشعرآء ۱۷
۷۔ السجدة ۷

قال علمها

قال علمها عند ربي في كتب لا يضل ربي ولا ينسى ﴿٥٢﴾
الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا و
انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى ﴿٥٣﴾
كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايت لاولي النهى ﴿٥٤﴾ منها
خلقنكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ﴿٥٥﴾ ولقد
اريناه ايتنا كلها فكذب وابى ﴿٥٦﴾ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا
بسحرك يموسى ﴿٥٧﴾ فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك
موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى ﴿٥٨﴾ قال موعدكم
يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى ﴿٥٩﴾ فتولى فرعون فجمع
كيده ثم اتى ﴿٦٠﴾ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا
فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ﴿٦١﴾ فتنازعوا امرهم
بينهم واسروا النجوى ﴿٦٢﴾ قالوا ان هذن لسحرن يريدن ان
يخرجكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى ﴿٦٣﴾
فاجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى ﴿٦٤﴾
قالوا يموسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى ﴿٦٥﴾

ع ٢ / ١١

صفحہ نمبر ٣١٦
١- ضميمه ٢٢٦
٢- الزخرف ١٠
٣- ضميمه ١٨
٤- الانعام ٩٩ اور فاطر ٢٧ نيز البقرة ٢٢ اور ابراهيم ٣٢
٥- طه ١٢٨ نيز ضميمه ٢٢٥
٦- القمر ٤٢
٧- طه ٩٧
٨- الذاريات ٣٩
٩- طه ١١١ اور الشمس ١٠
١٠- الانبياء ٩٣ اور المومنون ٥٣ جبكه «بينهم أمرهم» الكهف ٢١ ميں هے.
١١- الاعراف ١١٥

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾ فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾ وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۭ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۭ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾ فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ﴿٧٠﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۭ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۡ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ﴿٧١﴾ قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَاۗءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ۭ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ ۭ اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿٧٣﴾ اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ۭ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿٧٤﴾ وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰۗىِٕكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ﴿٧٥﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَذٰلِكَ جَزٰۗؤُا مَنْ تَزَكّٰى ﴿٧٦﴾ ع

٥۔ الاعراف ۱۲۱ و ۱۲۲ اور الشعرآء ٤٧
٦۔ الاعراف ۱۲۳ اور الشعرآء ٤٩
۷۔ الاعراف ۱۲۳ اور الشعرآء ٤٩
۸۔ الاعراف ۱۲٤ اور الشعرآء ٤٩
۹۔ ضميمه ۲۰۳
۱۰۔ الاعلى ۱۳
۱۱۔ ضميمه ۲۱
۱۲۔ ضميمه ۵۸

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى ۙ۬ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ﴿۷۷﴾ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿۷۸﴾ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ﴿۷۹﴾ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ﴿۸۰﴾ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ﴿۸۱﴾ وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ﴿۸۲﴾ وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ﴿۸۳﴾ قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِيْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ﴿۸۴﴾ قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿۸۵﴾ فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِيْ ﴿۸۶﴾

۵۔ البقرة ۵۷ اور الاعراف ۱۶۰
۶۔ البقرة ۵۷ اور الاعراف ۱۶۰
۷۔ طه ۸۶
۸۔ یہ لفظ اس آیت میں یہاں مکرر آیا ہے۔
۹۔ طه ۸۷
۱۰۔ الاعراف ۱۵۰
۱۱۔ طه ۸۱

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۬ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾ اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ﴿٩٠﴾ قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ﴿٩١﴾ قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا ﴿٩٢﴾ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۭ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿٩٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ﴿٩٤﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ﴿٩٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ﴿٩٦﴾ قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۠ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۭ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

ع ۱۳ ٤ ۱۳

٤۔ (ن) پر یہاں پیش ہے خیال سے پڑھیے۔
٥۔ الاعراف ۱۲ اور ص ۷٥
٦۔ الحجر ٥۷ اور الذاریات ۳۱
۷۔ طه ٥۸

إِنَّمَآ إِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِي لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿۹۸﴾ كَذٰلِكَ
نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا
ذِكْرًا ﴿۹۹﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ﴿۱۰۰﴾ خٰلِدِينَ
فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿۱۰۱﴾ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ
الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿۱۰۲﴾ يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا
عَشْرًا ﴿۱۰۳﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ إِذْ يَقُوْلُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً إِنْ
لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿۱۰۴﴾ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ﴿۱۰۵﴾
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿۱۰۶﴾ لَّا تَرٰى فِيهَا عِوَجًا وَّلَآ أَمْتًا ﴿۱۰۷﴾ يَوْمَئِذٍ
يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ
فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿۱۰۸﴾ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ
لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ﴿۱۰۹﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ﴿۱۱۰﴾ وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ۖ وَقَدْ
خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿۱۱۱﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿۱۱۲﴾ وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا
فِيهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿۱۱۳﴾

ع ۵ ۱۵ ۱۴

النبا ۱۸
۵۔ الاسرآء ۴۷ اور ق ۴۵
۶۔ طه ۱۰۹
۷۔ طه ۱۰۸
۸۔ البقرة ۲۵۵، الانبیاء ۲۸ اور الحج ۷۶ نیز ضمیمہ ۸۷
۹۔ طه ۶۱ اور الشمس ۱۰
۱۰۔ النسآء ۱۲۴ جبکہ «فَمَن يَعمَل» الانبیاء ۹۴ میں ہے۔
۱۱۔ الرعد ۳۷ اور الحج ۱۶
۱۲۔ ضمیمہ ۶۳

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ
يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿۱۱۴﴾ وَلَقَدْ عَهِدْنَآ
اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿۱۱۵﴾ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ
اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ اَبٰى ﴿۱۱٦﴾ فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا
عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿۱۱۷﴾ اِنَّ
لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿۱۱۸﴾ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿۱۱۹﴾
فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ
الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿۱۲۰﴾ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا
وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۫ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ
فَغَوٰى ﴿۱۲۱﴾ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿۱۲۲﴾ قَالَ اهْبِطَا
مِنْهَا جَمِيْعًا ۢ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۥ
فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ﴿۱۲۳﴾ وَمَنْ اَعْرَضَ
عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
اَعْمٰى ﴿۱۲۴﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿۱۲۵﴾
قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿۱۲٦﴾

ع ٦ / ۱۱ / ۱۵

۵۔ الاعراف ۲۲
٦۔ خیال رہے یہاں (بَ) پر زبر ہے۔
۷۔ البقرة ۳٦ اور الاعراف ۲٤
۸۔ البقرة ۳۸
۹۔ طه ۱۰۰

وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿۱۲۷﴾ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ﴿۱۲۸﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿۱۲۹﴾ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿۱۳۰﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿۱۳۱﴾ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿۱۳۲﴾ وَقَالُوْا لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿۱۳۳﴾ وَلَوْ اَنَّاۤ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ﴿۱۳۴﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ﴿۱۳۵﴾

ع ۷ / ۱۶ — ع ۸ / ۱۷

۵۔ ضمیمہ ۱۸۱
٦۔ ق ۳۹
۷۔ المؤمن ٥٥ ، ق ۳۹ اور الطور ٤۸
۸۔ ق ۳۹
۹۔ الحجر ۸۸
۱۰۔ الجن ۱۷
۱۱۔ ضمیمہ ۲۰۳
۱۲۔ القصص ٤۷

سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاۗءِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّاثْنَتَا عَشْرَةَ اٰيَةً وَّسَبْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ① مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ② لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ۭ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ڰ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ڰ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ③ قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ ۡ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ④ بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۢ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ښ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ⑤ مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ⑥ وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ⑦ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ ⑧ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَاۗءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ⑨ لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ⑩ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ⑪

۳۔ النمل ۵۴
۴۔ ضمیمہ ۵۵
۵۔ یوسف ۴۴
۶۔ «قبلكَ» کیساتھ الفرقان ۲۰ میں نیز یوسف ۱۰۹ ، النحل ۴۳ ، الانبیآء ۲۵ اور الحج ۵۲
۷۔ یوسف ۱۰۹ اور النحل ۴۳
۸۔ النحل ۴۳ نیز ضمیمہ ۶۲
۹۔ ضمیمہ ۳۱
۱۰۔ الزخرف ۳۲ میں (س) استعمال ھوا ھے توجہ سے پڑھیے۔

فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوْا وَ ارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿١٣﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ﴿١٥﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿١٦﴾ لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ﴿١٨﴾ وَ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿٢٠﴾ اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ﴿٢١﴾ لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٢﴾ لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿٢٣﴾ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۚ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٤﴾

٥ ، الانبیآء ٤٦ اور القلم ٢٩ جبکہ القلم ٣١ میں «طٰغِینَ» استعمال ہوا ہے۔
٣ـ ص ٢٧
٤ـ الدخان ٣٨
٥ـ الانبیآء ١٠٤
٦ـ ضمیمہ ١٠٦
٧ـ النسآء ١٧٢ اور الاعراف ٢٠٦
٨ـ یہاں (تُ) پر پیش ہے خیال سے پڑھیے۔
٩ـ الانبیآء ٢٤ ، الزمر ٤٣ اور الشوری ٩
١٠ـ الزخرف ٨٢
١١ـ الزخرف ١٩
١٢ـ الانبیآء ٢١ ، الزمر ٤٣ اور الشوری ٩
١٣ـ البقرة ١١١ اور النمل ٦٤

١٤ـ (مَ) پر زبر ہے توجہ سے پڑھیے۔ ١٥ـ ضمیمہ ١٩٩

ص۳۲۵ ۱۔ صرف یہیں نیز الحج ۵۲ ، یوسف ۱۰۹ و النحل ۴۳ ، الانبیآء ۷ و الفرقان ۲۰ ۲۔ صرف یہیں نیز النحل ۲ و طٰه ۱۴ ۳۔ صرف یہیں نیز البقرة ۱۱۶ ، یونس ۶۸ ، النسآء ۱۷۱ ، مریم ۳۵ اور الزمر ۴ ۴۔ صرف یہیں نیز الصآفات ۴۲ و المعارج ۳۵ ۵۔ صرف یہیں نیز البقرة ۲۵۵ ، طٰه ۱۱۰ و الحج ۷۶ اور

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِیْٓ اِلَیْهِ اَنَّهٗ
لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿۲۵﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا
سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿۲۶﴾ لَا یَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ
بِاَمْرِهٖ یَعْمَلُوْنَ ﴿۲۷﴾ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
یَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰی وَهُمْ مِّنْ خَشْیَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿۲۸﴾
وَمَنْ یَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّیْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِیْهِ جَهَنَّمَ ؕ
كَذٰلِكَ نَجْزِی الظّٰلِمِیْنَ ﴿۲۹﴾ اَوَلَمْ یَرَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ
كُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ ؕ اَفَلَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۰﴾ وَجَعَلْنَا فِی الْاَرْضِ رَوَاسِیَ اَنْ
تَمِیْدَ بِهِمْ ۪ وَجَعَلْنَا فِیْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ یَهْتَدُوْنَ ﴿۳۱﴾ وَ
جَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚۖ وَّهُمْ عَنْ اٰیٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿۳۲﴾
وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ
فِیْ فَلَكٍ یَّسْبَحُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ؕ
اَفَاۡىِٕنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ﴿۳۴﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآىِٕقَةُ
الْمَوْتِ ؕ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً ؕ وَاِلَیْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۳۵﴾

۶۔ صرف یہیں نیز الجن ۲۷
۷۔ صرف یہیں نیز المومنون ۵۷
۸۔ یوسف ۷۵ نیز الاعراف ۴۱ ، الانعام ۸۴ ، یوسف ۲۲ و القصص ۱۴ ، الصآفات ۱۱۰ ، ضمیمه ۲۱۷ ، الاعراف ۴۰ ، یونس ۱۳ و الاحقاف ۲۵ ، الاعراف ۱۵۲ ، طٰه ۱۲۷ ، فاطر ۳۶ اور القمر ۳۵
۹۔ صرف یہیں نیز یٰس ۷۷ و ضمیمه ۱۹۲
۱۰۔ صرف یہیں نیز الانفال ۵۵
۱۱۔ یٰس ۳۴ اور المرسلات ۲۷
۱۲۔ المومنون ۴۹ و السجدة ۳ نیز ضمیمه ۳۳

ع ۲ / ۱۹ / ۲

۱۳۔ صرف یہیں نیز یوسف ۱۰۵ و آل عمران ۲۳ ۱۴۔ صرف یہیں نیز النحل ۱۲ ، حٰم السجدة ۳۷ اور ضمیمه ۱۸۹ ۱۵۔ صرف یہیں نیز یٰس ۴۰ ۱۶۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۱۴۴ ۱۷۔ آل عمران ۱۸۵ اور العنکبوت ۵۷ ۱۸۔ صرف یہیں نیز البقرة ۱۵۵ و محمد ۳۱ ۱۹۔ صرف یہیں نیز ضمیمه ۸۲

وَإِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۭ اَهٰذَا
الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٦﴾
خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۭ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٣٧﴾
وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾ لَوْ يَعْلَمُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا
عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٣٩﴾ بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً
فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٤٠﴾
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا
مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤١﴾ قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ
وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ۭ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٢﴾
اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ۭ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ
اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ﴿٤٣﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَاۗءِ وَ
اٰبَاۗءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۭ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِي
الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۭ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ قُلْ اِنَّمَآ
اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ڮ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاۗءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ ﴿٤٥﴾

ع ۳ ۴

۵۔ الانعام ۱۰ اور الرعد ۳۲
۶۔ خیال سے پڑھیے یہاں (ص) استعمال ہوا ہے نیز المؤمن ۷۱ اور القمر ۴۸
۷۔ القصص ۴۵
۸۔ الرعد ۴۱
۹۔ النمل ۸۰ اور الروم ۵۲

وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿۴۶﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ؕ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ؕ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ﴿۴۷﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۴۸﴾ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ﴿۴۹﴾ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ؕ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿۵۰﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ﴿۵۱﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿۵۲﴾ قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿۵۳﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۵۴﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ﴿۵۵﴾ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۵۶﴾ وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿۵۷﴾

۲۔ الاسرآء ۱۰۱ اور المومن ۵۳
۳۔ فاطر ۱۸ اور الملک ۱۲
۴۔ الشعرآء ۷۰ اور الصآفات ۸۵
۵۔ الشعرآء ۷۴
۶۔ ضمیمہ ۱۵۰
۷۔ الاعرف ۷۰ ، یونس ۷۸ اورالاحقاف ۲۲

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ﴿۵۸﴾
قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۹﴾ قَالُوْا
سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ﴿۶۰﴾ قَالُوْا
فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ﴿۶۱﴾ قَالُوْٓا
ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿۶۲﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ
كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴿۶۳﴾ فَرَجَعُوْٓا
اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۶۴﴾ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى
رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿۶۵﴾ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ﴿۶۶﴾ اُفٍّ
لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۷﴾
قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿۶۸﴾
قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿۶۹﴾ وَاَرَادُوْا
بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿۷۰﴾ وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا
اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿۷۱﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ
اِسْحٰقَ ۭ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ۭ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿۷۲﴾

۴۔ ضمیمہ ۱۹
۵۔ ضمیمہ ۱۹
۶۔ ضمیمہ ۳۱
۷۔ یوسف ۱۰ اور الحجر ۷۱
۸۔ الصآفات ۹۸
۹۔ الانبیآء ۸۸
۱۰۔ الانبیآء ۸۱
۱۱۔ الانعام ۸۴ ، مریم ۴۹ اور العنکبوت ۲۷

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ﴿٧٣﴾
وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ
كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿٧٤﴾
وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾ ع وَنُوْحًا اِذْ
نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ
الْعَظِيْمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوٗدَ
وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ
الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ
وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۫ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ
يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ؕ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ
لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ
شٰكِرُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۤ
اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ؕ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ﴿٨١﴾

٥۔ الانبیآء ٨٦
٦۔ الانبیآء ٨٤، ٨٨ اور ٩٠
٧۔ الشعرآء ١٧٠ اور الصآفات ٧٦
٨۔ الصآفات ٧٦ اور ١١٥
٩۔ الصآفات ١١٦
١٠۔ الانبیآء ٧٤
١١۔ الانبیآء ٧٤
١٢۔ سبا ١٢
١٣۔ الانبیآء ٧١

وَمِنَ الشَّيٰطِيۡنِ مَنۡ يَّغُوۡصُوۡنَ لَهٗ وَيَعۡمَلُوۡنَ عَمَلًا
دُوۡنَ ذٰلِكَ‌ۚ وَكُنَّا لَهُمۡ حٰفِظِيۡنَۙ ﴿۸۲﴾ وَاَيُّوۡبَ اِذۡ نَادٰى
رَبَّهٗۤ اَنِّىۡ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنۡتَ اَرۡحَمُ الرّٰحِمِيۡنَ‌ۚ‌ۖ ﴿۸۳﴾
فَاسۡتَجَبۡنَا لَهٗ فَكَشَفۡنَا مَا بِهٖ مِنۡ ضُرٍّ‌ وَّاٰتَيۡنٰهُ اَهۡلَهٗ وَ
مِثۡلَهُمۡ مَّعَهُمۡ رَحۡمَةً مِّنۡ عِنۡدِنَا وَذِكۡرٰى لِلۡعٰبِدِيۡنَ ﴿۸۴﴾
وَاِسۡمٰعِيۡلَ وَاِدۡرِيۡسَ وَذَا الۡكِفۡلِ‌ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيۡنَ‌ۚ‌ۖ ﴿۸۵﴾
وَاَدۡخَلۡنٰهُمۡ فِىۡ رَحۡمَتِنَا‌ ؕ اِنَّهُمۡ مِّنَ الصّٰلِحِيۡنَ ﴿۸۶﴾ وَ
ذَا النُّوۡنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنۡ لَّنۡ نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ
فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنۡتَ سُبۡحٰنَكَ‌ۖ
اِنِّىۡ كُنۡتُ مِنَ الظّٰلِمِيۡنَ‌ۚ‌ۖ ﴿۸۷﴾ فَاسۡتَجَبۡنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيۡنٰهُ
مِنَ الۡغَمِّ‌ؕ وَكَذٰلِكَ نُـنۡجِى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۸۸﴾ وَزَكَرِيَّاۤ
اِذۡ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرۡنِىۡ فَرۡدًا وَّاَنۡتَ خَيۡرُ
الۡوٰرِثِيۡنَ‌ۚ‌ۖ ﴿۸۹﴾ فَاسۡتَجَبۡنَا لَهٗ وَوَهَبۡنَا لَهٗ يَحۡيٰى وَاَصۡلَحۡنَا
لَهٗ زَوۡجَهٗ‌ ؕ اِنَّهُمۡ كَانُوۡا يُسٰرِعُوۡنَ فِى الۡخَيۡرٰتِ وَ
يَدۡعُوۡنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا‌ ؕ وَكَانُوۡا لَنَا خٰشِعِيۡنَ ﴿۹۰﴾

٦۔ الانبیآء ٧٥
٧۔ الانبیآء ٧٦، ٨٤ اور ٩٠
٨۔ الانبیآء ٧١
٩۔ یونس ١٠٣
١٠۔ الانبیآء ٧٦، ٨٤ اور ٨٨

وَالَّتِىٓ اَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِيۡهَا مِنۡ رُّوۡحِنَا وَ
جَعَلۡنٰهَا وَابۡنَهَاۤ اٰيَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۹۱﴾ اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمۡ
اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمۡ فَاعۡبُدُوۡنِ ﴿۹۲﴾ وَتَقَطَّعُوۡۤا اَمۡرَهُمۡ
بَيۡنَهُمۡ ؕ كُلٌّ اِلَيۡنَا رٰجِعُوۡنَ ﴿۹۳﴾ فَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِنَ الصّٰلِحٰتِ
وَهُوَ مُؤۡمِنٌ فَلَا كُفۡرَانَ لِسَعۡيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوۡنَ ﴿۹۴﴾ وَ
حَرٰمٌ عَلٰى قَرۡيَةٍ اَهۡلَكۡنٰهَاۤ اَنَّهُمۡ لَا يَرۡجِعُوۡنَ ﴿۹۵﴾ حَتّٰۤى اِذَا
فُتِحَتۡ يَاۡجُوۡجُ وَمَاۡجُوۡجُ وَهُمۡ مِّنۡ كُلِّ حَدَبٍ يَّنۡسِلُوۡنَ ﴿۹۶﴾
وَاقۡتَرَبَ الۡوَعۡدُ الۡحَقُّ فَاِذَا هِىَ شَاخِصَةٌ اَبۡصَارُ الَّذِيۡنَ
كَفَرُوۡا ؕ يٰوَيۡلَنَا قَدۡ كُنَّا فِىۡ غَفۡلَةٍ مِّنۡ هٰذَا بَلۡ كُنَّا
ظٰلِمِيۡنَ ﴿۹۷﴾ اِنَّكُمۡ وَمَا تَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ
حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنۡتُمۡ لَهَا وٰرِدُوۡنَ ﴿۹۸﴾ لَوۡ كَانَ هٰٓؤُلَاۤءِ
اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوۡهَا ؕ وَكُلٌّ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۹۹﴾ لَهُمۡ فِيۡهَا
زَفِيۡرٌ وَّهُمۡ فِيۡهَا لَا يَسۡمَعُوۡنَ ﴿۱۰۰﴾ اِنَّ الَّذِيۡنَ سَبَقَتۡ
لَهُمۡ مِّنَّا الۡحُسۡنٰٓى ۙ اُولٰٓئِكَ عَنۡهَا مُبۡعَدُوۡنَ ﴿۱۰۱﴾ لَا يَسۡمَعُوۡنَ
حَسِيۡسَهَا ۚ وَهُمۡ فِىۡ مَا اشۡتَهَتۡ اَنۡفُسُهُمۡ خٰلِدُوۡنَ ﴿۱۰۲﴾

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِیْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾ يَوْمَ نَطْوِی السَّمَآءَ كَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ؕ كَمَا بَدَاْنَاۤ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿۱۰۴﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِی الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِیَ الصّٰلِحُوْنَ ﴿۱۰۵﴾ اِنَّ فِیْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ﴿۱۰۶﴾ ؕ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾ قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰۤی اِلَیَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۸﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰی سَوَآءٍ ؕ وَاِنْ اَدْرِیْۤ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ﴿۱۰۹﴾ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ﴿۱۱۰﴾ وَاِنْ اَدْرِیْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰی حِيْنٍ ﴿۱۱۱﴾ قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

النصف ۷ ع ۱۹ ۷

سُوْرَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ وَهِیَ ثَمَانٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّعَشْرُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِيْمٌ ﴿۱﴾

۳۔ النحل ۲۲، الکھف ۱۱۰ اور حم السحدۃ ٦ جبکہ «وَاِلٰھُکم» البقرۃ ۱۶۳ میں اور «فَاِلٰھُکم» الحج ۳٤ میں استعمال ہوا ہے۔
٤۔ ہود ۱٤
٥۔ الانبیآء ۱۱۱ اور الجن ۲۵
٦۔ الاعلیٰ ۷
۷۔ الانبیآء ۱۰۹ اور الجن ۲۵
۸۔ البقرۃ ۳٦ اور الاعراف ۲٤
۹۔ یوسف ۱۸
۱۰۔ النسآء ۱ اور لقمان ۳۳ نیز ضمیمہ ۱٦

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى
وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۝٢ وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ
شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ۝٣ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ
وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝٤ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ
فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۗ وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى
اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ
لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۭ وَتَرَى الْاَرْضَ
هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝٥ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ
الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝٦

۴۔ المؤمن ۶۷
۵۔ النحل ۷۰
۶۔ حم السجدة ۳۹
۷۔ الحج ۶۲ اور لقمان ۳۰
۸۔ صرف یہیں نیز حم السجدة ۳۹ اور الاحقاف ۳۳

وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى
الْقُبُوْرِ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا
هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۞ ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ۗ لَهٗ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ
الْحَرِيْقِ ۞ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيْدِ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ
اَصَابَهٗ خَيْرُ ِۨاطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ِۨانْقَلَبَ عَلٰى
وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۞
يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ۗ ذٰلِكَ هُوَ
الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۞ يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ۗ
لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ۞ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۞ مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ
يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى
السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ۞

۳۔ لقمان ۲۰
٤۔ لقمان ٦
۵۔ آل عمران ۱۸۱ ، الانفال ۵۰ اور الحج ۲۲ جبکہ البروج ۱۰ میں (بُ) پر پیش ھے۔
٦۔ آل عمران ۱۸۲ اور الانفال ۵۱
۷۔ ضمیمہ ۱۱٤
۸۔ الزمر ۱۵
۹۔ ضمیمہ ۱۹
۱۰۔ ابراھیم ۱۸
۱۱۔ الحج ۲۳ اور محمد ۱۲
۱۲۔ ضمیمہ ۲۱
۱۳۔ ضمیمہ ۷۰

۱۔ صرف یہیں نیز الرعد ۳۷ اور طه ۱۱۳ ۲۔ صرف یہیں نیز البقرة ٦٢ اور المآئدة ٦٩
۳۔ المآئدة ۸۲ نیز البقرة ۹٦ اور آل عمران ۱۸٦ ٤۔ صرف یہیں نیز السجدة ۲۵ اور الممتحنة ۳

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿۱٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٕيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿۱۷﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَاۗبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ۭ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۭ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاۗءُ ﴿۱۸﴾ۧ السجدة هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۡ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ۭ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿۱۹﴾ۚ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ﴿۲۰﴾ۭ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ﴿۲۱﴾ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۤ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿۲۲﴾ۧ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۭ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿۲۳﴾

ع ۲/۹

۵۔ صرف یہیں نیز المآئدة ۱۱۷، سبا ٤۷، حم السجدة ۵۳، المجادلة ٦ اور البروج ۹
٦۔ ضمیمه ۸۰ اور ۱۹۵
۷۔ یونس ٦٦، النمل ۸۷ اور الزمر ٦۸ نیز ضمیمه ۸٦
۸۔ صرف یہیں نیز الاعراف ۵٤، النحل ۱۲ اور ضمیمه ۱۸۹
۹۔ صرف یہیں نیز الحج ۱٤، آل عمران ٤۰ اور ابراهيم ۲۷
۱۰۔ الطور ٤۲ نیز ضمیمه ۷
۱۱۔ صرف یہیں نیز السجدة ۲۰

۱۲۔ الانفال ۵۰ جبکه (و) کے بغیر آل عمران ۱۸۱ میں نیز الحج ۹ اور البروج ۱۰ ۱۳۔ الحج ۱٤
اور محمد ۱۲ نیز ضمیمه ۲۱ ۱٤۔ فاطر ۳۳ نیز «من ذهبٍ وّیلبسون» کیساتھ الکهف ۳۱ میں هے.

٣۔ توجہ سے پڑھیے۔
٤۔ یونس ٩٣
٥۔ البقرة ١٢٥
٦۔ الحج ٣٤
٧۔ الحج ٣٦
٨۔ الحج ٣٣
٩۔ الحج ٣٢

وَهُدُوٓا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَاطِ
الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً الْعَاكِفُ
فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ
عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا
تُشْرِكْ بِي شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَالْقَآئِمِينَ وَ
الرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوا
مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ
عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾
ذَٰلِكَ ۖ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ
وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

ع ٣

صفحہ نمبر ۳۳۷ ۱۔ الحج ۳۰ ۲۔ المؤمنون ۲۱ اور المؤمن ۸۰ ۳۔ الحج ۲۹ ٤۔ الحج ٦٧

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ۭ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا
خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ
مَكَانٍ سَحِيْقٍ ﴿٣١﴾ ذٰلِكَ ۤ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَاۗىِٕرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ
تَقْوَى الْقُلُوْبِ ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰي مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۭ
فَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ۭ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿٣٤﴾
الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰي
مَآ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٥﴾
وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَاۗىِٕرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ڰ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَاۗفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا
فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۭ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا
لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٣٦﴾ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا
دِمَاۗؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰي مِنْكُمْ ۭ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا
لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰي مَا هَدٰىكُمْ ۭ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٧﴾

ع ۸ / ۱۱

٥۔ الحج ۲۸
٦۔ «فالٰهكم» كيساته صرف يهيں اور «والٰهكم» كيساته البقرة ۱٦۳ ميں نيز «الٰهكم» كيساته النحل ۲۲، الكهف ۱۱۰، الانبيآء ۱۰۸ اور حم السجدة ٦ ميں هے۔
۷۔ الانفال ۲
۸۔ ضميمه ٥
۹۔ الحج ۲۸
۱۰۔ الحج ۳۷
۱۱۔ ضميمه ۳۲
۱۲۔ الحج ۳٦
۱۳۔ البقرة ۱۸٥

صفحہ نمبر ۳۳۸ ۱۔ لقمان ۱۸ ۲۔ الحشر ۸ ۳۔ البقرۃ ۲۵۱ ٤۔ (ہٗ) پر پیش ھے۔ توجہ سے پڑھیے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ

كَفُورٍ ﴿٣٨﴾ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ

عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ

إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم

بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ

فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ

عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا

الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ

الْأُمُورِ ﴿٤١﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ

وَثَمُودُ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ

مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا

وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ

لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا

تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

ع ۵ ۱۲

٥۔ الحج ٧٤ جبکہ الحدید ۲۵ اور المجادلۃ ۲۱ میں «قَوِی» استعمال ہوا ھے۔
٦۔ البقرۃ ۲۷۷، التوبۃ ٥ اور ۱۱ نیز ضمیمہ ۳۰
۷۔ لقمان ۲۲
۸۔ فاطر ٤ اور ۲۵
۹۔ ص ۱۲ جبکہ «وَأَصحابُ الرّس» ق ۱۲ میں ھے۔
۱۰۔ التوبۃ ۷۰
۱۱۔ الرعد ۳۲
۱۲۔ سبا ٤٥، فاطر ۲٦ اور الملک ۱۸ نیز ضمیمہ ۱۹۱
۱۳۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۱۲
١٤۔ البقرۃ ۲۵۹ اور الکہف ٤۲

۱۵۔ یوسف ۱۰۹، المؤمن ۸۲ اور محمد ۱۰

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ۭ وَاِنَّ يَوْمًا
عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٤٧﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ
اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿٤٨﴾ قُلْ
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا
فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ
فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ
اٰيٰتِهٖ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ
فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۭ وَ
اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ
قُلُوْبُهُمْ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٤﴾
وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ
السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ﴿٥٥﴾

ع ٦ ١٠ ١٣

٥۔ الاعراف ١٥٨ ، یونس ١٠٤ اور ١٠٨ نیز ضمیمه ١٦
٦۔ الحج ٥٦
٧۔ الانفال ٧٤ ، النور ٢٦ اور سبا ٤ جبکه الانفال ٤ میں «دَرجٰت عِندَ رَبِّهم» زائد هے۔
٨۔ سبا ٥ اور ٣٨
٩۔ المآئدة ١٠ و ٨٦ اور الحدید ١٩
١٠۔ الانبیآء ٢٥ نیز یوسف ١٠٩ اور النحل ٤٣ جبکه الانبیآء ٧ اور الفرقان ٢٠ میں «قبلکَ» استعمال هوا هے۔
١١۔ الحج ٥٣ خیال رهے که اس آیت میں «شَیطٰنُ» دو بار استعمال هوا هے۔ ١٢۔ ضمیمه ١١٩ ١٣۔ الحج ٥٢
١٤۔ ضمیمه ٩ ١٥۔ البقرة ١٧٦ اور حم السجدة ٥٢ ١٦۔ ضمیمه ٥٦ ١٧۔ الرعد ٣١

نیز ضمیمہ ٤٢، ٩٢ اور ٢١٠ ٤۔ الصآفات ٤٣ ٥۔ ضمیمہ ٢٥ اور ٢٦ ٦۔ صرف یہیں نیز لقمان ٦
و الجاثیة ٩، البقرة ٩٠ و المجادلة ٥، آل عمران ١٧٨، النسآء ١٤، المجادلة ١٦، سبا ١٤ اور الدخان ٣٠

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۭ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۭ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ
هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ
اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٥٨﴾
لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ
حَلِيْمٌ ﴿٥٩﴾ ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ
ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾
ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ
فِي الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٦١﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ
الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ
اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٦٢﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً ۡ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ۭ اِنَّ
اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿٦٣﴾ ۚ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْاَرْضِ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٦٤﴾

٧۔ البقرة ٢١٨ و النحل ٤١ نیز آل عمران ١٩٥ اور الانفال ٧٢ و ٧٤
٨۔ هود ٨٨ اور النحل ٧٥ نیز النحل ٦٧
٩۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ١٣٢
١٠۔ صرف یہیں نیز النسآء ١٢ و ضمیمہ ١١٩
١١۔ صرف یہیں نیز النحل ١٢٦
١٢۔ صرف یہیں نیز الحج ٤٠
١٣۔ صرف یہیں نیز المجادلة ٢، النسآء ٤٣ اور ٩٩
١٤۔ صرف یہیں نیز الحج ٦ و ٦٢ اور لقمان ٣٠
١٥۔ لقمان ٢٩، فاطر ١٣ اور الحدید ٦ نیز آل عمران ٢٧

١٦۔ صرف یہیں نیز الحج ٧٥، لقمان ٢٨ اور المجادلة ١ منزل ٤
١٧۔ الحج ٦ اور لقمان ٣٠ نیز الحج ٦١ ١٨۔ صرف یہیں نیز لقمان ٣٠ و سبا ٢٣ اور المؤمن ١٢
١٩۔ فاطر ٢٧ اور الزمر ٢١ نیز ضمیمہ ١٨ و ١٩٥ ٢٠۔ لقمان ١٦ نیز ضمیمہ ٧٩ ٢١۔ ضمیمہ ٨٥
٢٢۔ صرف یہیں نیز لقمان ٢٦، فاطر ١٥، الحدید ٢٤ و الممتحنة ٦ اور البقرة ٢٦٧

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ
فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۭ وَيُمْسِكُ السَّمَاۗءَ اَنْ تَقَعَ عَلَي الْاَرْضِ
اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَهُوَ الَّذِيْٓ
اَحْيَاكُمْ ۡ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۭ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ۞
لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي
الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ۭ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ۞ وَاِنْ
جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞ اَللّٰهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۞ اَلَمْ تَعْلَمْ
اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ ۭ
اِنَّ ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۞ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا
لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ
مِنْ نَّصِيْرٍ ۞ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ
وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۭ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ
يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۭ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۭ
اَلنَّارُ ۭ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۞

۵۔ الحج ۳۴
۶۔ آل عمران ۵۵
۷۔ البقرۃ ۱۰۷ اور المائدۃ ۴۰
۸۔ العنکبوت ۱۹، فاطر ۱۱ اور الحدید ۲۲ جبکہ «وَذٰلِكَ» کیساتھ صرف التغابن ۷ میں ہے۔
۹۔ النحل ۷۳ نیز ضمیمہ ۱۹
۱۰۔ آل عمرن ۱۵۱، الانعام ۸۱ اور الاعراف ۳۳
۱۱۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۶۶ اور النور ۱۵
۱۲۔ فاطر ۳۷ نیز البقرۃ ۲۷۰، آل عمران ۱۹۲ اور المائدۃ ۷۲

۱۳۔ ضمیمہ ۱۷۳ ۱٤۔ صرف یہیں ۱۵۔ ضمیمہ ۵۲

يَآيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٦﴾ يَآيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

السجدۃ عند الشافعی و احمد بن حنبل

ع ۱۰ / ۱۷

۴۔ الحج ۴۰ جبکہ «قوی» الحدید ۲۵ اور المجادلۃ ۲۱ میں استعمال ہوا ہے۔
۵۔ لقمان ۲۸ اور المجادلۃ ۱
۶۔ ضمیمہ ۸۷
۷۔ ضمیمہ ۶۹
۸۔ ضمیمہ ۴۷
۹۔ ضمیمہ ۶۵
۱۰۔ المجادلۃ ۱۳ نیز ضمیمہ ۳۰
۱۱۔ الانفال ۴۰

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَثَمَانَ عَشْرَةَ آيَةً وَسِتُّ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝۱ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝۲ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝۳ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝۴ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝۵ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝۶ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝۷ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝۸ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝۹ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝۱۰ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝۱۱ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝۱۲ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝۱۳ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝۱۴ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۝۱۵ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۝۱۶ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ۝۱۷

٤۔ المعارج ۲۹
٥۔ المعارج ۳۰ نیز ضمیمہ ۱۱۷
٦۔ المعارج ۳۱
۷۔ المعارج ۳۲
۸۔ الانعام ۹۲ اور المعارج ۳٤
۹۔ ضمیمہ ۲۸
۱۰۔ الحجر ۲٦ اور ق ۱٦
۱۱۔ السجدۃ ۸
۱۲۔ المومن ٦٤
۱۳۔ الصافات ۱۲۵
۱٤۔ الزمر ۳۱

۱۔ الزخرف ۱۱ نیز ضمیمہ ۱۸ ۲۔ الزخرف ۷۳ ۳۔ المؤمنون ۲۱ اور الزخرف ۷۳

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِی الْاَرْضِ ۖۗ وَ اِنَّا عَلٰی ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ۟ۚ﴿۱۸﴾ فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِیْلٍ وَّ اَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِیْهَا فَوَاكِهُ كَثِیْرَةٌ وَّ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۟ۙ﴿۱۹﴾ وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَیْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِّلْاٰكِلِیْنَ ﴿۲۰﴾ وَ اِنَّ لَكُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِیْكُمْ مِّمَّا فِیْ بُطُوْنِهَا وَ لَكُمْ فِیْهَا مَنَافِعُ كَثِیْرَةٌ وَّ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۟ۙ﴿۲۱﴾ وَ عَلَیْهَا وَ عَلَی الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿۲۲﴾ وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰی قَوْمِهٖ فَقَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۲۳﴾ فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ یُرِیْدُ اَنْ یَّتَفَضَّلَ عَلَیْكُمْ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓىِٕكَةً ۖۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِیْۤ اٰبَآىِٕنَا الْاَوَّلِیْنَ ﴿۲۴﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰی حِیْنٍ ﴿۲۵﴾ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِیْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ﴿۲۶﴾ فَاَوْحَیْنَاۤ اِلَیْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْیُنِنَا وَ وَحْیِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَ فَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِیْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَ اَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَ لَا تُخَاطِبْنِیْ فِی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿۲۷﴾

٤۔ النحل ٦٦
٥۔ الحج ۳۳ اور المؤمن ۸۰
٦۔ المؤمنون ۱۹ اور الزخرف ۷۳
۷۔ المؤمن ۸۰
۸۔ هود ۲٥، العنکبوت ۱٤ اور نوح ۱ نیز الحدید ۲٦
۹۔ الاعراف ٥۹ اور العنکبوت ۳٦
۱۰۔ ضمیمہ ۱٦۳
۱۱۔ ضمیمہ ۱٦٥
۱۲۔ الاعراف ٦٦ و ۹۰ اور هود ۲۷
۱۳۔ ابراهیم ۱۱، الانبیاء ۳ اور المؤمنون ۳۳

۱٤۔ ضمیمہ ۱٤ ۱٥۔ حم السجدة ۱٤ ۱٦۔ القصص ۳٦ ۱۷۔ المؤمنون ۳۸
۱۸۔ ضمیمہ ۱۸۷ ۱۹۔ المؤمنون ۳۹ اور العنکبوت ۳۰ ۲۰۔ هود ٤۰ ۲۱۔ هود ۳۷

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ ﴿۲۸﴾ وَقُلْ رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا
وَّأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿۲۹﴾ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿۳۰﴾
ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِينَ ﴿۳۱﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۲﴾ وَقَالَ
الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ وَأَتْرَفْنٰهُمْ
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ
وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا
لَّخٰسِرُونَ ﴿۳۴﴾ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا أَنَّكُمْ
مُّخْرَجُونَ ﴿۳۵﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿۳۶﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا
حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۳۷﴾ إِنْ هُوَ
إِلَّا رَجُلٌ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۳۸﴾ قَالَ
رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿۳۹﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِينَ ﴿۴۰﴾
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ
الظّٰلِمِينَ ﴿۴۱﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اٰخَرِينَ ﴿۴۲﴾

ع ۲

٤۔ ضمیمہ ۱٦۳
٥۔ ضمیمہ ۱٦٥
٦۔ خیال رہے یہاں «مِن قومه» زائد ہے۔
۷۔ ابراهیم ۱۱، الانبیاء ۳ اور المؤمنون ۲٤
۸۔ صرف یہیں نیز المؤمنون ۸۲، الصآفات ۱٦ و ٥۳ اور الواقعة ٤۷
۹۔ الانعام ۲۹ اور الجاثیة ۲٤
۱۰۔ المؤمنون ۲٥
۱۱۔ المؤمنون ۲٦ اور العنکبوت ۳۰
۱۲۔ هود ٤٤
۱۳۔ الانعام ٦ اور المؤمنون ۳۱

۱۔ الحجر ۵ ۲۔ صرف یہیں نیز الحدید ۲۵ ۳۔ صرف یہیں نیز سبا ۱۹ ۴۔ صرف یہیں نیز ہود ۴۴ اور المؤمنون ۴۱ ۵۔ صرف یہیں نیز ہود ۹۶، ابراھیم ۵، المؤمن ۲۳ اور الزخرف ۴۶
۶۔ الاعراف ۱۰۳، یونس ۷۵، ہود ۹۷، القصص ۳۲ اور الزخرف ۴۶ نیز النمل ۱۲، المؤمن ۲۴ اور الذاریات ۳۸

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ اَرْسَلْنَا
رُسُلَنَا تَتْرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ
بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ
اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٥﴾
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوْٓا
اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوْهُمَا
فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ
يَهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗٓ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى
رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ﴿٥٠﴾ ع يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ
وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٥١﴾ وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ
اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ
زُبُرًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى
حِيْنٍ ﴿٥٤﴾ اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ
لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ ؕ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ
رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٨﴾

ع ۳ ۱۸ ۳

۷۔ صرف یہیں نیز الاعراف ۱۳۳، یونس ۷۵ اور الجاثیة ۳۱
۸۔ صرف یہیں جبکہ «لعلھم یھتدون» الانبیاء ۳۱ اور السجدة ۳ میں نیز ضمیمہ ۴۴ اور ۳۳
۹۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۷۶
۱۰۔ صرف یہیں نیز البقرة ۵۷ و ۱۷۲، الاعراف ۱۶۰ اور طٰہ ۸۱
۱۱۔ صرف یہیں نیز سبا ۱۱
۱۲۔ صرف یہیں نیز الانبیاء ۹۲
۱۳۔ (ف) کیساتھ صرف یہیں جبکہ (و) کیساتھ الانبیاء ۹۳ میں نیز طٰہ ۶۲

۱۴۔ الروم ۳۲ ۱۵۔ ضمیمہ ۱۸۷ ۱۶۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۶۹
۱۷۔ صرف یہیں نیز الانبیاء ۲۸ ۱۸۔ صرف یہیں نیز الانعام ۱۵۴ اور المؤمنون ۵۹

۱۔ المؤمنون ۵۸ ۲۔ کھڑے زبر کو واضح پڑھیے۔ ۳۔ البقرة ۲۳۳ و ۲۸۶، الانعام ۱۵۲، الاعراف ۴۲ اور الطلاق ۷ ۴۔ المؤمنون ۱۰۵ اور الجاثیة ۳۱ ۵۔ آل عمران ۱۴۴ اور ۱۴۹ ۶۔ الزخرف ۷۸ ۷۔ الاسرآء ۴۴ ۸۔ المؤمنون ۹۰ ۹۔ الطور ۴۰ اور القلم ۴۶ ۱۰۔ ضمیمہ ۱۳۲ ۱۱۔ ضمیمہ ۵۶

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ۝٥٩ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّ
قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ۝٦٠ اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى
الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ۝٦١ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا
كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝٦٢ بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِىْ غَمْرَةٍ
مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ۝٦٣ حَتّٰٓى
اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْئَرُوْنَ ۝٦٤ لَا تَجْئَرُوا
الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ۝٦٥ قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ
عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ۝٦٦ مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ۝٦٧
اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٦٨
اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۝٦٩ اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ط
بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ۝٧٠ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ
لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ
فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝٧١ اَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ
وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝٧٢ وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٧٣
وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ۝٧٤

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِیْ طُغْیَانِهِمْ
یَعْمَهُوْنَ ﴿۷۵﴾ وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ
وَمَا یَتَضَرَّعُوْنَ ﴿۷۶﴾ حَتّٰۤى اِذَا فَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِیْدٍ
اِذَا هُمْ فِیْهِ مُبْلِسُوْنَ ﴿۷۷﴾ وَهُوَ الَّذِیْۤ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
وَالْاَفْـِٕدَةَ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿۷۸﴾ وَهُوَ الَّذِیْ ذَرَاَكُمْ فِی
الْاَرْضِ وَاِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۷۹﴾ وَهُوَ الَّذِیْ یُحْیٖ وَیُمِیْتُ
وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۸۰﴾ بَلْ قَالُوْا
مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ﴿۸۱﴾ قَالُوْۤا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ
عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿۸۲﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا
مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ﴿۸۳﴾ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ
وَمَنْ فِیْهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۸٤﴾ سَیَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا
تَذَكَّرُوْنَ ﴿۸۵﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِیْمِ ﴿۸۶﴾ سَیَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۸۷﴾ قُلْ مَنْ
بِیَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَیْءٍ وَّهُوَ یُجِیْرُ وَلَا یُجَارُ عَلَیْهِ اِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۸﴾ سَیَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ﴿۸۹﴾

ع ٤ ۲۷

۵۔ الاعراف ۱۰ ، السجدة ۹ اور الملك ۲۳
٦۔ الملك ۲٤
۷۔ ضمیمہ ۸۹
۸۔ ضمیمہ ۳۱
۹۔ الصآفات ۱٦ و ۵۳ اور الواقعة ٤۷ جبکہ «ترابا وّ عظاما» المؤمنون ۳۵ میں ہے۔
۱۰۔ النمل ٦۸
۱۱۔ ضمیمہ ۱٤۱
۱۲۔ ضمیمہ ٦۲
۱۳۔ المؤمنون ۸۷ اور ۸۹
۱٤۔ ضمیمہ ۱۸۰
۱۵۔ التوبة ۱۲۹ اور النمل ۲٦ جبکہ «الكريم» المؤمنون ۱۱٦ میں استعمال ہوا ہے۔

۱٦۔ المؤمنون ۸۵ اور ۸۹ ۱۷۔ ضمیمہ ۱٦۵ ۱۸۔ یس ۸۳ ۱۹۔ ضمیمہ ٦۲
۲۰۔ المؤمنون ۸۵ اور ۸۷

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۹۰﴾ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۹۱﴾ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۹۲﴾ قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿۹۳﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۹۴﴾ وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿۹۵﴾ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۭ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿۹۶﴾ وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿۹۷﴾ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ﴿۹۸﴾ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ﴿۹۹﴾ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۭ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاۗىِٕلُهَا ۭ وَمِنْ وَّرَاۗىِٕهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿۱۰۰﴾ فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَىِٕذٍ وَّلَا يَتَسَاۗءَلُوْنَ ﴿۱۰۱﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۲﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

۵۔ صرف یہیں نیز الاعراف ۱۹۰
۶۔ حم السجدۃ ۳٤
۷۔ الانعام ۶۱
ع ۵ ۱۵ ۵
۸۔ الحاقۃ ۱۳
۹۔ القصص ۶۶
۱۰۔ الاعرف ۸
۱۱۔ الاعراف ۸، الحشر ۹ اور التغابن ۱۶
۱۲۔ الاعراف ۹ نیز ضمیمہ ۲۳۰
۱۳۔ الزخرف ۷٤

اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿۱۰۵﴾ قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ﴿۱۰۶﴾ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ﴿۱۰۷﴾ قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ﴿۱۰۸﴾ اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِىْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۱۰۹﴾ فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِىْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ﴿۱۱۰﴾ اِنِّىْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿۱۱۱﴾ قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ﴿۱۱۲﴾ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ﴿۱۱۳﴾ قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۱۴﴾ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۱۵﴾ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿۱۱۶﴾ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۱۱۷﴾ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۱۱۸﴾

۴۔ البقرة ۲۵۹ اور الکہف ۱۹
۵۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۸۲
٦۔ طٰہٰ ۱۱۴
۷۔ ضمیمہ ۵۹
۸۔ التوبة ۱۲۹، المؤمنون ۸٦ اور النمل ۲٦
۹۔ ضمیمہ ۱۹۷
۱۰۔ القصص ۸۲
۱۱۔ المؤمنون ۱۰۹

سُوْرَةُ النُّوْرِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اَرْبَعٌ وَّسِتُّوْنَ اٰيَةً وَّتِسْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَاۤ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ① اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ② اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَاۤ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ③ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ④ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑤ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّاۤ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ⑥ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ⑦

«يُؤْمِنُوْنَ» استعمال ہوا ہے نیز ضمیمہ ۳۷

۳۔ النور ٦ اور ۲۳

٤۔ النور ۱۳

۵۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۸۲ ، المآئدة ٤۷ اور النور ۵۵

٦۔ ضمیمہ ۵۷

۷۔ آل عمران ۸۹

۸۔ ضمیمہ ٦٦

۹۔ النور ٤

۱۰۔ خیال سے پڑھیے (سُ) پر پیش ہے۔

۱۱۔ النور ۸ نیز یوسف ۵۱

۱۲۔ النور ۹ «خَامِسَةُ» کا خیال رکھیے (ةُ) پر پیش ہے۔

۱۔ النور ٦ ۲۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱٦٦ ۳۔ ضمیمہ ۱۲۳ ٤۔ اگلی آیت (۱۳) بھی اسی لفظ سے شروع ہو رہی ہے۔ ۵۔ النور ۱٦ ٦۔ الاحقاف ۱۱ ۷۔ پچھلی آیت (۱۲) بھی اسی لفظ سے شروع ہو رہی ہے۔

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۢ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ
لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۸﴾ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ
مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۹﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ
تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۰﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۭ لَا
تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ۭ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۭ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ
مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۱﴾ لَوْلَآ
اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا
هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۲﴾ لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا
بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿۱۳﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ
عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱٤﴾ اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا
لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿۱۵﴾ وَ
لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ
هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿۱٦﴾ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷﴾ وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۸﴾

ع ۱۰

۸۔ النور ٤
۹۔ ضمیمہ ۱۲۳ جبکہ اگلی آیت (۱٦) کی ابتدا بھی «وَلولا» سے ہو رہی ہے۔
۱۰۔ ضمیمہ ۷۰
۱۱۔ الانفال ٦۸
۱۲۔ آل عمران ٦٦ نیز الحج ۷۱
۱۳۔ اوپر ایک آیت (۱٤) بھی «وَلولا» سے شروع ہو رہی ہے۔
۱٤۔ النور ۱۲
۱۵۔ ضمیمہ ٤۵
۱٦۔ (و) کے کیساتھ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۷۲
۱۷۔ ضمیمہ ۱۱۹

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

ع ۲ ۱۰ ۸ — ع ۳ ۹ ۹

٤۔ ضمیمہ ۱۲۳
٥۔ التوبۃ ۱۱۷ و ۱۲۸ اور الحشر ۱۰
٦۔ ضمیمہ ٤۷
۷۔ البقرۃ ۱٦۸ و ۲۰۸ اور الانعام ۱٤۲ نیز «خطوتِ الشیطٰنِ» اس آیت میں یہاں پہلی بار۔
۸۔ اس آیت میں یہاں مکرر۔
۹۔ ضمیمہ ۱۲۳
۱۰۔ ضمیمہ ۷٥
۱۱۔ النسآء ۸
۱۲۔ ضمیمہ ۷۱
۱۳۔ النور ٤
۱٤۔ ضمیمہ ۷۰
۱٥۔ ضمیمہ ۸
۱٦۔ ضمیمہ ۱٥۲

۱۷۔ الانفال ۷٤، الحج ٥۰ اور سبا ٤ جبکہ الانفال ٤ میں «دَرَجٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ» زائد ھے۔

صفحہ نمبر ۳۵٤ ١۔ ضمیمہ ٤٧ ٢۔ النور ٢٩ اور الاحزاب ٥٣ ٣۔ ضمیمہ ١٥٧ ٤۔ البقرة ٢٨٣

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا
وَتُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا
فِيْهَاۤ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا
فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ
وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا
فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ
لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا
يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ
اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ
بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ
اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى
عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ
زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

٥۔ البقرة ١٩٨ اورالنور ٦١ جبکہ «وَلَيْسَ» الاحزاب ٥ میں اور «لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ» النور ٥٨ میں استعمال ہوا ہے۔
٦۔ النور ٢٧
٧۔ البقرة ٣٣ اور المآئدة ٩٩
٨۔ النور ٣١
٩۔ فاطر ٨
١٠۔ النور ٣٠
١١۔ اور ١٢۔ ایک ہی آیت میں دو بار۔
١٣۔ الاحزاب ٥٥ نیز ضمیمہ ١١٧
١٤۔ ضمیمہ ٦٥

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ۭ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۗءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۳۲﴾ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ڰ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ۭ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۗءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۳٤﴾ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ۭ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ۭ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْۗءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۭ نُوْرٌ عَلٰي نُوْرٍ ۭ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۳۵﴾ۙ فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿۳٦﴾ۙ

ع ٤ ٨ ١٠

٦۔ البقرة ٦٦ اور المآئدة ٤٦ جبکہ آل عمران ١٣٨ میں «مَوعِظَةٌ» کی (ة) پر دو پیش ہیں خیال سے پڑھیے۔
٧۔ ابراهيم ٢٥
٨۔ ضميمه ٩٤

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ
إِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾
لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ
مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ
بِقِيعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً حَتّٰى إِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّ
وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ
كَظُلُمٰتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ
سَحَابٌ ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ
يَرٰىهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُورًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّورٍ ﴿٤٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ
اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ كُلٌّ
قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيحَهٗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلّٰهِ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ
يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ وَيُنَزِّلُ
مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَ
يَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

ع ٦ / ٥ / ١١

۳۔ البقرة ۲۱۲ اور آل عمران ۳۷
٤۔ ضمیمه ۲۵
۵۔ خیال سے پڑھیے یہاں (لُ) پر پیش ھے.
٦۔ البقرة ۲۰۲
۷۔ ھر لفظ دو بار ھے خیال سے پڑھیے.
۸۔ ضمیمه ۸۰ اور ۱۹۵
۹۔ ضمیمه ۱۰٦
۱۰۔ یونس ۳٦ جبکه «یَعمَلُونَ» یوسف ۱۹ میں ھے.
۱۱۔ ضمیمه ۱۱۵
۱۲۔ آل عمران ۲۸ اور فاطر ۱۸
۱۳۔ ضمیمه ۸۰ اور ۱۹۵
۱٤۔ الروم ٤۸
۱۵۔ الرعد ۱۳

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ۝۴۴

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَاۗبَّةٍ مِّنْ مَّاۗءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰي بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰي رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓي اَرْبَعٍ ۭ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۴۵

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ۭ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ اِلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝۴۶

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۭ وَمَآ اُولٰۗىِٕكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝۴۷

وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝۴۸

وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ۝۴۹

اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ۭ بَلْ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝۵۰ ع ۶

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝۵۱

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ ۝۵۲

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَىِٕنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۭ قُلْ لَّا تُقْسِمُوْا ۚ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝۵۳

۴۔ النور ۳۴
۵۔ البقرۃ ۱۴۲ و ۲۱۳ اور یونس ۲۵ نیز ضمیمہ ۵۶
۶۔ آل عمران ۲۳ اور النور ۴۸
۷۔ المآئدۃ ۴۳
۸۔ النور ۵۱
۹۔ آل عمران ۲۳ جبکہ «فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ» پچھلی آیت (۴۷) میں بھی شامل ھے.
۱۰۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۹
۱۱۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۷۷
۱۲۔ النور ۴۸
۱۳۔ البقرۃ ۲۸۵ اور المآئدۃ ۷ نیز البقرۃ ۹۳ اور النسآء ۴۶
۱۴۔ ضمیمہ ۶
۱۵۔ النسآء ۱۳، الاحزاب ۷۱ اور الفتح ۱۷

۱۶۔ التوبۃ ۲۰ ۱۷۔ الانعام ۱۰۹، النحل ۳۸ اور فاطر ۴۲ جبکہ «اَقْسَمُوْا» المآئدۃ ۵۳ میں آیا ھے.
۱۸۔ المآئدۃ ۸ اور الحشر ۱۸

۱۔ «قُلْ» کیساتھ صرف یہیں جبکہ (و) کیساتھ المآئدۃ ۹۲ اور التغابن ۱۲ میں خیال رہے کہ النسآء ۵۹ اور محمد ۳۳ میں اس قسم کا اضافہ نہیں ہے۔

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ
مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۗ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۗ وَمَا عَلَى
الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۵۴﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۵۵﴾ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۵۶﴾ لَا تَحْسَبَنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَلَبِئْسَ
الْمَصِيْرُ ﴿۵۷﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ
قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ
وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ۫ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ
لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى
بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۸﴾

ع ۷ / ۷ / ۱۳

۲۔ یٰس ۱۷
۳۔ صرف یہیں نیز المآئدۃ ۹ اور الفتح ۲۹
۴۔ آل عمران ۸۲ اور المآئدۃ ۴۷
۵۔ ضمیمہ ۳۰
۶۔ ضمیمہ ۱۱۱
۷۔ آل عمران ۱۵۱ نیز المآئدۃ ۷۲
۸۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۵۲
۹۔ ضمیمہ ۴۷
۱۰۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۱۷
۱۱۔ البقرۃ ۱۹۸ ،النور ۲۹ اور ۶۱ جبکہ «وَلَيْسَ» الاحزاب ۵ میں استعمال ہوا ہے۔

۱۲۔ «بَعْضُكُمْ» کیساتھ صرف یہیں نیز النسآء ۳۲ اور النحل ۷۱
۱۳۔ النور ۵۹ اور ۶۱ نیز ضمیمہ ۷۲
۱۴۔ ضمیمہ ۱۱۹

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا
اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ
اٰيٰتِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۹﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ
لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۭ بِزِيْنَةٍ ؕ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ
خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۶۰﴾ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى
حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ
وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ
بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ
بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ
اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ
مَّفَاتِحَهٗۤ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ
تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا
فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً
طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۱﴾

ع ۸ ۱۴

صرف یہیں جبکہ «علیکم» کیساتھ البقرۃ ۲۸۲ اور النسآء ۱۰۱ میں ہے۔
۴۔ ضمیمہ ۷۵
۵۔ الفتح ۱۷
۶۔ البقرۃ ۱۹۸ اور النور ۲۹ جبکہ «وَلیسَ» الاحزاب ۵ میں اور «لیسَ علیکم وَلا عَلیھم جُناح» النور ۵۸ میں ہے۔
۷۔ البقرۃ ۲۴۲ ، النور ۵۸ اور ۵۹ نیز ضمیمہ ۷۲
۸۔ ضمیمہ ۴۰

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

ع ۹ ۱۵

سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَسِتُّ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

۳۔ ضمیمہ ۶۱
۴۔ الاحزاب ۱۸
۵۔ یونس ۵۵ نیز ضمیمہ ۱۲۷ اور ۵۱
۶۔ صرف یہیں۔
۷۔ ضمیمہ ۹۴
۸۔ الفرقان ۱۰ و ۶۱ اور الملک ۱
۹۔ ضمیمہ ۴۹
۱۰۔ الاسراء ۱۱۱ نیز «ولم یکن لہ» الاسراء ۱۱۱ اور الاخلاص ۴ میں ھے۔

وَاتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخۡلُقُوۡنَ شَيۡـًٔا وَّهُمۡ يُخۡلَقُوۡنَ
وَلَا يَمۡلِكُوۡنَ لِاَنۡفُسِهِمۡ ضَرًّا وَّلَا نَفۡعًا وَّلَا يَمۡلِكُوۡنَ مَوۡتًا
وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوۡرًا ۝٣ وَقَالَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّاۤ
اِفۡكُ ۨافۡتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيۡهِ قَوۡمٌ اٰخَرُوۡنَ ۛۚ فَقَدۡ جَآءُوۡ
ظُلۡمًا وَّزُوۡرًا ۝٤ۛ وَقَالُوۡۤا اَسَاطِيۡرُ الۡاَوَّلِيۡنَ اكۡتَتَبَهَا فَهِىَ
تُمۡلٰى عَلَيۡهِ بُكۡرَةً وَّاَصِيۡلًا ۝٥ قُلۡ اَنۡزَلَهُ الَّذِىۡ يَعۡلَمُ السِّرَّ
فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا ۝٦ وَقَالُوۡا
مَالِ هٰذَا الرَّسُوۡلِ يَاۡكُلُ الطَّعَامَ وَيَمۡشِىۡ فِى الۡاَسۡوَاقِ ؕ
لَوۡلَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡهِ مَلَكٌ فَيَكُوۡنَ مَعَهٗ نَذِيۡرًا ۝٧ۙ اَوۡ يُلۡقٰٓى
اِلَيۡهِ كَنۡزٌ اَوۡ تَكُوۡنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاۡكُلُ مِنۡهَا ؕ وَقَالَ الظّٰلِمُوۡنَ
اِنۡ تَتَّبِعُوۡنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسۡحُوۡرًا ۝٨ اُنۡظُرۡ كَيۡفَ ضَرَبُوۡا لَكَ
الۡاَمۡثَالَ فَضَلُّوۡا فَلَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ سَبِيۡلًا ۝٩ؒ تَبٰرَكَ الَّذِىۡۤ
اِنۡ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيۡرًا مِّنۡ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ
مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ۙ وَيَجۡعَلۡ لَّكَ قُصُوۡرًا ۝١٠ بَلۡ كَذَّبُوۡا
بِالسَّاعَةِ وَاَعۡتَدۡنَا لِمَنۡ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيۡرًا ۝١١ۚ

معانقة ١٠ عند المتأخرين

٣ـ ضمیمه ١٩٤
٤ـ النحل ٢٤ نیز ضمیمه ١٤١
٥ـ صرف یهیں نیز ضمیمه ١٢٦
٦ـ الفرقان ٢٠
٧ـ الاسرآء ٤٧
٨ـ ضمیمه ١٢٠
٩ـ الاسرآء ٤٨
١٠ـ الفرقان ١ و ٦١ اور الملک ١
١١ـ ضمیمه ٢١

ع ١ ٩ ١٦

۱۔ سبا ۵۲ و ۵۳ اور حم السجدة ٤٤ جبکہ «مکان قریب» سبا ۵۱ اور ق ٤۱ میں ھے.

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ[1] سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ[2] دَعَوْا هُنَالِكَ

ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا[3]

كَثِيرًا ﴿١٤﴾ قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ

الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً[4] وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ[5]

خَالِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ﴿١٦﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ[6]

وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ[7] أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ

عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ

مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ[8] مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَ

لَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوا قَوْمًا

بُورًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبُوكُم[9] بِمَا تَقُولُونَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا

وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ[10] مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ

الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ

لِبَعْضٍ فِتْنَةً[11] أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾ ع

ع ۲ / ۲۱ / ۱۷

۲۔ صرف یہیں نیز الملک ۷
۳۔ صرف یہیں نیز الانشقاق ۱۱
٤۔ صرف یہیں جبکہ «مثل الجنّة الّتی» کیساتھ الرعد ۳۵ اورمحمد ۱۵میں ھے.
۵۔ النحل ۳۱ نیز ق ۳۵
٦۔ یونس ٤۵ نیز الانعام ۱۲۸ اور سبا ٤۰ ، الانعام ۲۲ اور یونس ۲۸
۷۔ مریم ٤۹ نیز الکهف ۱٦ ، هود ۱۰۹ اور ضمیمه ۱۹
۸۔ صرف یہیں نیز البقرة ۳۲ ، سبا ٤۱ ، المآئدة ۱۱٦ اور الاعراف ۱٤۳
۹۔ صرف یہیں نیز الفتح ۱۲

۱۰۔ الانبیآء ۷ نیز یوسف ۱۰۹ ، النحل ٤۳ ، الانبیاء ۲۵ اورالحج ۵۲

۱۱۔ صرف یہیں نیز الفرقان ۷

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا
الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ؕ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا
كَبِيْرًا ﴿۲۱﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ
وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿۲۲﴾ وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ
فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ﴿۲۳﴾ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا
وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿۲۴﴾ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ
تَنْزِيْلًا ﴿۲۵﴾ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ؕ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى
الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿۲۶﴾ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ
يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿۲۷﴾ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ
اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿۲۸﴾ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ
وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿۲۹﴾ وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ
قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿۳۰﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ
نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ﴿۳۱﴾
وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً
وَّاحِدَةً ۚۛ كَذٰلِكَ ۚۛ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿۳۲﴾

۴۔ الحج ۵۶
۵۔ (عَ) پر زبر ہے خیال سے پڑھیے۔
۶۔ الانعام ۱۱۲ اور ۱۲۳
۷۔ ضمیمہ ۱۹۴

الربع

مع ۷ عند المتقدمین ۱۲

١۔ صرف یہیں نیز آل عمران ١٢ ، الانعام ٣٨ اور الانفال ٣٦ ٢۔ صرف یہیں نیز المآئدة ٦٠ ، الاسرآء ٧٢ اور الفرقان ٤٢ و ٤٤ ٣۔ ضمیمه ٤٤ ٤۔ الاسرآء ١٦

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ اَلَّذِيْنَ
يُحْشَرُونَ عَلٰى وُجُوهِهِمْ إِلٰى جَهَنَّمَ ۙ أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضَلُّ
سَبِيلًا ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗٓ أَخَاهُ هٰرُونَ
وَزِيرًا ﴿٣٥﴾ فَقُلْنَا اذْهَبَآ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا ۗ فَدَمَّرْنٰهُمْ
تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ
لِلنَّاسِ اٰيَةً ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَّعَادًا وَّثَمُودَا۠
وَأَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ
الْأَمْثَالَ ۫ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيٓ
أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۗ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا
يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَّتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۗ أَهٰذَا
الَّذِي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْ
لَآ أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ
مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ۗ أَفَأَنْتَ
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ
أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

ع ٣ ١٤ ١

ع ٤ ١٠ ٢

٥۔ الذاریات ٤٦ اور النجم ٥٢ نیز هود ٨٩ ، الاعراف ٦٩ ، التوبة ٧٠ ، ابراهیم ٩ اور المومن ٣١
٦۔ (ثُ) پر پیش ہے خیال سے پڑھیے۔
٧۔ صرف یہیں نیز النسآء ١٦١
٨۔ العنکبوت ٣٨
٩۔ صرف یہیں نیز الانبیآء ٣٦
١٠۔ الاسرآء ٩٤

١١۔ صرف یہیں نیز ضمیمه ١٩٦
١٢۔ صرف یہیں نیز الاسرآء ٧٢ اور الفرقان ٣٤ و ٤٤
١٣۔ صرف یہیں نیز الجاثیة ٢٣
١٤۔ صرف یہیں نیز الاسرآء ٧٢ اور الفرقان ٣٤ و ٤٢ میں ہے۔

۵۔ الزخرف ۱۱ اور ق ۱۱
٦۔ الاسرآء ۸۹
۷۔ السجدۃ ۱۳
۸۔ الاحزاب ۱ اور ٤۸
۹۔ الرحمن ۱۹
۱۰۔ فاطر ۱۲
۱۱۔ الفرقان ۲۲
۱۲۔ ضمیمہ ۱۹
۱۳۔ البقرۃ ۱۰۲ اور یونس ۱۸
۱٤۔ الاسرآء ۱۰۵
۱۵۔ ص ۸٦

اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّكَ كَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ
جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلِیْلًا ﴿۴۵﴾ ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَیْنَا قَبْضًا یَّسِیْرًا ﴿۴۶﴾
وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِبَاسًا وَّ النَّوْمَ سُبَاتًا وَّ جَعَلَ
النَّهَارَ نُشُوْرًا ﴿۴۷﴾ وَهُوَ الَّذِیْۤ اَرْسَلَ الرِّیٰحَ بُشْرًۢا بَیْنَ یَدَیْ
رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿۴۸﴾ لِّنُحْیِۧ بِهٖ بَلْدَةً
مَّیْتًا وَّ نُسْقِیَهٗ مِمَّا خَلَقْنَاۤ اَنْعَامًا وَّ اَنَاسِیَّ كَثِیْرًا ﴿۴۹﴾ وَلَقَدْ
صَرَّفْنٰهُ بَیْنَهُمْ لِیَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰۤی اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿۵۰﴾
وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِیْ كُلِّ قَرْیَةٍ نَّذِیْرًا ﴿۵۱﴾ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِیْنَ وَ
جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِیْرًا ﴿۵۲﴾ وَهُوَ الَّذِیْ مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ هٰذَا
عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَیْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّ حِجْرًا
مَّحْجُوْرًا ﴿۵۳﴾ وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّ
صِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِیْرًا ﴿۵۴﴾ وَیَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
مَا لَا یَنْفَعُهُمْ وَلَا یَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰی رَبِّهٖ
ظَهِیْرًا ﴿۵۵﴾ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِیْرًا ﴿۵۶﴾ قُلْ مَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ
عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ یَّتَّخِذَ اِلٰی رَبِّهٖ سَبِیْلًا ﴿۵۷﴾

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ

بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ

بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا

الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩ ﴿٦٠﴾ تَبَارَكَ الَّذِي

جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿٦١﴾

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ

أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ

هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ

لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا

عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ

مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ

يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ

مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

السجدة ۷ ع ۵ عند المتقدمین ۳

۵۔ ضمیمه ۱۱
٦۔ الفرقان ۱ و ۱۰ اور الملك ۱ نیز (و) کیساتھ الزخرف ۸۵ میں ھے۔
۷۔ الفرقان ٤۷
۸۔ الفرقان ۷٤
۹۔ الفرقان ۷٦
۱۰۔ ضمیمه ۱۹۷
۱۱۔ الانعام ۱۵۱ اور الاسرآء ۳۳

صفحہ نمبر ٣٦٧ ١۔ الاحزاب ٣٠ ٢۔ توجه سے پڑھیے کھڑی زیر کیساتھ یہ لفظ صرف یہیں استعمال ہوا ہے۔

يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ اِلَّا مَنْ
تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ
حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَ
اِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ
يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا
مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿٧٤﴾
اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ﴿٧٥﴾
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ
رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

ع ٦ / ١٧

سُوْرَةُ الشُّعَرَآءِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مِائَتَانِ وَّسَبْعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّاَحَدَ عَشَرَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

المنزل ٥

طٰسٓمّٓ ﴿١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ
نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ
مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ﴿٤﴾

٣۔ مریم ٦٠ اور الفرقان ٧١
٤۔ ضمیمه ١٢٦
٥۔ مریم ٦٠ اور الفرقان ٧٠
٦۔ الفرقان ٦٥
٧۔ ضمیمه ٥٨
٨۔ الفرقان ٦٦
٩۔ القصص ١
١٠۔ یوسف ١ اور القصص ٢
١١۔ هود ١٢ اور الکهف ٦
١٢۔ یس ٤٣

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ
مُعْرِضِينَ ۝٥ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ۝٦ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ
زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝٨
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝٩ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ
ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝١٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ۝١١ قَالَ رَبِّ
إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۝١٢ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي
فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ۝١٣ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۝١٤
قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ۝١٥ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ
فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٦ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝١٧
قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۝١٨
وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝١٩ قَالَ فَعَلْتُهَا
إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۝٢٠ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي
رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝٢١ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ
أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝٢٢ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝٢٣

ع ۱ / ۹ / ۵

۳۔ صرف یہیں نیز الانعام ۵ اور ضمیمہ ۱۸۵
۴۔ ضمیمہ ۱۹۲
۵۔ صرف یہیں نیز لقمان ۱۰، الحجر ۱۹ و ق ۷، عبس ۲۷، الحج ۵ اور ق ۷
۶۔ ضمیمہ ۲۰۵ اور ۲۲۴
۷۔ ضمیمہ ۲۰۶
۸۔ الدخان ۱۷
۹۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۲۰۷
۱۰۔ صرف یہیں نیز القصص ۳۴ اور المآئدۃ ۲۵
۱۱۔ القصص ۳۳
۱۲۔ الشعرآء ۶۲
۱۳۔ صرف یہیں نیز طٰہٰ ۴۷ اور الزخرف ۴۶

۱۴۔ صرف یہیں نیز طٰہٰ ۴۷ اور الاعراف ۱۰۵ ۱۵۔ صرف یہیں نیز یٰس ۲۷
۱۶۔ صرف یہیں نیز حم السجدۃ ۹ اور التکویر ۲۹

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿۲۴﴾
قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿۲۵﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاۗىِٕكُمُ
الْاَوَّلِيْنَ ﴿۲۶﴾ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿۲۷﴾
قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۲۸﴾
قَالَ لَىِٕنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿۲۹﴾
قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۰﴾ قَالَ فَاْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ ﴿۳۱﴾ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿۳۲﴾ وَّنَزَعَ يَدَهٗ
فَاِذَا هِيَ بَيْضَاۗءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿۳۳﴾ قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ ھٰذَا لَسٰحِرٌ
عَلِيْمٌ ﴿۳۴﴾ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ڰ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿۳۵﴾
قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَاۗىِٕنِ حٰشِرِيْنَ ﴿۳۶﴾ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ
سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ﴿۳۷﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿۳۸﴾ وَّقِيْلَ
لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ﴿۳۹﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ
كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿۴۰﴾ فَلَمَّا جَاۗءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَىِٕنَّ
لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿۴۱﴾ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ
الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿۴۲﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿۴۳﴾

۳۔ الصافات ۱۲٦ اور الدخان ۸
٤۔ صرف یہیں نیز الشعرآء ۲٤
۵۔ آل عمران ۱۱۸
٦۔ الاعراف ۱۰٦ نیز ضمیمہ ۱٦٦
۷۔ الاعراف ۱۰۷ اور الشعرآء ٤۵
ع ۲ / ۲٤ / ٦
۸۔ الاعراف ۱۰۷
۹۔ الاعراف ۱۰۸
۱۰۔ الاعراف ۱۰۹
۱۱۔ الاعراف ۱۱۰
۱۲۔ الاعراف ۱۱۱
۱۳۔ الاعراف ۱۱۱ اور الشعرآء ۵۳
۱٤۔ الاعراف ۱۱۲

۱۵۔ الاعراف ۱۱۲ اور یونس ۷۹ ۱٦۔ الاعراف ۱۱۳
۱۷۔ الواقعة ۵۰ ۱۸۔ یونس ۸۰ ۱۹۔ الاعراف ۱۱۳ ۲۰۔ الاعراف ۱۱٤ ۲۱۔ یونس ۸۰

فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ
الْغٰلِبُوْنَ ﴿۴۴﴾ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿۴۵﴾
فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿۴۶﴾ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۷﴾ رَبِّ مُوْسٰى
وَهٰرُوْنَ ﴿۴۸﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ
عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ
مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۴۹﴾ قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّآ اِلٰى
رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿۵۰﴾ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۱﴾ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿۵۲﴾
فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿۵۳﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ
قَلِيْلُوْنَ ﴿۵۴﴾ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ﴿۵۵﴾ وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ﴿۵۶﴾
فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿۵۷﴾ وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿۵۸﴾ كَذٰلِكَ
وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿۵۹﴾ فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ﴿۶۰﴾ فَلَمَّا تَرَآءَ
الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ﴿۶۱﴾ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِىَ
رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ﴿۶۲﴾ فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ
فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿۶۳﴾ وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ﴿۶۴﴾

ع ۳ ۱۸ ۷

٥۔ الاعراف ۱۲۱ اور طٰه ۷۰
٦۔ الاعراف ۱۲۲
۷۔ الاعراف ۱۲۳ اور طٰه ۷۱
۸۔ الاعراف ۱۲۳ اور طٰه ۷۱
۹۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۵٦
۱۰۔ الاعراف ۱۲٤ اور طٰه ۷۱
۱۱۔ الاعراف ۱۲۵ اور الزخرف ۱٤
۱۲۔ الاعراف ۱٤۳
۱۳۔ طٰه ۷۷ اور الدخان ۲۳
۱٤۔ الاعراف ۱۱۱ اور الشعرآء ۳٦

۱۵۔ الدخان ۲۵ نیز الشعرآء ۱۳٤ ۱٦۔ الدخان ۲٦ ۱۷۔ الدخان ۲۸ ۱۸۔ الشعرآء ۱۵
۱۹۔ البقرة ٦۰ اور الاعراف ۱٦۰ ۲۰۔ البقرة ۱۱۵ ، الدهر ۲۰ اور التکویر ۲۱

وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ۞ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۞ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ۞ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ۞ قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ۞ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ۞ قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَاۤ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ۞ قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۞ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ۞ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْۤ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ۞ وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ ۞ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۞ وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ۞ وَالَّذِيْۤ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۞ رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۞ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۞ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۞ وَاغْفِرْ لِاَبِيْۤ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۞ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۞ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۞ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۞ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۞

ع ۴ / ۱۷ / ۸

۴۔ المآئدة ۲۷، الاعراف ۱۷۵ اور یونس ۷۱
۵۔ الانبیآء ۵۲ اور الصافات ۸۵
۶۔ الانبیآء ۵۳
۷۔ الصافات ۱۰۰
۸۔ الصافات ۸۴
۹۔ ق ۳۱

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾
مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكُبْكِبُوا فِيهَا
هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا
يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾
وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ
أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ
الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ
إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا
إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ
مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾

ع ۳٦ ۵ ۹

النصف

۵۔ ضمیمہ ۲۰۵ اور ۲۲٤
٦۔ ضمیمہ ۲۰٦
۷۔ الشعرآء ۱۲۳، ۱٤۱ اور ۱٦۰ جبکہ «کَذَّبَ» الشعرآء ۱۷٦ میں ہے۔
۸۔ الشعرآء ۱۲٤، ۱٤۲ اور ۱٦۱ جبکہ «اَخُوهُم» الشعرآء ۱۷۷ میں استعمال نہیں ہوا ہے۔
۹۔ ضمیمہ ۲۰۷
۱۰۔ ضمیمہ ۲۰۸
۱۱۔ ضمیمہ ۹۸ اور ۹۹
۱۲۔ ضمیمہ ۲۰۹
۱۳۔ ضمیمہ ۹۸ اور ۹۹
۱٤۔ ضمیمہ ۱۵۲

۱۵۔ الاحقاف ۹ ۱٦۔ مریم ٤٦ اور الشعرآء ۱٦۷

فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۸﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿۱۱۹﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ﴿۱۲۰﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۲۱﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۲۲﴾ كَذَّبَتْ عَادُ ۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۲۳﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۲۴﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿۱۲۵﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿۱۲۶﴾ وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۲۷﴾ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ﴿۱۲۸﴾ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿۱۲۹﴾ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿۱۳۰﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿۱۳۱﴾ وَاتَّقُوا الَّذِيْۤ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ﴿۱۳۳﴾ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿۱۳۴﴾ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۳۵﴾ قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَاۤ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ﴿۱۳۶﴾ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۱۳۷﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿۱۳۸﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۳۹﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۴۰﴾ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۴۱﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۴۲﴾

ع ۶ ۱۸ ۱۰ — ع ۷ ۱۸ ۱۱

۴۔ ضمیمہ ۲۰۶
۵۔ الشعرآء ۱۰۵، ۱۴۱ اور ۱۶۰ نیز الشعرآء ۱۷۶
۶۔ الشعرآء ۱۰۶، ۱۴۲ اور ۱۶۱ نیز الشعرآء ۱۷۷
۷۔ ضمیمہ ۲۰۷
۸۔ ضمیمہ ۲۰۸
۹۔ ضمیمہ ۹۸ اور ۹۹
۱۰۔ ضمیمہ ۲۰۹
۱۱۔ ضمیمہ ۹۸ اور ۹۹
۱۲۔ توجہ سے پڑھیے یہاں «تَعمَلُون» نہیں ہے۔
۱۳۔ صرف یہیں نیز الشعرآء ۵۷ اور الدخان ۲۵
۱۴۔ الاعراف ۵۹ اور الاحقاف ۲۱ نیز الشعرآء ۱۸۹ اور ہود ۲۶

اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ

۱۵۔ ضمیمہ ۲۰۵ اور ۲۲۴ ۱۶۔ ضمیمہ ۲۰۶
۱۷۔ الشعرآء ۱۰۵، ۱۲۳ اور ۱۶۰ نیز الشعرآء ۱۷۶، القمر ۲۳، الحآقۃ ۴ اور الشمس ۱۱ میں «اَخُوهُم» استعمال نہیں ہوا۔
۱۸۔ الشعرآء ۱۰۶، ۱۲۴ اور ۱۶۱ نیز الشعرآء ۱۷۷
۱۹۔ ضمیمہ ۲۰۷

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا
آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾
وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾
وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ
لَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا
شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ
عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ
الْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَ
تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

ع ۸ / ۱۹ / ۱۲

۵۔ الدخان ۵۲
۶۔ الدخان ۲۶
۷۔ الحجر ۸۲
۸۔ ضمیمہ ۹۸ اور ۹۹
۹۔ النمل ۴۸
۱۰۔ الشعرآء ۱۸۵
۱۱۔ الشعرآء ۱۸۶
۱۲۔ ضمیمہ ۱۶۶
۱۳۔ الاعراف ۷۳ اور ہود ۶۴
۱۴۔ ہود ۶۵
۱۵۔ ضمیمہ ۲۰۵ اور ۲۲۴
۱۶۔ ضمیمہ ۲۰۶
۱۷۔ الشعرآء ۱۰۵، ۱۲۳ اور ۱۴۱ جبکہ «کَذَبَ» الشعرآء ۱۷۶ میں استعمال ہوا ہے۔

۱۸۔ الشعرآء ۱۰۶، ۱۲۴ اور ۱۴۲ جبکہ «اَخُوهُم» الشعرآء ۱۷۷ میں نہیں ہے۔ ۱۹۔ ضمیمہ ۲۰۷
۲۰۔ ضمیمہ ۲۰۸ ۲۱۔ ضمیمہ ۹۸ اور ۹۹ ۲۲۔ ضمیمہ ۲۰۹ ۲۳۔ الشعرآء ۱۴۶

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٠﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾

كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾ وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰي رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٨٤﴾ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٨٥﴾ وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿١٨٦﴾ فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٨٩﴾

ع ۹ / ۲٦ / ۱۳

٤۔ الصآفات ۱۳٦
۵۔ الاعراف ۸٤ اور النمل ۵۸
٦۔ النمل ۵۸
۷۔ ضمیمہ ۲۰۵ اور ۲۲٤
۸۔ ضمیمہ ۲۰٦
۹۔ صرف یہیں نیز الشعرآء ۱۰۵، ۱۲۳، ۱٤۱، اور ۱٦۰
۱۰۔ صرف یہیں نیز الشعرآء ۱۰٦، ۱۲٤، ۱٤۲، اور ۱٦۱
۱۱۔ ضمیمہ ۲۰۷
۱۲۔ ضمیمہ ۲۰۸
۱۳۔ ضمیمہ ۹۸ اور ۹۹
۱٤۔ ضمیمہ ۲۰۹
۱۵۔ الاسرآء ۳۵
۱٦۔ الاعراف ۸۵ اور ہود ۸۵

۱۷۔ ضمیمہ ۳٦ ۱۸۔ الشعرآء ۱۵۳ ۱۹۔ الشعرآء ۱۵٤ ۲۰۔ ضمیمہ ۱٦٦
۲۱۔ الاعراف ۵۹، الشعرآء ۱۳۵ اور الاحقاف ۲۱ نیز ہود ۲٦

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

ع ۱۰ / ۱٦ / ۱٤ — معٰ ۹ — عند المتقدمین ۱۲

۵۔ یونس ۸۸ اور ۹۷
٦۔ ضمیمہ ۱٦۸ اور ۱٦۹
۷۔ الصافات ۱۷٦
۸۔ الحجر ٤
۹۔ ضمیمہ ۱۹۷
۱۰۔ الحجر ۸۸

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

ع ۱۱ ۲۳۶ ۱۵

سُورَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلٰثٌ وَتِسْعُونَ آيَةً وَسَبْعُ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

طس ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ﴿٥﴾

۶۔ ضمیمہ ۲۱۰
۷۔ الحجر ۱ نیز ضمیمہ ۱۴۸
۸۔ البقرة ۹۷ اور النحل ۱۰۲
۹۔ التوبة ۷۱ اور لقمان ۴
۱۰۔ البقرة ۴ اور لقمان ۴
۱۱۔ ضمیمہ ۱۳
۱۲۔ هود ۲۲

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۞ اِذْ قَالَ مُوْسٰى
لِاَهْلِهٖۤ اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا ؕ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ
قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ
فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ يٰمُوْسٰۤى اِنَّهٗۤ اَنَا
اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ۞ وَاَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ
وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۫ اِنِّيْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ
الْمُرْسَلُوْنَ ۖۗ۞ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّيْ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ
غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا
قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا
سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۚ۞ وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَاۤ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ؕ
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۧ۞ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَ
سُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ
الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا
مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ۞

ع ۱ / ۱۶

۴۔ الاعراف ۱۱۷ اور القصص ۳۱
۵۔ القصص ۳۱
۶۔ ہود ۴۱ اور یوسف ۵۳
۷۔ طہ ۲۲ اور القصص ۳۲
۸۔ القصص ۳۲، الزخرف ۵۴ اور الذاریات ۴۶
۹۔ الاحقاف ۷ اور الصف ۶ نیز ضمیمہ ۱۳۱
۱۰۔ ضمیمہ ۱۶۷
۱۱۔ الاعراف ۸۶ اور ۱۰۳
۱۲۔ سبا ۱۰

۱۳۔ صرف یہیں نیز الاعراف ۴۳، فاطر ۳۴ اور الزمر ۷۴ نیز ضمیمہ ۱ اور ۱۳۵
۱۴۔ ضمیمہ ۱۶ ۱۵۔ الصافات ۶۰ اور ۱۰۶

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿۱۷﴾ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۱۸﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۹﴾ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَاۤ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ﴿۲۰﴾ لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗۤ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۱﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ﴿۲۲﴾ اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿۲۳﴾ وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۲۴﴾ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿۲۵﴾ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۶﴾ السجدة

۵۔ ضمیمہ ۱۰۱
۶۔ (ش) پر دو پیش کیساتھ صرف یہیں۔
۷۔ ضمیمہ ۱۹
۸۔ الانعام ۴۳ اور العنکبوت ۳۸ جبکہ «فَزَيَّنَ» النحل ۶۳ میں ہے۔
۹۔ العنکبوت ۳۸
۱۰۔ ضمیمہ ۸۴ اور ۵۹
۱۱۔ التوبة ۱۲۹ اور المومنون ۸۶ جبکہ «الکریم» المومنون ۱۱۶ میں استعمال ہوا ہے۔

السجدة

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۲۷﴾ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ
هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿۲۸﴾ قَالَتْ
يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿۲۹﴾ اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۳۰﴾ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿۳۱﴾
قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْۤ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا
حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ﴿۳۲﴾ قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ
وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿۳۳﴾ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ
اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْۤا اَعِزَّةَ اَهْلِهَاۤ اَذِلَّةً ۚ وَ
كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿۳۴﴾ وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ
يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ۫ فَمَاۤ
اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّاۤ اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿۳۶﴾ اِرْجِعْ
اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَاۤ
اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿۳۷﴾ قَالَ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا
قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿۳۸﴾ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ
بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ﴿۳۹﴾

ع ۲ ۱۷ ۱۷

قَالَ الَّذِیۡ عِنۡدَہٗ عِلۡمٌ مِّنَ الۡکِتٰبِ اَنَا اٰتِیۡکَ بِہٖ قَبۡلَ اَنۡ
یَّرۡتَدَّ اِلَیۡکَ طَرۡفُکَ ؕ فَلَمَّا رَاٰہُ مُسۡتَقِرًّا عِنۡدَہٗ قَالَ
ھٰذَا مِنۡ فَضۡلِ رَبِّیۡ ۟ۖ لِیَبۡلُوَنِیۡۤ ءَاَشۡکُرُ اَمۡ اَکۡفُرُ ؕ وَ مَنۡ
شَکَرَ فَاِنَّمَا یَشۡکُرُ لِنَفۡسِہٖ ۚ وَ مَنۡ کَفَرَ فَاِنَّ رَبِّیۡ غَنِیٌّ
کَرِیۡمٌ ﴿۴۰﴾ قَالَ نَکِّرُوۡا لَہَا عَرۡشَہَا نَنۡظُرۡ اَتَہۡتَدِیۡۤ اَمۡ تَکُوۡنُ
مِنَ الَّذِیۡنَ لَا یَہۡتَدُوۡنَ ﴿۴۱﴾ فَلَمَّا جَآءَتۡ قِیۡلَ اَہٰکَذَا
عَرۡشُکِ ؕ قَالَتۡ کَاَنَّہٗ ہُوَ ۚ وَ اُوۡتِیۡنَا الۡعِلۡمَ مِنۡ قَبۡلِہَا وَ
کُنَّا مُسۡلِمِیۡنَ ﴿۴۲﴾ وَ صَدَّہَا مَا کَانَتۡ تَّعۡبُدُ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ ؕ
اِنَّہَا کَانَتۡ مِنۡ قَوۡمٍ کٰفِرِیۡنَ ﴿۴۳﴾ قِیۡلَ لَہَا ادۡخُلِی الصَّرۡحَ ۚ فَلَمَّا
رَاَتۡہُ حَسِبَتۡہُ لُجَّۃً وَّ کَشَفَتۡ عَنۡ سَاقَیۡہَا ؕ قَالَ اِنَّہٗ
صَرۡحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنۡ قَوَارِیۡرَ ۬ؕ قَالَتۡ رَبِّ اِنِّیۡ ظَلَمۡتُ نَفۡسِیۡ وَ
اَسۡلَمۡتُ مَعَ سُلَیۡمٰنَ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿٪۴۴﴾ وَ لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَاۤ اِلٰی
ثَمُوۡدَ اَخَاہُمۡ صٰلِحًا اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰہَ فَاِذَا ہُمۡ فَرِیۡقٰنِ
یَخۡتَصِمُوۡنَ ﴿۴۵﴾ قَالَ یٰقَوۡمِ لِمَ تَسۡتَعۡجِلُوۡنَ بِالسَّیِّئَۃِ قَبۡلَ
الۡحَسَنَۃِ ۚ لَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرُوۡنَ اللّٰہَ لَعَلَّکُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ﴿۴۶﴾

ع ۳ ۱۳ ۱۸

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ؕ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ
اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ
فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿٤٨﴾ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ
ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٤٩﴾
وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٠﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ
بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٢﴾
وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٣﴾ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ
لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٤﴾ اَئِنَّكُمْ
لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ
تَجْهَلُوْنَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا
اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ
وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾ وَاَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٥٨﴾ ع قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ
عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ ءٰٓاللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾

ع ٤ ۱۹

٤۔ ضمیمہ ۱٦۷
٥۔ ضمیمہ ۲۲٤
٦۔ حم السجدۃ ۱۸
۷۔ یونس ٦۳ ، یوسف ٥۷ اور حم السجدۃ ۱۸
۸۔ الاعراف ۸۰ اور العنکبوت ۲۸
۹۔ الانبیآء ۳
۱۰۔ الاعراف ۸۱ اور العنکبوت ۲۹
۱۱۔ الاعراف ۸۱
۱۲۔ صرف یہیں نیز الاعراف ۸۱ اور یس ۱۹
۱۳۔ العنکبوت ۲٤ اور ۲۹ نیز «وما کان جواب» الاعراف ۸۲ میں ہے۔
۱٤۔ الاعراف ۸۲

۱٥۔ الاعراف ۸۳ ۱٦۔ الاعراف ۸۳ ، الحجر ٦۰ اور العنکبوت ۳۲
۱۷۔ الاعراف ۸٤ اور الشعرآء ۱۷۳ ۱۸۔ الشعرآء ۱۷۳ ۱۹۔ النمل ۹۳ نیز ضمیمہ ۱
۲۰۔ توجہ سے پڑھیے یہاں (ع) استعمال نہیں ہوئی۔

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿٦٠﴾ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٣﴾ اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦٤﴾ قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۫ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۫ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ﴿٦٦﴾

ع ۵ ۸

٤۔ سابقہ آیت (٦٠) کا آغاز بھی اسی لفظ سے ہورہا ھے۔
٥۔ ضمیمہ ٢١١
٦۔ ضمیمہ ١٩٩
٧۔ اگلی دو آیت (٦٣ اور ٦٤) کا آغاز بھی اسی انداز سے ہو رہا ھے۔
٨۔ ضمیمہ ٢١١
٩۔ الاعراف ٣ اور الحاقة ٤٢
١٠۔ سابقہ (٦٢) اور اگلی (٦٤) آیت کا آغاز بھی اسی انداز سے ہورہا ھے۔
١١۔ الاعراف ٥٧ اور الفرقان ٤٨
١٢۔ ضمیمہ ٢١١

١٣۔ صرف یہیں نیز النحل ١ اور ٣ ١٤۔ پچھلی دونوں (٦٢ اور ٦٣) آیات کا آغاز بھی اسی انداز سے ہو رہا ھے۔ ١٥۔ یونس ٣١، سبا ٢٤ اور فاطر ٣ ١٦۔ ضمیمہ ٢١١ ١٧۔ البقرة ١١١ اور الانبیاء ٢٤ ١٨۔ ضمیمہ ٢٠ ١٩۔ ضمیمہ ١٠٦ ٢٠۔ النحل ٢١

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّ اٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا
لَمُخْرَجُوْنَ ﴿۶۷﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ
قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۶۸﴾ قُلْ سِيْرُوْا
فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۶۹﴾
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿۷۰﴾
وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۷۱﴾ قُلْ
عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿۷۲﴾
وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ
لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۷۳﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ
وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿۷۴﴾ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ
اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿۷۵﴾ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى
بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۷۶﴾
وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۷۷﴾ اِنَّ رَبَّكَ
يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ﴿۷۸﴾
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ﴿۷۹﴾

۵۔ العنکبوت ۲۰ اور الروم ٤۲ نیز الانعام ۱۱
٦۔ الاعراف ۸٤
۷۔ النحل ۱۲۷
۸۔ ضمیمہ ۱۸۳
۹۔ ضمیمہ ۲۰
۱۰۔ صرف یہیں نیز خیال رهے که اگلی آیت (۷٤) کا آغاز بهی انهی الفاظ سے هو رها هے۔
۱۱۔ یونس ٦۰
۱۲۔ القصص ٦۹ نیز سابقه آیت (۷۳) کے ابتدائی الفاظ بهی یهیں هیں۔
۱۳۔ ضمیمه ۱٤۸
۱٤۔ الاسرآء ۹
۱۵۔ النبا ۳
۱٦۔ یونس ۵۷ اور الاسرآء ۸۲
۱۷۔ یونس ۹۳ اور الجاثیه ۱۷
۱۸۔ آل عمران ۱۵۹

اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا
وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ۝٨٠ وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ
اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝٨١ وَ
اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ
تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ۝٨٢ وَ
يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ
بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۝٨٣ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ
بِاٰيٰتِيْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٨٤
وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ۝٨٥
اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٨٦ وَيَوْمَ يُنْفَخُ
فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ
اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ۝٨٧ وَتَرَى الْجِبَالَ
تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ
الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ۝٨٨

٦۔ النمل ١٧ اور حم السجدۃ ١٩
٧۔ حم السجدۃ ٢٠
ع ١٦ ٦ ٢
٨۔ خیال سے پڑھیے یہاں (ع) استعمال نہیں ہوئی۔
٩۔ النمل ٨٢
١٠۔ ضمیمہ ١٣٦
١١۔ ضمیمہ ٢٠٠ اور ٢٢٥
١٢۔ صرف یہیں نیز (و) کے بغیر الانعام ٧٣، طٰہ ١٠٢ اور النبا ١٨ میں ہے۔
١٣۔ یونس ٦٦، الحج ١٨ اور الزمر ٦٨
١٤۔ الزمر ٦٨

الصآفات ۳۹ نیز ضمیمہ ۲۱۲ ٤۔ یونس ۷۲ اور ۱۰٤ ٥۔ یونس ۱۰۸، الاسرآء ۱٥ اور الزمر ٤۱ ٦۔ النمل ٥۹ نیز ضمیمہ ۱ ۷۔ ھود ۱۲۳ ۸۔ الشعرآء ۱

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿۸۹﴾ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ ۗ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۰﴾ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَىْءٍ ۚ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۹۱﴾ وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿۹۲﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۳﴾

ع ۷ ۱۱ ۳

سُوْرَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ وَّهِىَ ثَمَانٌ وَّثَمَانُوْنَ اٰيَةً وَّتِسْعُ رُكُوْعَاتٍ

۹۔ یوسف ۱ اور الشعرآء ۲ ۱۰۔ یونس ۸۳ اور القصص ۸ ۱۱۔ الاعراف ۱۲۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

طٰسٓمّٓ ﴿۱﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿۲﴾ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۳﴾ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤﴾ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿٥﴾

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ﴿٦﴾ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧﴾ فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩﴾ وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ؕ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ۫ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١١﴾ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾

٦۔ القصص ۱۸
۷۔ ضمیمہ ۱٦۹
۸۔ طٰہٰ ٤۰ اور الصف ۱۰
۹۔ خیال سے پڑھیے یہ لفظ رہ نہ جائے۔
۱۰۔ طٰہٰ ٤۰
۱۱۔ الکہف ۲۱ نیز ضمیمہ ۱۸٤
۱۲۔ ضمیمہ ۱٤۳

ع ۱ ۱۳ ٤

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰۤى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ
نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۴﴾ وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ
اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۗ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا
مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ
عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۗ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ
اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۵﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ
فَغَفَرَ لَهٗ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۶﴾ قَالَ رَبِّ بِمَاۤ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ
فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۷﴾ فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا
يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ؕ قَالَ
لَهٗ مُوْسٰۤى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۱۸﴾ فَلَمَّاۤ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ
بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰۤى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ
كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِالْاَمْسِ ۖ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا
فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿۱۹﴾ وَجَآءَ
رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ؗ قَالَ يٰمُوْسٰۤى اِنَّ الْمَلَاَ
يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿۲۰﴾

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۱﴾ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿۲۲﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۬ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ؕ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ٜ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿۲۳﴾ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿۲۴﴾ فَجَآءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ۬ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ؕ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ٜ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۵﴾ قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۬ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴿۲۶﴾ قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۲۷﴾ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿۲۸﴾

۲ ع ۸ ۵

۵۔ الکهف ۷۸ اور الزخرف ۳۸

٦۔ یوسف ٦٦

۳ ع ۷ ٦

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ
الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ
مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿۲۹﴾ فَلَمَّاۤ
اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ
مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰۤى اِنِّيْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۰﴾ وَاَنْ
اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ
يُعَقِّبْ ۚ يٰمُوْسٰۤى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ﴿۳۱﴾
اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۡ وَّ
اضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ
رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿۳۲﴾
قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿۳۳﴾
وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً
يُّصَدِّقُنِيْۤ ۡ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ﴿۳۴﴾ قَالَ سَنَشُدُّ
عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ
اِلَيْكُمَا ۛ بِاٰيٰتِنَاۤ ۛ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ﴿۳۵﴾

۵۔ النمل ۱۰ جبکه «وَلَا تَخَف» طه ۲۱ میں هے۔
۶۔ طه ۲۲ اورالنمل ۱۲
۷۔ طه ۲۲
۸۔ النمل ۱۲، الزخرف ٥٤ اور الذاریات ٤٦
۹۔ الشعرآء ۱٤
۱۰۔ الشعرآء ۱۲

معانقة ۱۲ عند المتأخرين

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ
مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿۳۶﴾ وَقَالَ
مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ
لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۳۷﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ
يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ
يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى
اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۳۸﴾ وَاسْتَكْبَرَ
هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا
لَا يُرْجَعُوْنَ ﴿۳۹﴾ فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۰﴾ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً
يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۴۱﴾
وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ
هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿۴۲﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ
مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۴۳﴾

۶۔ المؤمن ۲۶ اور ۳۶
۷۔ ضمیمہ ۱۸۸
۸۔ المؤمن ۳۶
۹۔ المؤمن ۳۷
۱۰۔ ضمیمہ ۱۷۱
۱۱۔ صرف، یہیں۔
۱۲۔ الذاریات ۴۰
۱۳۔ یونس ۳۹ نیز ضمیمہ ۱۶۷
۱٤۔ الانبیآء ۷۳ اورالسجدۃ ۲۴
۱۵۔ ہود ۶۰ اور ۹۹
۱۶۔ ضمیمہ ٤٤
۱۷۔ ضمیمہ ۷۳

ع ٤ ۱٤ ۷

١ـ القصص ٤٥ اور ٤٦ نیز یہ الفاظ اسی آیت (٤٤) میں مزید ایک بار. ٢ـ القصص ٤٥ اور ٤٦ نیز یہ الفاظ اس آیت (٤٤) میں یہاں مکرر. ٣ـ الانبیاء ٤٤ ٤ـ القصص ٤٤ میں دو بار نیز القصص ٤٦ ٥ـ القصص ٥٩ ٦ـ القصص ٤٤ میں دو بار نیز القصص ٤٥ ٧ـ السجدة ٣ اور یٰس ٦ ٨ـ ضمیمہ ٧٣ ٩ـ النساء ٦٢، الروم ٣٦ اور الشوریٰ ٤٨ ١٠ـ طه ١٣٤ ١١ـ یونس ٧٦ اور المومن ٢٥ ١٢ـ ضمیمہ ٢٠ ١٣ـ هود ١٤ ١٤ـ المائدة ٥١، الانعام ١٤٤ اور الاحقاف ١٠ نیز ضمیمہ ٩٠

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلٰى مُوْسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَلٰكِنَّآ أَنْشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ إِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْلَآ أَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ أُوْتِيَ مِثْلَ مَآ أُوْتِيَ مُوْسٰى ۭ أَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ أُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۟ وَقَالُوْٓا إِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَأْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ أَهْدٰى مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَآءَهُمْ ۭ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۭ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾ ع ٥ ٨ ٨

صفحہ نمبر۳۹۳ ۱۔ ضمیمہ ۷۳ ۲۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۱۲۱ و ۱٤٦ ، الانعام ۲۰ و ۱۱٤ اور الرعد ۳٦

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۱﴾ اَلَّذِيْنَ
اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۲﴾ وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ
قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ﴿۵۳﴾
اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۵۴﴾ وَاِذَا سَمِعُوا
اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ز
سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ز لَا نَبْتَغِي الْجٰهِلِيْنَ ﴿۵۵﴾ اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ
اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ج وَهُوَ اَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿۵۶﴾ وَقَالُوْٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ
مِنْ اَرْضِنَا ط اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ
كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۵۷﴾
وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ج فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ
لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ط وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ﴿۵۸﴾ وَ
مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا
عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ج وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ﴿۵۹﴾

۳۔ صرف یہیں نیز الاسرآء ۱۰۷ اور ضمیمہ ۱۷۳
٤۔ المآئدة ۱۱۱
۵۔ الرعد ۲۲
٦۔ ضمیمہ ۵
۷۔ صرف یہیں نیز المآئدة ۸۳
۸۔ الشوری ۱۵ نیز البقرة ۱۳۹
۹۔ ضمیمہ ۱٤۷
۱۰۔ البقرة ۲۷۲
۱۱۔ الانعام ۱۱۷ ، النحل ۱۲۵ و القلم ۷ نیز النجم ۳۰ اور ۳۲
۱۲۔ ضمیمہ ۱٤۳
۱۳۔ صرف یہیں نیز الاسرآء ۱۷ اور ضمیمہ ۲۰۲

۱٤۔ صرف یہیں نیز الحجر ۲۳ ۱۵۔ صرف یہیں نیز ہود ۱۱۷ ، الانعام ۱۳۱ جبکہ اسی آیت میں آگے «مُهلِكِ القرى» آرہا ہے۔ ۱٦۔ صرف یہیں نیز القصص ٤۵ ، البقرة ۱۲۹ و ۱۵۱ ، آل عمران ۱٦٤ و الجمعة ۲ اور الطلاق ۱۱ ۱۷۔ صرف یہیں نیز القصص ۵۹ ۱۸۔ صرف یہیں نیز الانعام ۱۳۱ اور ہود ۱۱۷

۱۔ صرف یہیں نیز الشوری ۳۶ اور آل عمران ۱٤ جبکہ خیال رہے کہ یہاں « وزینتها » زائد ہے
۲۔ الشوری۳٦ نیز آل عمران ۱۹۸ اور ضمیمہ ۲۰۳ ۳۔ ضمیمہ ۳۱ ٤۔ یونس ۲۳ نیز آل عمران ۱٤

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتُهَا ۚ وَ مَا
عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٠﴾ اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا
حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ
شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ
الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَاۗءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ۚ اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّاْنَآ
اِلَيْكَ ۡ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَاۗءَكُمْ
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ
كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ
الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْۢبَاۗءُ يَوْمَىِٕذٍ فَهُمْ لَا
يَتَسَاۗءَلُوْنَ ﴿٦٦﴾ فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰٓى اَنْ
يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿٦٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ وَيَخْتَارُ ۭ مَا
كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ
مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَهُ
الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۡ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٧٠﴾

ع ٦ / ٩

٥۔ القصص ۷٤ نیز القصص ٦٥ ، حم السجدة ٤۷ ، النحل ۲۷ اور الکهف ٥۲
٦۔ صرف یہیں نیز حم السجدة ۲٥ نیز الاحقاف ۱۸
۷۔ صرف یہیں نیز یونس ۲۸
۸۔ صرف یہیں نیز الاعراف ۱۹٥
۹۔ الکهف ٥۲
۱۰۔ البقرة ۱٦٦ نیز یونس ٥٤ ، سبا ۳۳ اور الشوری ٤٤
۱۱۔ صرف یہیں نیز القصص ٦۲
۱۲۔ صرف یہیں نیز المؤمنون ۱۰۱
۱۳۔ صرف یہیں نیز مریم ٦۰ ، الفرقان ۷۰ ، طه ۸۲ ، الفرقان ۷۱ ، الکهف ۸۸ اور سبا ۳۷

۱٤۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۲۲۹ ۱٥۔ صرف یہیں نیز النحل ۱ اور المؤمنون ۹۱ ۱٦۔ صرف یہیں نیز النمل ۷٤ اور الرعد ۸ ۱۷۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۸٤ ۱۸۔ صرف یہیں نیز النجم ۲٥
۱۹۔ صرف یہیں نیز القصص ۸۸ اور ضمیمہ ۸۲

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ﴿۷۱﴾
قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا
تُبْصِرُوْنَ ﴿۷۲﴾ وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا
فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۷۳﴾ وَيَوْمَ
يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿۷٤﴾
وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ
فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۷۵﴾ ع
اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ۪ وَاٰتَيْنٰهُ
مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِي الْقُوَّةِ ۗ ق
اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿۷۶﴾
وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۷۷﴾

ع ۷ / ۸ / ۱۰

۵۔ الزخرف ۵۱ اور الذاریات ۲۱ نیز السجدۃ ۲۷
۶۔ ضمیمہ ۱۹۸
۷۔ القصص ٦۲ اور ٦۵
۸۔ ضمیمہ ۱۳۹
۹۔ المائدۃ ٦٤

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا۟ مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

ع ۸ ۱۱

۶۔ الکہف ۴۳ نیز ضمیمہ ۱۹
۷۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۹۰
۸۔ المؤمنون ۱۱۷
۹۔ الاعراف ۱۲۸
۱۰۔ الانعام ۱۶۰ اور النمل ۸۹
۱۱۔ الانعام ۱۶۰ اور النمل ۹۰
۱۲۔ ضمیمہ ۱۲۹

اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّکَ اِلٰی مَعَادٍ ؕ قُلْ رَّبِّیْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰی وَمَنْ هُوَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۸۵﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ یُّلْقٰٓی اِلَیْکَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّکَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِیْرًا لِّلْكٰفِرِیْنَ ﴿۸۶﴾ وَلَا یَصُدُّنَّکَ عَنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَیْکَ وَادْعُ اِلٰی رَبِّکَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ﴿۸۷﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۟ كُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۸۸﴾

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ تِسْعٌ وَّسِتُّوْنَ اٰيَةً وَّسَبْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

الٓمّٓ ﴿۱﴾ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ یُّتْرَكُوْٓا اَنْ یَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُوْنَ ﴿۲﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلَیَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِیْنَ ﴿۳﴾ اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ السَّیِّاٰتِ اَنْ یَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا یَحْكُمُوْنَ ﴿٤﴾ مَنْ كَانَ یَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۵﴾

ع ۹ / ۲ وقف لازم

۵۔ یونس ۱۰۶
٦۔ ضمیمہ ۱۹۷
۷۔ ضمیمہ ۵۹
۸۔ القصص ۷۰ نیز ضمیمہ ۸۲
۹۔ ضمیمہ ۳
۱۰۔ العنکبوت ۱۱
۱۱۔ الحاثیة ۲۱ اور محمد ۲۹
۱۲۔ الانعام ۱۳٦، النحل ۵۹ اور الحاثیة ۲۱
۱۳۔ ضمیمہ ۵۵

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۖ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾

ع ۱۳

اور الاحقاف ۱۵
۵۔ لقمان ۱۵
۶۔ هود ۴۶، الاسراء ۳۶ اور لقمان ۱۵
۷۔ لقمان ۱۵
۸۔ آل عمران ۵۵ اور لقمان ۱۵
۹۔ لقمان ۱۵
۱۰۔ ضمیمه ۱۳۰
۱۱۔ ضمیمه ۴۲
۱۲۔ البقرة ۸
۱۳۔ العنکبوت ۳
۱۴۔ ضمیمه ۱۹۴

۱۔ هود ۲۵ اور المؤمنون ۲۳ نیز الاعراف ۵۹ ، الحديد ۲۶ اور نوح ۱ ۲۔ صرف یہیں نیز النحل ۱۱۳ اور الشعرآء ۱۵۸

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿۱۴﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَاۤ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۵﴾ وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۶﴾ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۷﴾ وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۸﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿۱۹﴾ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۰﴾ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ﴿۲۱﴾

وَمَاۤ اَنْتُمْ

۳۔ صرف یہیں نیز الانبیآء ۹۱
۴۔ التوبة ۴۱ ، الصف ۱۱ اور الجمعة ۹ نیز البقرة ۵۴ ، الاعراف ۸۵ ، النور ۲۷ ، المجادلة ۱۲ اور ضمیمه ۶۲
۵۔ صرف یہیں نیز العنکبوت ۲۵ اور ضمیمه ۱۹
۶۔ صرف یہیں نیز ضمیمه ۱۹
۷۔ سبا ۱۵ نیز البقرة ۱۵۲ و ۱۷۲ اور النحل ۱۱۴
۸۔ صرف یہیں نیز ضمیمه ۸۲
۹۔ النور ۵۴ نیز یس ۱۷
۱۰۔ ضمیمه ۱۹۲
۱۱۔ صرف یہیں نیز یونس ۴
۱۲۔ الحج ۷۰ ، فاطر ۱۱ اور الحديد ۲۲ نیز التغابن ۷ اور ق ۴۴
۱۳۔ النمل ۶۹ اور الروم ۴۲ نیز الانعام ۱۱ ۱۴۔ صرف یہیں نیز السجدة ۷ ۱۵۔ ضمیمه ۱۵
۱۶۔ صرف یہیں نیز المآئدة ۴۰ اور آل عمران ۱۲۹

۱۔ الشوریٰ ۳۱ نیز الانعام ۱۳۴ ، یونس ۵۳ اور ھود ۳۳ ۲۔ البقرۃ ۱۰۷ ، التوبۃ ۱۱۶

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۡ وَمَا
لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿۲۲﴾ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖۤ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِىْ
وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۳﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ
اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ۭ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۲۴﴾ وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ
وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۡ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ
مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۲۵﴾ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ
اِلٰى رَبِّىْ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۶﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ
وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ
الصّٰلِحِيْنَ ﴿۲۷﴾ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ
الْفَاحِشَةَ ۡ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾

اور الشوریٰ ۳۱ نیز ضمیمہ ۱۹
۳۔ ضمیمہ ۲۵
۴۔ ضمیمہ ۱۰۷
۵۔ النمل ۵۶ اور العنکبوت ۲۹ جبکہ «وَمَا كَانَ» الاعراف ۸۲ میں ہے۔
۶۔ ضمیمہ ۲۰۰ اور ۲۲۵
۷۔ ضمیمہ ۱۹
۸۔ العنکبوت ۱۷
۹۔ الجاثیۃ ۳۴ نیز الحدید ۱۵ اور آل عمران ۱۵۱
۱۰۔ الانعام ۸۴ ، مریم ۴۹ اور الانبیاء ۷۲
۱۱۔ الحدید ۲۶

۱۲۔ البقرۃ ۱۳۰ اور النحل ۱۲۲ ۱۳۔ الاعراف ۸۰ اور النمل ۵۴ ۱۴۔ الاعراف ۸۰

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۙ وَتَأْتُونَ
فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا
ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ
انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا
إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ
الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا
لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ
إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ
رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا
لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا
امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ
هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾
وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِلَىٰ
مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ
ارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾

ع ۳ ۸ ۱۵

الاعرف ۸۲ میں ھے۔
۳۔ ضمیمہ ۱۶۶
۴۔ المؤمنون ۲۶ اور ۳۹
۵۔ ھود ۶۹ و ۷۷ اور العنکبوت ۳۳
۶۔ الاعراف ۸۳ ، الحجر ۶۰ اور النمل ۵۷ جبکہ «كانت مِن الغابرِينَ» العنکبوت ۳۳ میں ھے۔
۷۔ ھود ۶۹ و ۷۷ اور العنکبوت ۳۱
۸۔ ھود ۷۷
۹۔ ھود ۷۰ ، ص ۲۲ اور الذاریات ۲۸
۱۰۔ الاعرف ۸۳ اور العنکبوت ۳۲
۱۱۔ ضمیمہ ۲۲۷

۱۲۔ الاعراف ۸۵ اور ھود ۸۴ ۱۳۔ الاعراف ۵۹ اور المؤمنون ۲۳ ۱۴۔ ضمیمہ ۳۶

۱۔ الاعراف ۷۸ اور ۹۱ جبکہ « دِیَارِہِم » ہود ٦٧ اور ۹٤ میں ہے۔ ۲۔ الفرقان ۳۸

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
جٰثِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَّثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسٰكِنِهِمْ ۖ
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَقٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهٰمٰنَ ۖ وَلَقَدْ
جَآءَهُم مُّوسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا
سٰبِقِينَ ﴿٣٩﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ
حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا
بِهِ الْأَرْضَ ۚ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلٰكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ ۖ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَ
إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ۘ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَيْءٍ ۚ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا
يَعْقِلُهَآ إِلَّا الْعٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

وقف لازم — ع ۴ / ۱٤ / ۱٦

۳۔ الانعام ٤٣ اور النمل ٢٤ جبکہ « فَزَيَّن » النحل ٦٣ میں ہے۔
٤۔ النمل ٢٤
٥۔ البقرة ٩٢
٦۔ القمر ٣٤
٧۔ « وَمَا » کیساتھ صرف یہیں نیز ضمیمہ ٣٥
٨۔ الجاثیة ١٠ نیز ضمیمہ ١٩
٩۔ اس آیت میں یہاں پہلی بار۔
١٠۔ اس آیت میں یہاں مکرر۔
١١۔ ضمیمہ ٤٦
١٢۔ ضمیمہ ١٩٣
١٣۔ الحشر ٢١
١٤۔ الجاثیة ٢٢

١٥۔ الحجر ٧٧ نیز ضمیمہ ٢٢٤

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿۴۵﴾ وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۴۶﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿۴۷﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿۴۸﴾ بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿۴۹﴾ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۵۰﴾ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۵۱﴾ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۵۲﴾

۵۔ العنکبوت ٤۹ اور لقمان ۳۲
٦۔ العنکبوت ٤۷ اور لقمان ۳۲
۷۔ یونس ۲۰، الرعد ۷ اور ۲۷ نیز ضمیمہ ۱۳۷
۸۔ الانعام ۱۰۹
۹۔ الملک ۲٦
۱۰۔ الرعد ٤۳، الاسراء ۹٦ اور الاحقاف ۸
۱۱۔ ضمیمہ ۵۱
۱۲۔ البقرة ۲۷، الانفال ۳۷ اور الزمر ٦۳

١۔ الرعد ٦، الحج ٤٧ اور العنکبوت ٥٤ ٢۔ ضمیمہ ١٦٨ اور ١٦٩ ٣۔ الرعد ٦، الحج ٤٧ اور العنکبوت ٥٣ ٤۔ التوبة ٤٩ ٥۔ المآئدة ٦٦ ٦۔ ضمیمہ ٢١٢ ٧۔ ابراھیم ٣١ اور الزمر ٥٣ ٨۔ آل عمران ١٨٥ اور الانبیاء ٣٥ ٩۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ٨٢ ١٠۔ ضمیمہ ٤٢ ١١۔ ضمیمہ ٢١ ١٢۔ ضمیمہ ٥٨ ١٣۔ آل عمران ١٣٦ اور الزمر ٧٤ ١٤۔ النحل ٤٢ و ٩٩ اور الشوری ٣٦ ١٥۔ ضمیمہ ١١٢ ١٦۔ ضمیمہ ٥٥ ١٧۔ ضمیمہ ١٧٧ ١٨۔ ضمیمہ ١٨٩ ١٩۔ الزخرف ٨٧ ٢٠۔ سبا ٣٩ نیز ضمیمہ ١٩٠ ٢١۔ الانفال ٧٥، التوبة ١١٥ اور المجادلة ٧ نیز المآئدة ٩٧ اور ضمیمہ ٩٤ ٢٢۔ ضمیمہ ١٧٧

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ۚ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

ع ٦ ١٢ ٢

٢٣۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ١٨ ٢٤۔ لقمان ٢٥ نیز ضمیمہ ١ ٢٥۔ البقرة ١٠٠ نیز ضمیمہ ١٩٩

۱۔ «لهوٌ ولعب» کیساتھ صرف یہیں نیز الانعام ۳۲، محمد ۳۶ و الحدید ۲۰ میں «لعبٌ ولهوٌ» ہے۔

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۭ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾ فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۭ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاۗءَهٗ ۭ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٦٩﴾

سُوْرَةُ الرُّوْمِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ سِتُّوْنَ اٰيَةً وَّسِتُّ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الۗمّۗ ﴿١﴾ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿٢﴾ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ﴿٣﴾ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ڛ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۭ وَيَوْمَىِٕذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ اللّٰهِ ۭ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾

۲۔ ضمیمہ ۴۶
۳۔ ضمیمہ ۱۶۰
۴۔ یونس ۲۳ اور لقمان ۳۲
۵۔ النحل ۵۵ اور الروم ۳۴
۶۔ ضمیمہ ۱۹۶
۷۔ ضمیمہ ۱۹۲
۸۔ النحل ۷۲
۹۔ ضمیمہ ۱۳۸
۱۰۔ الزمر ۳۲ اور ۶۰
۱۱۔ الزمر ۳۲
۱۲۔ ضمیمہ ۳

وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُوْنَ ۝ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚۖ وَهُمْ عَنِ
الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۫ مَا خَلَقَ
اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ
وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا
فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ
كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا
عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝ ؕ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ
اَسَآءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝
اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ وَيَوْمَ
تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ
مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝
وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ۝ فَاَمَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ۝

۵۔ السجدة ۱۰
۶۔ فاطر ۴۴ اور المؤمن ۲۱
۷۔ ضمیمه ۲۲۸
۸۔ التوبة ۶۹ اور فاطر ۴۴
۹۔ التوبة ۷۰ نیز ضمیمه ۳۵
۱۰۔ البقرة ۲۸ اور الزمر ۴۴
۱۱۔ ضمیمه ۲۱۳
۱۲۔ ضمیمه ۲۱۳
۱۳۔ النساء ۱۷۳ اور الحاثية ۳۰

۱۔ البقرة ۲٦ اور الجاثية ۳۱ نیز آل عمران ٥٦ ۲۔ سبا ۳۸ ۳۔ آل عمران ۲۷ اور یونس ۳۱ نیز الانعام ۹۵

وَ اَمَّا الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا وَ کَذَّبُوۡا بِاٰیٰتِنَا وَ لِقَآیِٔ الۡاٰخِرَۃِ
فَاُولٰٓئِکَ فِی الۡعَذَابِ مُحۡضَرُوۡنَ ﴿۱۶﴾ فَسُبۡحٰنَ اللّٰہِ حِیۡنَ
تُمۡسُوۡنَ وَ حِیۡنَ تُصۡبِحُوۡنَ ﴿۱۷﴾ وَ لَہُ الۡحَمۡدُ فِی السَّمٰوٰتِ
وَ الۡاَرۡضِ وَ عَشِیًّا وَّ حِیۡنَ تُظۡہِرُوۡنَ ﴿۱۸﴾ یُخۡرِجُ الۡحَیَّ مِنَ
الۡمَیِّتِ وَ یُخۡرِجُ الۡمَیِّتَ مِنَ الۡحَیِّ وَ یُحۡیِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ
مَوۡتِہَا ؕ وَ کَذٰلِکَ تُخۡرَجُوۡنَ ﴿۱۹﴾ ع وَ مِنۡ اٰیٰتِہٖۤ اَنۡ خَلَقَکُمۡ مِّنۡ
تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنۡتُمۡ بَشَرٌ تَنۡتَشِرُوۡنَ ﴿۲۰﴾ وَ مِنۡ اٰیٰتِہٖۤ اَنۡ خَلَقَ
لَکُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِکُمۡ اَزۡوَاجًا لِّتَسۡکُنُوۡۤا اِلَیۡہَا وَ جَعَلَ بَیۡنَکُمۡ
مَّوَدَّۃً وَّ رَحۡمَۃً ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّتَفَکَّرُوۡنَ ﴿۲۱﴾
وَ مِنۡ اٰیٰتِہٖ خَلۡقُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ اخۡتِلَافُ اَلۡسِنَتِکُمۡ
وَ اَلۡوَانِکُمۡ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّلۡعٰلِمِیۡنَ ﴿۲۲﴾ وَ مِنۡ اٰیٰتِہٖ
مَنَامُکُمۡ بِالَّیۡلِ وَ النَّہَارِ وَ ابۡتِغَآؤُکُمۡ مِّنۡ فَضۡلِہٖ ؕ اِنَّ فِیۡ
ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّسۡمَعُوۡنَ ﴿۲۳﴾ وَ مِنۡ اٰیٰتِہٖ یُرِیۡکُمُ الۡبَرۡقَ
خَوۡفًا وَّ طَمَعًا وَّ یُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَیُحۡیٖ بِہِ الۡاَرۡضَ
بَعۡدَ مَوۡتِہَا ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّعۡقِلُوۡنَ ﴿۲۴﴾

٤۔ الروم ۲٤ و ٥۰ اور الحدید ۱۷
٥۔ الزخرف ۱۱
٦۔ اور ۷۔ ضمیمہ ۲۱٤
۸۔ الرعد ۳، الزمر ٤۲ اور الجاثیة ۱۳ نیز ضمیمہ ۲۲٥
۹۔ الشوری ۲۹ نیز ضمیمہ ۲۱٤
۱۰۔ (لِ) کے نیچے زیر ہے خیال سے پڑھیے نیز ضمیمہ ۲۲٥
۱۱۔ ضمیمہ ۲۱٤
۱۲۔ یونس ٦۷ جبکہ «لآیة» کیساتھ النحل ٦٥ میں ہے نیز ضمیمہ ۲۲٥
۱۳۔ ضمیمہ ۲۱٤

۱٤۔ الاعراف ٥٦، الرعد ۱۲ اور السجدة ۱٦ ۱٥۔ ضمیمہ ۱۸ ۱٦۔ الروم ۱۹ و ٥۰ اور الحدید ۱۷
۱۷۔ الرعد ٤ اور النحل ۱۲ نیز ضمیمہ ۲۲٥

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿۲۵﴾ وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۲۶﴾ وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۷﴾ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۲۸﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۲۹﴾ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۳۱﴾ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿۳۲﴾

۵۔ ضمیمہ ۱۹۳
۶۔ النور ۳۳ نیز ضمیمہ ۱۱۷
۷۔ النحل ۷۱
۸۔ الاعراف ۳۲ اور یونس ۲۴
۹۔ ضمیمہ ۹۷
۱۰۔ یونس ۱۰۵ اور الروم ۴۳
۱۱۔ یونس ۶۴
۱۲۔ التوبۃ ۳۶ اور یوسف ۴۰
۱۳۔ ضمیمہ ۱۷۲
۱۴۔ الانعام ۱۵۹
۱۵۔ المؤمنون ۵۳

وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ
اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۳﴾ لِيَكْفُرُوْا
بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۴﴾ اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا
فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا
بِهَا وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ﴿۳۶﴾
اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۳۷﴾ فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ
الْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ
اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۳۸﴾ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۠
فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ
تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿۳۹﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ
خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ هَلْ مِنْ
شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ﴿۴۰﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي
النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۴۱﴾

۴۔ ضمیمہ ۱۵۶
۵۔ یونس ۲۱
۶۔ الشوری ۴۸
۷۔ النسآء ۶۲ ، القصص ۴۷ اور الشوری ۴۸
۸۔ ضمیمہ ۱۹۲
۹۔ ضمیمہ ۱۹۰
۱۰۔ ضمیمہ ۲۰۰ اور ۲۲۵
۱۱۔ الاسرآء ۲۶
۱۲۔ ضمیمہ ۶
۱۳۔ اور ۱۴۔ خیال رہے یہاں ان الفاظ کی تکرار ہے۔
۱۵۔ الروم ۵۴
۱۶۔ البقرۃ ۲۸ اور الحج ۶۶
۱۷۔ یونس ۱۸، النحل ۱ اور الزمر ۶۷ جبکہ «وتعالیٰ» کے بغیر التوبۃ ۳۱ میں اور صرف «تعالی عمّا یشرکون» النحل ۳ میں ہے۔
۱۸۔ ضمیمہ ۱۰۴

ع ۴ — ۱۳ — ۷

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلُ ۭ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ﴿۴۲﴾ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ
الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَىِٕذٍ
يَّصَّدَّعُوْنَ ﴿۴۳﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ﴿۴۴﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۴۵﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ
اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ
الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۴۶﴾ وَ
لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاۗءُوْهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ۭ وَكَانَ حَقًّا
عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۷﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ
فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَاۗءِ كَيْفَ يَشَاۗءُ وَيَجْعَلُهٗ
كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ
مَنْ يَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۴۸﴾ وَاِنْ
كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿۴۹﴾

صفحہ نمبر ۴۱۰ ۱۔ النمل ۶۹ اور العنکبوت ۲۰ نیز الانعام ۱۱ ۲۔ یونس ۱۰۵ اور الروم ۳۰ ۳۔ البقرة ۲۵۴، ابراهیم ۳۱ اور الشوری ۴۷ ۴۔ الشوری ۴۷ ۵۔ فاطر ۳۹ ۶۔ خیال سے پڑھیے یہاں «یَزِیدُهُم» یا «یُزِیدُهُم» استعمال نہیں ہوا نیز النساء ۱۷۳، سبا ۴ اور الشوری ۲۶ ۷۔ ضمیمه ۲۱۴ ۸۔ ضمیمه ۱۹۸ ۹۔ الرعد ۳۸ اور المؤمن ۷۸ ۱۰۔ یونس ۷۴ ۱۱۔ الاعراف ۱۳۶، الحجر ۷۹ اور الزخرف ۲۵ ۱۲۔ فاطر ۹ ۱۳۔ النور ۴۳ ۱۴۔ البقرة ۱۰۵

فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۵۰﴾ وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ﴿۵۱﴾ فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿۵۲﴾ وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۵۳﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ﴿۵۴﴾ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ﴿۵۵﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ؗ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۵۶﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿۵۷﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ﴿۵۸﴾

۴۔ الانبیآء ۴۵ اور النمل ۸۰
۵۔ النمل ۸۰
۶۔ النمل ۸۱
۷۔ الروم ۴۰
۸۔ ضمیمہ ۲۲۹
۹۔ ضمیمہ ۲۱۳
۱۰۔ القصص ۸۰
۱۱۔ المومن ۵۲
۱۲۔ النحل ۸۴ اور الجاثیۃ ۳۵

ع ۵ ‏(۱۴) ۶ قرء حفص بضم الضاد و فتحها فی الثلاثۃ لکن الضم مختارۃ ۱۲

۱۳۔ الاسرآء ۴۱ و ۸۹، الکہف ۵۴ اور الزمر ۲۷ ۔ ۱۴۔ ہود ۷

۱۔ صرف یہیں نیز الاعراف ۱۰۱ ، المؤمن ۳۵ و یونس ۷۴ ۲۔ المؤمن ۵۵ و ۷۷ نیز ضمیمہ ۱۸۴ ۳۔ ضمیمہ ۳ ۴۔ یونس ۱ ۵۔ صرف یہیں نیز یونس ۵۷ ، الاسرآء ۸۲ اور النمل ۷۷

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۵۹﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿۶۰﴾

سُوْرَةُ لُقْمٰنَ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اَرْبَعٌ وَّثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿۱﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿۲﴾ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳﴾ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿۴﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۵﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۶﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۷﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ﴿۸﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۹﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿۱۰﴾

۶۔ النمل ۳ نیز المآئدة ۵۵ ، البقرة ۴ ، الانفال ۳ ، التوبة ۷۱ اور ضمیمہ ۳۰
۷۔ البقرة ۵ نیز ضمیمہ ۶
۸۔ صرف یہیں نیز البقرة ۲۰۷
۹۔ صرف یہیں نیز الحج ۹
۱۰۔ الجاثیة ۹ نیز الحج ۵۷
۱۱۔ صرف یہیں نیز القلم ۱۵ ، المطفّفین ۱۳ اور ضمیمہ ۱۷۳
۱۲۔ صرف یہیں نیز الجاثیة ۸ ، آل عمران ۲۱ ، التوبة ۳۴ ، الانشقاق ۲۴ اور یٰسٓ ۱۱
۱۳۔ ضمیمہ ۹۲
۱۴۔ صرف یہیں نیز الصآفات ۴۳
۱۵۔ ضمیمہ ۵۸

۱۶۔ یونس ۴ ۱۷۔ ضمیمہ ۱۹۳ ۱۸۔ صرف یہیں نیز الرعد ۲ ۱۹۔ صرف یہیں نیز النحل ۱۵
۲۰۔ البقرة ۱۶۴ نیز الشوریٰ ۲۹ ۲۱۔ المؤمنون ۱۸ اور الفرقان ۴۸ نیز ضمیمہ ۱۸ ۲۲۔ صرف یہیں نیز الشعرآء ۷

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۱﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿۱۲﴾ وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۳﴾ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿۱۴﴾ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵﴾ يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۶﴾ يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۱۷﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿۱۸﴾

ع ۱۱ | اتفق النبی صلی اللہ علیہ وسلم | النصف

۵۔ الاحقاف ۱۵
٦۔ الحج ٤٨
۷۔ العنکبوت ۸
۸۔ ھود ٤٦، الاسرآء ۳٦ اور العنکبوت ۸
۹۔ العنکبوت ۸
۱۰۔ آل عمران ۵۵ اور العنکبوت ۸
۱۱۔ العنکبوت ۸
۱۲۔ ضمیمہ ۱۳۰
۱۳۔ لقمان ۱۷
۱٤۔ الحج ٦۳
۱۵۔ لقمان ۱٦

۱٦۔ آل عمران ۱۸٦ اور الشوری ٤۳ ۱۷۔ الاسرآء ۳۷ ۱۸۔ الحج ۳۸

١۔ نوح ١٥ ٢۔ الجاثیة ١٣ نیز ضمیمہ ٨٦ ٣۔ الحج ٣ اور ٨ ٤۔ الحج ٨
٥۔ البقرة ١٧٠ نیز ضمیمہ ١١ ٦۔ البقرة ١٧٠ اور المآئدة ١٠٤ ٧۔ البقرة ١١٢ اور النسآء ١٢٥

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتٰبٍ مُنِيرٍ ﴿٢٠﴾ وَ
إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾
وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا
يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ
عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ لِلَّهِ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ أَنَّمَا
فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ
سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

ع ٢ ٨ ١١

٨۔ البقرة ٢٥٦
٩۔ الحج ٤١
١٠۔ (و) جھوٹ نہ جائے، خیال سے پڑھیے۔
١١۔ آل عمران ١١٩ اور المآئدة ٧ نیز آل عمران ١٥٤ اور التغابن ٤
١٢۔ البقرة ١٢٦
١٣۔ ھود ٥٨ اور حم السجدة ٥٠
١٤۔ الزمر ٣٨ نیز ضمیمہ ١٧٧
١٥۔ العنکبوت ٦٣ نیز ضمیمہ ١
١٦۔ ضمیمہ ١٩٩
١٧۔ ضمیمہ ١٢٧ اور ٥١
١٨۔ الحج ٦٤
١٩۔ البقرة ٢٢٠، الانفال ١٠ اور التوبة ٧١

نیز الانفال ٦٣ اور ضمیمہ ٧٦

صفحہ نمبر ٤١٥ ١۔ الحج ٧٥ اور المجادلة ١ ٢۔ ضمیمه ٨٠ اور ١٩٥ ٣۔ الحج ٦١ ، فاطر ١٣ اور الحدید ٦ ٤۔ ضمیمه ١٨٩ ٥۔ صرف یهیں نیز الرعد ٢ ، فاطر ١٣ اور الزمر ٥ ٦۔ صرف یهیں نیز ضمیمه ٧٩ ٧۔ الحج ٦ اور ٦٢ ٨۔ الحج ٦٢ ٩۔ ضمیمه ٨٠ ١٠۔ الحج ٦٥ ١١۔ ابراهیم ٥ ، سبا ١٩ اور الزخرف ٣٣ نیز ضمیمه ٢٢٥ ١٢۔ ضمیمه ١٦٠ ١٣۔ یونس ٢٣ اور العنکبوت ٦٥ ١٤۔ العنکبوت ٤٧ اور ٤٩ ١٥۔ النسآء ١ اور الحج ١ نیز ضمیمه ١٦ ١٦۔ ضمیمه ١٨٤ ١٧۔ فاطر ٥ ١٨۔ فاطر ٦ ١٩۔ اس آیت میں یهاں پهلی بار.

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٨﴾
اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٩﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٣٠﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ
الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣١﴾ وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ
دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ
فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۭ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٢﴾
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ
عَنْ وَّلَدِهٖ ۡ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ وَعْدَ
اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۥ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ
الْغَرُوْرُ ﴿٣٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَ
يَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ۭ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۭ
وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿٣٤﴾

الٓمّٓ ﴿١﴾

٢٠۔ اس آیت میں یهاں مکرر. ٢١۔ الحجرات ١٣

١۔ ضمیمہ ٣ ٢۔ صرف یہیں نیز یونس ٣٧ ، الزمر ١ و ضمیمہ ٤ ٣۔ ضمیمہ ١٨٢
٤۔ صرف یہیں نیز القصص ٤٦ ، الانبیآء ٣١ ، المؤمنون ٤٩ ، یس ٦ اور ضمیمہ ٣٣ ٥۔ صرف یہیں نیز الانعام ١ ، یونس ٣ اور ابراھیم ٣٢
٦۔ ضمیمہ ١٦٢
٧۔ صرف یہیں نیز الانعام ٥١ و ٧٠ اور الکھف ٢٦
٨۔ الانعام ٨٠ نیز ضمیمہ ١٨٠
٩۔ یونس ٣ اور الرعد ٢ نیز یونس ٣١
١٠۔ صرف یہیں نیز المعارج ٤
١١۔ صرف یہیں نیز الحج ٤٧
١٢۔ صرف یہیں نیز التغابن ١٨ ، المؤمنون ٩٢ اور ضمیمہ ١٤٩ و ٢٠٦
١٣۔ صرف یہیں نیز طه ٥٠
١٤۔ صرف یہیں نیز العنکبوت ٢٠
١٥۔ صرف یہیں نیز المؤمنون ١٢

سُورَةُ السَّجدَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلٰثُونَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

الٓمّٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۗ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤﴾ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٥﴾ ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦﴾ الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٩﴾ وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬ بَلْ هُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٠﴾

١٦۔ الملك ٢٣ نیز النحل ٧٨ ، المؤمنون ٧٨ ، الاعراف ٣ و ١٠ اور سبا ١٣ ١٧۔ خیال سے پڑھیے صرف یہیں نیز الملك ٢٤ ١٨۔ الرعد ٥ نیز سبا ٧ ١٩۔ صرف یہیں نیز الروم ٨

صفحہ نمبر ۴۱۷ ۱۔ الحاثیۃ ۱۵ ۲۔ ضمیمہ ۱۴۲ ۳۔ الفرقان ۵۱ ۴۔ ھود ۱۱۹ نیز صرف «مِن الجنّة والنّاس» الناس ۶ میں ھے۔ ۵۔ الانعام ۱۳۰ ، الزمر ۷۱ اور الحاثیۃ ۳۴ ۶۔ یونس ۵۲

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ
تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۱﴾ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
رَبَّنَاۤ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿۱۲﴾
وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ
لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۳﴾ فَذُوْقُوْا بِمَا
نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴﴾ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا
سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۱۵﴾ السجدۃ تَتَجَافٰى
جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۫ وَّمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۱۶﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ
اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۷﴾ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ
فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ ﴿۱۸﴾ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ
جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۫ نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا
فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَاۤ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَ
قِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿۲۰﴾

۷۔ ضمیمہ ۱۳۰
۸۔ الاعراف ۵۶ ، الرعد ۱۲ اور الروم ۲۴
۹۔ ضمیمہ ۵
۱۰۔ الاحقاف ۱۴ اور الواقعۃ ۲۴ نیز ضمیمہ ۱۵۲
۱۱۔ (و) کے بغیر صرف یھیں حبکہ (و) کیساتھ آل عمران ۵۷ میں اور (ف) کیساتھ النسآء ۱۷۳ ، الروم ۱۵ و الحاثیۃ ۳۰ میں ھے نیز ضمیمہ ۴۲ و ۹۲

وَلَنُذِيقَنَّهُم

۱۲۔ صرف یھیں نیز آل عمران ۱۵۱ ، المآئدۃ ۷۲ ، یونس ۸ اور النور ۵۷ نیز العنکبوت ۲۵
۱۳۔ الحج ۲۲ ۱۴۔ سبا ۴۲ نیز الصآفات ۲۱ اور المطففین ۱۷ نیز المرسلات ۲۹

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾

۵۔ الانبیآء ۷۳ اور القصص ۴۱
۶۔ النمل ۸۲
۷۔ الحج ۱۷
۸۔ ضمیمہ ۵۰
۹۔ طٰه ۱۲۸
۱۰۔ الانعام ۶ اور ص ۳ نیز ضمیمہ ۲۰۲
۱۱۔ طٰه ۱۲۸
۱۲۔ ضمیمہ ۲۲۵
۱۳۔ ضمیمہ ۱۹۲
۱۴۔ صرف یہیں نیز القصص ۷۲، الزخرف ۵۱ اور الذاریات ۲۱
۱۵۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۸۳
۱۶۔ ضمیمہ ۲۰
۱۷۔ الانعام ۱۵۸ اور هود ۱۲۲

سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ ثَلٰثٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّتِسْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ﴿۱﴾ وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ﴿۲﴾ وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ
وَكِيْلًا ﴿۳﴾ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ
اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـئِْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ
اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِى السَّبِيْلَ ﴿۴﴾ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ
فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْۤا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ وَ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَاۤ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۵﴾ اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ
اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى
بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ
تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ﴿۶﴾

نیز النسآء ۳۵ ، ۳۴ و ۵۶ اور ضمیمہ ۱۱۸
۴۔ صرف یہیں نیز الانعام ۱۰۶ اور یونس ۱۰۹
۵۔ النسآء ۹۴
۶۔ النسآء ۸۱ ، الانفال ۶۱ اورالاحزاب ۴۸ نیز آل عمران ۱۵۹ اور النمل ۷۹ ، الانفال ۴۹ ، الطلاق ۳ ، ھود ۱۲۳ ، الفرقان ۵۸ اور الشعرآء ۲۱۷
۷۔ ضمیمہ ۱۲۲
۸۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۲۸۲
۹۔ صرف یہیں نیز التوبۃ ۱۱
۱۰۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۱۹۸
۱۱۔ ضمیمہ ۱۲۶

۱۲۔ «من المؤمنين» کیساتھ صرف یہیں نیز «اِنَّ اللّٰہ» کیساتھ الانفال ۷۵ میں ہے۔ ۱۳۔ الاسرآء ۵۸

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۠ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ⑦ لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ⑧ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ⑨ اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ⑩ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ⑪ وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا ⑫ وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ⑬ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ⑭ وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ۭ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا ⑮

۳۔ المآئدۃ ۱۱ نیز فاطر ۳ اور ضمیمہ ۷۸
۴۔ ضمیمہ ۱۷۰
۵۔ الفتح ۲۴
۶۔ الانفال ۴۹
۷۔ ضمیمہ ۹
۸۔ الاحزاب ۲۲
۹۔ الحشر ۱۲

ع ۱ / ۸ / ۱۷

مع ۱۰ عند المتقدمین ۱۲

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۶﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۷﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۸﴾ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚۖ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿۱۹﴾ يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ؕ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۲۰﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿۲۱﴾ وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ؗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ﴿۲۲﴾

ع ۲ / ۱۸

۵۔ محمد ۲۰
۶۔ النسآء ۳۰ و ۱۶۹ اور الاحزاب ۳۰
۷۔ الممتحنة ۶ نیز الممتحنة ۴
۸۔ (رَ) پر زبر ہے توجہ سے پڑھیے۔
۹۔ الاحزاب ۱۲

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ
مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿۲۳﴾ لِّيَجْزِيَ
اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ
يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۲۴﴾ وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۭ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۭ
وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿۲۵﴾ وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ
الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا
تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿۲۶﴾ وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَ
اَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿۲۷﴾
يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿۲۸﴾
وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ
اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۲۹﴾ يٰنِسَآءَ
النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ
لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿۳۰﴾

ع ۳ / ۷ / ۱۹

اور الفتح ۲۱
۴۔ الاحزاب ۵۹ نیز ضمیمہ ۱۷۶
۵۔ الاحزاب ۲۹
۶۔ الاحزاب ۴۹
۷۔ الاحزاب ۲۸
۸۔ (ةَ) پر زبر ہے توجہ سے پڑھیے۔
۹۔ الاحزاب ۳۲
۱۰۔ النسآء ۱۹ اور الطلاق ۱
۱۱۔ الفرقان ۶۹
۱۲۔ النسآء ۳۰ و ۱۶۹ اور الاحزاب ۱۹

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا
نُّؤْتِهَاۤ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿۳۱﴾ يٰنِسَآءَ
النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿۳۲﴾
وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى
وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ
اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿۳۳﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ
مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿۳۴﴾
اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ
وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ
الْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ
فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ
الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۳۵﴾

«ومن یطع اللّٰہ ورسولہ» النسآء ۱۳ ، النور ۵۲ ، الاحزاب ۷۱ و الفتح ۱۷ میں اور «واقیموا الصلوۃ وآتوا الزکوۃ» ضمیمہ ۳۰ میں ھے۔
۴۔ الفتح ۲۹

۵۔ النسآء ۴۷
۶۔ الاحزاب ۶۲
۷۔ النسآء ۶
۸۔ الفتح ۲۶
۹۔ ضمیمہ ۴۷
۱۰۔ الفتح ۹
۱۱۔ ضمیمہ ۸۸

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ
يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿۳۶﴾ وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ
عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ
مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ۗ فَلَمَّا
قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ اَمْرُ
اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿۳۷﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ۗ سُنَّةَ
اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ﴿۳۸﴾
الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا
اللّٰهَ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ﴿۳۹﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ
وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيْمًا ﴿۴۰﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿۴۱﴾ وَّ
سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿۴۲﴾ هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ
لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿۴۳﴾

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚۖ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿۴۴﴾ يٰۤاَيُّهَا
النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۙ﴿۴۵﴾ وَّدَاعِيًا اِلَى
اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿۴۶﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ
اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿۴۷﴾ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۴۸﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا
نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ
وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿۴۹﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا
لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْۤ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ
مِمَّاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ
خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۫ وَامْرَاَةً
مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ
يَّسْتَنْكِحَهَا ۤ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ قَدْ عَلِمْنَا
مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْۤ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ
لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۵۰﴾

۵۔ النسآء ۸۱ اور الاحزاب ۳
۶۔ ضمیمہ ۱۲۲
۷۔ ضمیمہ ۴۷
۸۔ الاحزاب ۲۸
۹۔ ضمیمہ ۱۷۶
۱۰۔ اور ۱۱۔ دونوں مقامات پر «وَمَا» کیساتھ نیز النسآء ۳۶ اور ضمیمہ ۱۱۷
۱۲۔ الاحزاب ۳۷
۱۳۔ ضمیمہ ۱۲۶

۳۔ ضمیمہ ۱۱۷
۴۔ النور ۲۷ نیز ضمیمہ ۴۷
۵۔ النساء ۱۴۹
۶۔ النساء ۳۲

تُرْجِیْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِیْۤ اِلَیْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَیْتَ
مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤی اَنْ تَقَرَّ اَعْیُنُهُنَّ
وَلَا یَحْزَنَّ وَیَرْضَیْنَ بِمَاۤ اٰتَیْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا
فِیْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِیْمًا حَلِیْمًا ﴿۵۱﴾ لَا یَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ
مِنْۢ بَعْدُ وَلَاۤ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ
حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ یَمِیْنُكَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ
رَّقِیْبًا ﴿۵۲﴾ۧ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُیُوْتَ النَّبِیِّ اِلَّاۤ
اَنْ یُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰی طَعَامٍ غَیْرَ نٰظِرِیْنَ اِنٰىهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا
دُعِیْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِیْنَ
لِحَدِیْثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ یُؤْذِی النَّبِیَّ فَیَسْتَحْیٖ مِنْكُمْ ؗ
وَاللّٰهُ لَا یَسْتَحْیٖ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا
فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ؕ
وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ
مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِیْمًا ﴿۵۳﴾ اِنْ
تُبْدُوْا شَیْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ﴿۵۴﴾

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ
وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا
مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿۵۵﴾ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ
يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ
لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۵۷﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ
بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿۵۸﴾ يٰٓاَيُّهَا
النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۵۹﴾ لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ
وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ
لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۶۰﴾ مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ
اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿۶۱﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي
الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿۶۲﴾

ع ۷ / ۶ / ۴

۴۔ ضمیمہ ۴۷
۵۔ الاحزاب ۵۸
۶۔ ضمیمہ ۷۰
۷۔ النسآء ۳۷، ۱۰۲ اور ۱۵۱
۸۔ الاحزاب ۵۷
۹۔ النسآء ۱۱۲
۱۰۔ النسآء ۲۰ اور ۱۱۲
۱۱۔ الاحزاب ۲۸ نیز ضمیمہ ۱۷۶
۱۲۔ النسآء ۳، المآئدۃ ۱۰۸ اور الاحزاب ۵۱
۱۳۔ ضمیمہ ۱۲۶

معانقۃ ۱۲ عند المتأخرین ۲

۱۴۔ ضمیمہ ۹ ۱۵۔ الاحزاب ۳۸ ۱۶۔ الفتح ۲۳

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿۶۳﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿۶۴﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۶۵﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَاۤ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿۶۶﴾ وَقَالُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّاۤ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿۶۷﴾ رَبَّنَاۤ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿۶۸﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿۶۹﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿۷۰﴾ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿۷۱﴾ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿۷۲﴾ لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۷۳﴾

۵۔ ضمیمہ ۴۷
۶۔ آل عمران ۱۵۶ جبکہ آل عمران ۱۰۵، الانفال ۲۱ و ۴۷ اور الحشر ۱۹ میں (و) کے اضافہ کیساتھ ھے۔
۷۔ ضمیمہ ۴۷ اور ۹۳
۸۔ النسآء ۹
۹۔ آل عمران ۳۱ جبکہ «یغفرلکم» الصف ۱۲ میں ھے۔
۱۰۔ النسآء ۱۳، النور ۵۲ اور الفتح ۱۷
۱۱۔ الفتح ۶
۱۲۔ ضمیمہ ۱۲۶

سُورَةُ سَبَإٍ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَسِتُّ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ① يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ② وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ③ لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ④ وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ⑤ وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ⑥ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ⑦

۱۔ المؤمنون ۳۸ اور الشوری ۲۴ نیز ضمیمہ ۱۳۸ ۲۔ صرف یہیں نیز الاسرآء ۱۰، المؤمنون ۷۴ اور النمل ۴ والنجم ۲۷ ۳۔ صرف یہیں نیز ابراهیم ۱۸ اور الحج ۱۲ ۴۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۹۲ ۵۔ ضمیمہ ۸۷ ۶۔ الاعراف ۹۶، یونس ۳۱، النمل ۶۴ اور فاطر ۳ نیز النحل ۷۳ اور سبا ۲۴

أَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلٰى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنْ نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يٰجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهٖ ۖ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُونَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رّٰسِيٰتٍ ۚ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ إِلَّا دَآبَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهٗ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

ع ۹ ۷

۷۔ صرف یہیں نیز النحل ۴۵ اور الملک ۱۶
۸۔ صرف یہیں نیز الشعرآء ۱۸۷ اور الطور ۴۴
۹۔ ضمیمہ ۲۲۴
۱۰۔ ق ۸
۱۱۔ صرف یہیں نیز النمل ۱۵، النسآء ۱۶۳ اور الاسرآء ۵۵
۱۲۔ صرف یہیں نیز المؤمنون ۵۱
۱۳۔ الانبیآء ۸۱

۱۴۔ خیال سے پڑھیے یہاں «أسلنا» ہے جبکہ دیگر (۵۸) مقامات پر «أرسلنا» ہے۔ ۱۵۔ صرف یہیں نیز فاطر ۶ ۱۶۔ صرف یہیں نیز الاعراف ۱۰، المؤمنون ۷۸، السجدة ۹ اور الملک ۲۳ ۱۷۔ صرف یہیں نیز الزمر ۴۲ ۱۸۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۴۶ ۱۹۔ صرف یہیں نیز الدخان ۳۰

٣٣ نیز ضمیمہ ٢٢٥
٥۔ الصآفات ٣٠
٦۔ الاسرآء ٥٦ نیز ضمیمہ ١٩
٧۔ النسآء ٤٠ ، الزلزال ٧ اور ٨ جبکہ (ل) زبر کیساتھ یونس ٦١ اور پیش کیساتھ سبا ٣ میں آیا ہے۔
٨۔ یونس ١٨ ، سبا ٣ اور فاطر ٤٤

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِیْ مَسْكَنِهِمْ اٰیَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ یَّمِیْنٍ وَّ شِمَالٍ ۬ؕ
كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَّ رَبٌّ
غَفُوْرٌ ﴿۱۵﴾ فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّلْنٰهُمْ
بِجَنَّتَیْهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَوَاتَیْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّ اَثْلٍ وَّ شَیْءٍ مِّنْ سِدْرٍ
قَلِیْلٍ ﴿۱۶﴾ ذٰلِكَ جَزَیْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَ هَلْ نُجٰزِیْۤ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴿۱۷﴾
وَ جَعَلْنَا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْقُرَى الَّتِیْ بٰرَكْنَا فِیْهَا قُرًى ظَاهِرَةً
وَّ قَدَّرْنَا فِیْهَا السَّیْرَ ؕ سِیْرُوْا فِیْهَا لَیَالِیَ وَ اَیَّامًا اٰمِنِیْنَ ﴿۱۸﴾
فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَیْنَ اَسْفَارِنَا وَ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ
اَحَادِیْثَ وَ مَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّكُلِّ
صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۱۹﴾ وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَیْهِمْ اِبْلِیْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ
اِلَّا فَرِیْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۲۰﴾ وَ مَا كَانَ لَهٗ عَلَیْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ
اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ یُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِیْ شَكٍّ ؕ وَ
رَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ ﴿۲۱﴾ ع قُلِ ادْعُوا الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا یَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِی
الْاَرْضِ وَ مَا لَهُمْ فِیْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّ مَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِیْرٍ ﴿۲۲﴾

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ۭ حَتّٰٓى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ۭ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٢٣﴾ قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَّا تُسْـَٔــلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْــَٔـلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۭ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَاۗءَ كَلَّا ۭ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَاۗفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ۭ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ښ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِۨ الْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاۗءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾

٤۔ ضمیمہ ١٨٣
٥۔ ضمیمہ ٢٠
٦۔ صرف یہیں نیز الاعرف ٣٤، یونس ٤٩ اور النحل ٦١
٧۔ ضمیمہ ١٩٤
٨۔ الانعام ٩٣ نیز ضمیمہ ١٤٢
٩۔ البقرۃ ٧٦، الانعام ١١٢ اور التوبة ١٢٧ نیز ضمیمہ ٢٠٤
١٠۔ سبا ٣٣
١١۔ الاعراف ٧٥

وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَ
النَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ وَاَسَرُّوا
النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ
مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۳٤﴾ وَ
قَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿۳۵﴾ قُلْ
اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ
عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۙ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ
جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿۳۷﴾ وَ
الَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ
مُحْضَرُوْنَ ﴿۳۸﴾ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ
مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ
يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿۳۹﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا
ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٤۰﴾

ع ۴ / ۱۰

۵۔ الاعراف ۹٤ اور الزخرف ۲۳
٦۔ حم السجدۃ ۱٤ اور الزخرف ۲٤
۷۔ ضمیمہ ۱۹۰
۸۔ ضمیمہ ۱۷۲
۹۔ الحج ۵۱ اور سبا ۵
۱۰۔ الروم ۱٦
۱۱۔ العنکبوت ٦۲ نیز ضمیمہ ۱۹۰
۱۲۔ ضمیمہ ۱۳۲
۱۳۔ الانعام ۱۲۸ جبکہ یونس ٤۵ اور الفرقان ۱۷ میں «جَمِيعًا» کے بغیر۔

قَالُوا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ
الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿۴۱﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۭ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ
النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿۴۲﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا
بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ
يَعْبُدُ اٰبَاۗؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ۭ وَقَالَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاۗءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۴۳﴾
وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ
قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ﴿۴۴﴾ وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا
مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ ۣ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿۴۵﴾ قُلْ
اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ
تَتَفَكَّرُوْا ۣ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ
بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿۴۶﴾ قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ
فَهُوَ لَكُمْ ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيْدٌ ﴿۴۷﴾ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿۴۸﴾

ع ۵ / ۹ / ۱۱

۳۔ السجدۃ ۲۰ جبکہ «اَلَّتِی كُنْتُم بِهَا تُكَذِّبُوْنَ» الطور ۱۴ میں ہے۔
۴۔ ضمیمہ ۱۷۳
۵۔ القصص ۳۶
۶۔ الاحقاف ۷ نیز ضمیمہ ۱۹۴
۷۔ ضمیمہ ۱۳۱
۸۔ الزمر ۲۵
۹۔ الحج ۴۴، فاطر ۲۶ اور الملك ۱۸ نیز ضمیمہ ۱۹۱
۱۰۔ الاعراف ۱۸۴
۱۱۔ یونس ۷۲
۱۲۔ یونس ۷۲ اور ہود ۲۹
۱۳۔ المآئدۃ ۱۰۹ و ۱۱۶ اور التوبۃ ۷۸

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلٰى نَفْسِيْ ۚ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِيٓ إِلَيَّ رَبِّيْ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾ وَلَوْ تَرٰىٓ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾ وَّقَالُوٓا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَأَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَّقَدْ كَفَرُوا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِيْ شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿٥٤﴾

ع ۶ / ۱۲

سُوْرَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَّأَرْبَعُونَ اٰيَةً وَّخَمْسُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُولِيٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾

۳۔ الفرقان ۱۲ ، سبا ۵۳ اور حم السجدۃ ۴۴ نیز سبا ۵۱ اور ق ۴۱
۴۔ الفرقان ۱۲ ، سبا ۵۲ اور حم السجدۃ ۴۴ نیز سبا ۵۱ اور ق ۴۱
۵۔ الفاتحہ ۲ نیز ضمیمہ ۱
۶۔ الانعام ۱۴ اور ابراھیم ۱۰ نیز «فاطر» (رکے زبر) کیساتھ یوسف ۱۰۱ اور الزمر ۴۶ میں نیز پیش کیساتھ الشوری ۱۱ میں ہے۔
۷۔ النسآء ۳
۸۔ ضمیمہ ۱۵

۹۔ ضمیمہ ۱۹۳ ۱۰۔ ضمیمہ ۱۶ ۱۱۔ صرف یہیں نیز المآئدۃ ۱۱ ، الاحزاب ۹ اور ضمیمہ ۷۸
۱۲۔ یونس ۳۱ ، النمل ۶۴ اور سبا ۲۴ ۱۳۔ ضمیمہ ۵۹ ۱۴۔ الانعام ۹۵ ، یونس ۳۴ اور المومن ۶۲

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝۴ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۪ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝۵ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۭ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝۶ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ڛ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝۷ اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْۗءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَـنًا ۭ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ ڮ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝۸ وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝۹ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۭ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ۭ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۭ وَمَكْرُ اُولٰۗىِٕكَ هُوَ يَبُوْرُ ۝۱۰ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۭ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۭ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝۱۱

ع ۱ ۷ ۱۳

۵۔ لقمان ۳۳
۶۔ لقمان ۳۴
۷۔ النحل ۸۸ اور محمد ۱
۸۔ آل عمران ۴، فاطر ۱۰، ص ۲۶ اور الشوری ۲۶ نیز «ولهم» کیساتھ الشوری ۱۶ میں ہے۔
۹۔ ضمیمہ ۴۲
۱۰۔ هود ۱۱ اور الملك ۱۲
۱۱۔ محمد ۱۴
۱۲۔ النور ۳۰
۱۳۔ الروم ۴۸
۱۴۔ الاعراف ۵۷
۱۵۔ الملك ۱۵
۱۶۔ آل عمران ۴، فاطر ۷، ص ۲۶ اور الشوری ۲۶ نیز الشوری ۱۶
۱۷۔ الانعام ۲ اور المؤمن ۶۷

۱۸۔ الكهف ۳۷، الحج ۵ اور المؤمن ۶۷
۱۹۔ حم السجدة ۴۷ ۲۰۔ الحج ۷۰، العنكبوت ۱۹ اور الحديد ۲۲ نیز «وذلك» کیساتھ التغابن ۷ میں ہے

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۖ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَ
هَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ
حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ
فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ
فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۚ
ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا
يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ
سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ
وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ
إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ
وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾ وَ
لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا
لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنْذِرُ
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ
وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

۵۔ الحج ۶۱، لقمان ۲۹ اور الحدید ۶
۶۔ ضمیمہ ۱۸۹
۷۔ الرعد ۲ اور الزمر ۵
۸۔ الزمر ۶ نیز ضمیمہ ۱۵۱
۹۔ الاعراف ۱۹۷
۱۰۔ ضمیمہ ۱۶
۱۱۔ النسآء ۱۳۳، الانعام ۱۳۳ اور ابراھیم ۱۹
۱۲۔ ابراھیم ۲۰
۱۳۔ ضمیمہ ۱۵۸
۱۴۔ المآئدۃ ۱۰۶ اور الانعام ۱۵۲
۱۵۔ الانبیآء ۴۹ اور الملک ۱۲
۱۶۔ آل عمران ۲۸ اور النور ۴۲

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۝١٩ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ۝٢٠
وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ۝٢١ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَآءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ
إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي
الْقُبُوْرِ ۝٢٢ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ ۝٢٣ إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ
بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۗ وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ۝٢٤
وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝٢٥ ثُمَّ
أَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝٢٦ أَلَمْ تَرَ أَنَّ
اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا
أَلْوَانُهَا ۗ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ۝٢٧ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ
وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ۝٢٨ إِنَّ الَّذِيْنَ
يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوْا مِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۝٢٩

ع ۳ ۱۲ ۱۵

۳۔ البقرة ۱۱۹
۴۔ الحج ۴۲ اور فاطر ۴
۵۔ آل عمران ۱۸۴
٦۔ الحج ۴۴ ، سبا ۴۵ اور الملك ۱۸ نیز ضمیمه ۱۹۱
۷۔ ضمیمه ۸۰ اور ۱۹۵
۸۔ الحج ٦۳ اور الزمر ۲۱ نیز ضمیمه ۱۸
۹۔ الانعام ۹۹ اور طه ۵۳ نیز البقرة ۲۲ اور ابراهیم ۳۲
۱۰۔(ہٗ) پر زبر ہے خیال سے پڑھیے۔
۱۱۔ البقرة ۲۷۴ ،الرعد ۲۲ اور ابراهیم ۳۱

صفحہ نمبر۴۳۹ ۱۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۵۷ و النسآء ۱۷۳ اور النسآء ۱۵۲ ۲۔ النور ۳۸ نیز النسآء ۱۷۳
اور الشوری ۲٦ ۳۔صرف یہیں نیز فاطر ۳٤ اور الشوری ۲۳ ٤۔الشوری ۱۳ نیز النسآء ۱٦۳ اور الرعد ۳۰

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ
شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا
الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ
وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ
هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ
فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا
لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ
لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا
يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾
وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا
غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن
تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾

ع ۱۱ ۱٦

۵۔آل عمران ۳
٦۔ صرف یہیں نیز الشوری ۲۷
۷۔ الشوری ۲۲
۸۔الرعد ۲۳ اور النحل ۳۱ جبکہ «یُحلّون فیھا» کو خیال سے پڑھیے۔
۹۔ الحج ۲۳ نیز الکھف ۳۱
۱۰۔ صرف یہیں نیز الاعراف ٤۳ ، الزمر ۷٤ اور النمل ۱۵ و ضمیمه ۱۳۵
۱۱۔صرف یہیں نیز فاطر ۳۰
۱۲۔صرف یہیں نیز الحجر ٤۸
۱۳۔صرف یہیں نیز ق ۳۸
۱٤۔ضمیمه ۲۵
۱۵۔صرف یہیں نیز النحل ۸۵

۱٦۔ صرف یہیں نیز طه ۱۲۷ اور القمر ۳۵ ۱۷۔النسآء ۷۵ اور المؤمنون ۱۰۷
۱۸۔السجدۃ ۱۲ نیز الاحزاب ۳۱ ۱۹۔ الاعراف ۵۳ ۲۰۔ صرف یہیں نیز المآئدۃ ۱۹
۲۱۔ صرف یہیں نیز الحج ۷۱ اور البقرۃ ۲۷۰ ، آل عمران ۱۹۲ و المآئدۃ ۷۲

اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۳۸﴾ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ ؕ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ؕ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ﴿۳۹﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ﴿۴۰﴾ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿۴۱﴾ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿۴۲﴾ اِۨسْتِكْبَارًا فِي الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ؕ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ؕ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ﴿۴۳﴾

٥ـ اور ٦ـ ایک ہی آیت میں دو بار۔
٧ـ ضمیمہ ١٤٦
٨ـ ضمیمہ ١٩
٩ـ الاحقاف ٤
١٠ـ الاسراء ٤٤
١١ـ الانعام ١٠٩، النحل ٣٨ اور النور ٥٣ نیز المائدۃ ٥٣
١٢ـ محمد ١٨ اور ٢٢

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ
اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ
إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا
كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

ع ٥ ٨ ١٧

سُوْرَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَلٰثٌ وَّثَمَانُوْنَ اٰيَةً وَّخَمْسُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يس ﴿١﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ عَلَىٰ
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا
أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى
الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

ص ٤٤١ ١۔ الروم ٩ و المؤمن ٢١ نیز یوسف ١٠٩ ، الحج ٤٦ ، المؤمن ٨٢ و محمد ١٠ ، الانعام ١١ ، النمل ٦٩، العنکبوت ٢٠ و الروم ٤٢ اور آل عمران ١٣٧ و النحل ٣٦ ٢۔ ضمیمہ ٢٢٨ ٣۔ صرف یہیں نیز الروم ٩، التوبۃ ٦٩ ، المؤمن ٢١ و ٨٢ اور حم السجدۃ ١٥ ٤۔ یونس ١٨ ، سبا ٣ و ٢٢ نیز المآئدۃ ٩٧ و ضمیمہ ٨٦

٥۔ صرف یہیں نیز النحل ٦١
٦۔ الاعراف ٣٤ و النحل ٦١ نیز یونس ٤٩ والمنافقون ١١
٧۔ صرف یہیں نیز الاسرآء ٣٠ و ٩٦ اور الاسرآء ١٧ و الانشقاق ١٥
٨۔ صرف یہیں نیز الحجر ٨٧
٩۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ٢٥٢
١٠۔ ضمیمہ ١٤٥
١١۔ صرف یہیں نیز الزمر ١ و حم السجدۃ ٢
١٢۔ صرف یہیں نیز القصص ٤٦ اور السجدۃ ٣
١٣۔ صرف یہیں نیز الروم ٧
١٤۔ الانعام ١٢ و ٢٠ اور الانفال ٥٥ نیز مریم ٣٩ ، الانبیآء ٣٠ اور الانشقاق ٢٠
١٥۔ الاعراف ٢٧ اور الکہف ٧ و ٥٧ نیز ص ٢٦ ، النمل ٨٦ و العنکبوت ٦٧ ، الانعام ١١٢ و ١٢٣ اور الفرقان ٣١ و سبا ٣٣
١٦۔ صرف یہیں نیز الاعراف ١٩٨

ص۴۴۲ ۱۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۶ و المنافقون ۶ ، الاعراف ۱۹۳ و الطور ۱۶ اور الرعد ۱۰ ، ابراهیم ۲۱ و الشعرآء ۱۳۶ ۲۔ صرف یہیں نیز قٓ ۳۳ ۳۔ صرف یہیں نیز الحدید ۱۱ و ۱۸ ۴۔ صرف یہیں نیز الحجر ۲۳ و قٓ ۴۳ ۵۔ النبا ۲۹ ۶۔ صرف یہیں نیز الحجر ۷۹ ۷۔ صرف یہیں نیز الکهف ۳۲ اور الکهف ۴۵ ۸۔ صرف یہیں نیز یٰسٓ ۱۶ ۹۔ صرف یہیں نیز ابراهیم ۱۰ ، الشعرآء ۱۵۴ و ۱۸۶ ، هود ۲۷ اور ابراهیم ۱۱

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۰﴾ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿۱۱﴾ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۲﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۱۳﴾ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿۱۴﴾ قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿۱۵﴾ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿۱۶﴾ وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۷﴾ قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۸﴾ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۗ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۲۰﴾ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۲۱﴾

ع ۱

۱۰۔ صرف یہیں نیز الانعام ۹۱ اور الملك ۹
۱۱۔ صرف یہیں نیز یٰسٓ ۱۴
۱۲۔ صرف یہیں نیز النحل ۳۵ ، النور ۵۴ العنکبوت ۱۸ اور المآئدة ۹۲ ، التغابن ۱۲ و الشوری ۴۸
۱۳۔ صرف یہیں نیز هود ۴۸
۱۴۔ صرف یہیں نیز النمل ۴۷

۱۵۔ الاعراف ۸۱ نیز الشعرآء ۱۶۶ ، النمل ۴۷ اور ۵۵
۱۶۔ صرف یہیں نیز القصص ۲۰
۱۷۔ صرف یہیں نیز الانعام ۹۰ ، هود ۵۱ اور الشوری ۲۳
۱۸۔ الانعام ۸۲

وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّيٓ إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾

۵۔ الحجر ۱۱، الانبیآء ۲، الشعرآء ۵ اور الزخرف ۷
۶۔ ضمیمہ ۱۳۶
۷۔ ضمیمہ ۲۰۲
۸۔ یس ۵۳ اور ۷۵
۹۔ یس ۳۷ اور ۴۱
۱۰۔ البقرۃ ۲۶۶ اور الاسرآء ۹۱
۱۱۔ یس ۷۳
۱۲۔ الزخرف ۱۲
۱۳۔ یس ۳۳ اور ۴۱

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ
قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ
لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۭ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ
يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾
وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾ وَاِذَا
قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَ
مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَاِذَا
قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَاۗءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ ڰ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٧﴾
وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُوْنَ
اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ
مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا
مِنْ مَّرْقَدِنَا ۘ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾

٤۔ الشعرآء ١١٩ اور الصآفات ١٤٠
٥۔ الشعرآء ٤
٦۔ یس ٢٣
٧۔ ضمیمہ ١١
٨۔ ضمیمہ ١١١
٩۔ الانعام ٤
١٠۔ ضمیمہ ١١
١١۔ مریم ٧٣
١٢۔ الملک ٩ نیز ضمیمہ ١٥٠
١٣۔ ضمیمہ ١٨٣
١٤۔ ضمیمہ ٢٠
١٥۔ ضمیمہ ٢١٥
١٦۔ یوسف ٦٢
١٧۔ الکھف ٩٩، الزمر ٦٨ اور ق ٢٠

ع ١٨ ٣ ٢

وقف لازم · وقف منزل · وقف غفران

١٨۔ الانبیآء ١٤ ، الصآفات ٢٠ اور القلم ٣١

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ
أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فٰكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلٰلٍ
عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فٰكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾
سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيٓ اٰدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَّأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هٰذَا صِرٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ
مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ اَلْيَوْمَ
نَخْتِمُ عَلٰٓى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرٰطَ فَأَنّٰى
يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا
مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا
يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهٗ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ
مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٧٠﴾

٤۔ حم السجدة ٣١
٥۔ ضمیمہ ٦٠
٦۔ ضمیمہ ١٠٠
٧۔ الرحمن ٤٣
٨۔ ضمیمہ ١٥٥
٩۔ یس ٦٧
١٠۔ یس ٦٦
١١۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ٣١

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾ اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ ۙ ﴿٧٩﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨٠﴾ اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۗ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

وقف لازم — وقف غفران — ع ١٦ / ٤

سُوْرَةُ الصّٰفّٰتِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَّاثْنَتَانِ وَّثَمَانُوْنَ اٰيَةً وَّخَمْسُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ ﴿١﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ ﴿٢﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ ﴿٣﴾

المنزل ٦

٥۔ یٰس ٣٢ اور ٥٣
٦۔ یونس ٦٥
٧۔ البقرة ٧٧، ہود ٥ اور النحل ٢٣
٨۔ النحل ٤
٩۔ «خَلق» کیساتھ صرف یہیں نیز البقرة ٢٩، الانعام ١٠١ اور الحدید ٣

١٠۔ الاسرآء ٩٩، حم السجدة ١٥ اور الاحقاف ٣٣ ١١۔ المومنون ٨٨ ١٢۔ ضمیمہ ٨٢

ص۴۴۷ ۱۔ صرف یہیں نیز الانبیآء ۱۰۸ اور العنکبوت ۴۶ ۲۔ مریم ۶۵ ، الشعرآء ۲۴ اور ص ۶۶ نیز الدخان ۷ و النبا ۳۷ ۳۔ صرف یہیں نیز المعارج ۴۰ ۴۔ صرف یہیں نیز حم السجدۃ ۱۲ اور الملک ۵ ۵۔ المعارج ۳۹ نیز الدھر ۲۸ ۶۔ ضمیمہ ۱۳۱ ۷۔ المؤمنون ۸۲ اور الواقعۃ ۴۷ نیزالصآفات ۵۳ ، المؤمنون ۳۵ اور الاسرآء ۴۹ و ۹۸ ۸۔ الواقعۃ ۴۸ ۹۔ خیال سے پڑھیے صرف یہیں نیز الاعراف ۴۴ و الاعراف ۱۱۴ اور الشعرآء ۴۲ ۱۰۔ النازعات ۱۳ ۱۱۔ صرف یہیں نیز الزمر ۶۸ اور النازعات ۱۴ ۱۲۔ صرف یہیں نیز الانبیآء ۱۴ ، یس ۵۲ اور القلم ۳۱ ۱۳۔ صرف یہیں نیز الواقعۃ ۵۶

إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ

الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا

مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى وَيُقْذَفُونَ

مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ

الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ

مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾

وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَّسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِنْ

هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ ءَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾

أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ

وَّاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هٰذَا

يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾ اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا

وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَاهْدُوهُمْ إِلٰى

صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ

هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَلْ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾

۱۴۔ المرسلات ۳۸ ۱۵۔ السجدۃ ۲۰ اور المطففین ۱۷ نیز سبا ۴۲ و الطور ۱۴ اور المرسلات ۲۹
۱۶۔ صرف یہیں نیز سبا ۴۰ ۱۷۔ ضمیمہ ۱۹ ۱۸۔ صرف یہیں نیز الدخان ۴۷ اور الصآفات ۵۵
۱۹۔ الطور ۲۵ نیز الصآفات ۵۰ ، القلم ۳۰ اور ضمیمہ ۲۰۴ ۲۰۔ صرف یہیں نیز الطور ۲۶

وما كان لنا عليكم من سلطن بل كنتم قوما طغين ﴿۳۰﴾ فحق علينا
قول ربنا انا لذآئقون ﴿۳۱﴾ فاغوينكم انا كنا غوين ﴿۳۲﴾ فانهم
يومئذ في العذاب مشتركون ﴿۳۳﴾ انا كذلك نفعل بالمجرمين ﴿۳۴﴾
انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ﴿۳۵﴾ ويقولون
ائنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون ﴿۳۶﴾ بل جآء بالحق وصدق
المرسلين ﴿۳۷﴾ انكم لذآئقوا العذاب الاليم ﴿۳۸﴾ وما تجزون الا ما
كنتم تعملون ﴿۳۹﴾ الا عباد الله المخلصين ﴿۴۰﴾ اولٰئك لهم رزق
معلوم ﴿۴۱﴾ فواكه وهم مكرمون ﴿۴۲﴾ في جنت النعيم ﴿۴۳﴾ على سرر
متقبلين ﴿۴۴﴾ يطاف عليهم بكاس من معين ﴿۴۵﴾ بيضآء لذة
للشربين ﴿۴۶﴾ لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ﴿۴۷﴾ وعندهم
قصرت الطرف عين ﴿۴۸﴾ كانهن بيض مكنون ﴿۴۹﴾ فاقبل بعضهم
على بعض يتسآءلون ﴿۵۰﴾ قال قآئل منهم اني كان لي قرين ﴿۵۱﴾
يقول ائنك لمن المصدقين ﴿۵۲﴾ ءاذا متنا وكنا ترابا وعظاما
ءانا لمدينون ﴿۵۳﴾ قال هل انتم مطلعون ﴿۵۴﴾ فاطلع
فراه في سوآء الجحيم ﴿۵۵﴾ قال تالله ان كدت لتردين ﴿۵۶﴾

صفحہ نمبر ۴۴۸ ۱۔ صرف یہیں نیز ابراهیم ۲۲ اور سبا ۲۱ ۲۔ الزخرف ۳۹ ۳۔صرف یہیں نیز المرسلات ۱۸ ۴۔ محمد ۱۹ ۵۔ المؤمن ۶۰ نیز المآئدة ۸۲ ، الاعراف ۲۰۶ و الانبیآء ۱۹ ، النحل ۴۹ اور السجدة ۱۵

۶۔ صرف یہیں نیز النمل ۹۰ ، یس ۵۴ اور ضمیمہ ۲۱۲
۷۔ ضمیمہ ۲۱۶
۸۔ صرف یہیں نیز الانبیآء ۲۶ اور المعارج ۳۵
۹۔ یونس ۹ ، الحج ۵۶ اور الواقعة ۱۲ نیز لقمان ۸ ، الطور ۱۷ ، الواقعة ۸۹ ، القلم ۳۴ ، المآئدة ۶۵ اور المعارج ۳۸
۱۰۔ الحجر ۴۷ نیز الطور ۲۰ اور الواقعة ۱۵
۱۱۔ الزخرف ۷۱ و الدهر ۱۵ نیز الطور ۲۴ و الدهر ۱۹ اور الواقعة ۱۷
۱۲۔ صرف یہیں نیز الواقعة ۱۸
۱۳۔ محمد ۱۵

۱۴۔ صرف یہیں نیز الواقعة ۱۹ ۱۵۔ صرف یہیں نیز ص ۵۲ اور الرحمن ۵۶ ۱۶۔ صرف یہیں نیز الصآفات ۲۷ ۱۷۔ یوسف ۱۰ اور الکهف ۱۹ ۱۸۔ صرف یہیں نیز الصآفات ۱۶
۱۹۔ صرف یہیں نیز الصآفات ۲۳

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝ اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ۝ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ۝ اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ۝ اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ۝ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ۝ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ۝ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ۝ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِ۟لَى الْجَحِيْمِ ۝ اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ۝ فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ۝ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۝ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝ وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۝ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ۝ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝

ع ٣

٥۔ (عَ) پر زبر ہے توجہ سے پڑھیے۔
٦۔ یونس ٧٣ نیز ضمیمہ ١٦٧
٧۔ ضمیمہ ٢١٦
٨۔ الانبیآء ٧٦ اور الشعرآء ١٧٠
٩۔ الانبیآء ٧٦ اور الصآفات ١١٥
١٠۔ الصآفات ١٠٨، ١١٩ اور ١٢٩
١١۔ الصآفات ١٠٩، ١٢٠ اور ١٣٠
١٢۔ ضمیمہ ٢١٧
١٣۔ الصآفات ١١١، ١٢٢ اور ١٣٢
١٤۔ الشعرآء ٦٦ اور ١٢٠

وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ﴿۸۳﴾ اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿۸۴﴾

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۸۵﴾ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ

تُرِيْدُوْنَ ﴿۸۶﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۸۷﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ ﴿۸۸﴾

فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ ﴿۸۹﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ﴿۹۰﴾ فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ

فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿۹۱﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ﴿۹۲﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ

ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ﴿۹۳﴾ فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ﴿۹۴﴾ قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا

تَنْحِتُوْنَ ﴿۹۵﴾ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۹۶﴾ قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا

فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ ﴿۹۷﴾ فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿۹۸﴾

وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ﴿۹۹﴾ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ

الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۰۰﴾ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿۱۰۱﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ

يٰبُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ

يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿۱۰۳﴾ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿۱۰۴﴾

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۰۵﴾

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿۱۰۶﴾ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۰۷﴾

۴۔ الصآفات ۹۱ اور الذاریات ۲۶
۵۔ الانبیاء ۷۰
۶۔ الشعرآء ۸۳
۷۔ الحجر ۵۳ اور الذاریات ۲۸
۸۔ الکہف ۶۹ اور القصص ۲۷ نیز ضمیمہ ۳۹
۹۔ ضمیمہ ۲۱۷
۱۰۔ النمل ۱۶ اور الصآفات ۶۰

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿۱۰۸﴾ سَلٰمٌ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ ﴿۱۰۹﴾ كَذٰلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۱۰﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۱﴾ وَبَشَّرْنٰهُ
بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۱۲﴾ وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰۤى اِسْحٰقَ ؕ وَ
مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ﴿۱۱۳﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى
مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿۱۱۴﴾ وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۱۵﴾
وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿۱۱۶﴾ وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿۱۱۷﴾
وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۱۱۸﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي
الْاٰخِرِيْنَ ﴿۱۱۹﴾ سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿۱۲۰﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۲۱﴾ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۲۲﴾ وَاِنَّ اِلْيَاسَ
لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۲۳﴾ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۲۴﴾ اَتَدْعُوْنَ
بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخٰلِقِيْنَ ﴿۱۲۵﴾ اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ
الْاَوَّلِيْنَ ﴿۱۲۶﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿۱۲۷﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ
الْمُخْلَصِيْنَ ﴿۱۲۸﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿۱۲۹﴾ سَلٰمٌ عَلٰۤى
اِلْ يَاسِيْنَ ﴿۱۳۰﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۱﴾ اِنَّهٗ مِنْ
عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۳۲﴾ وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۳۳﴾

۶۔ الانبیآء ۷۶ اور الصآفات ۷۶
۷۔ الانبیآء ۷۷
ع ۳ / ۳۹ / ۷
۸۔ توجہ سے پڑھیے۔
۹۔ الصآفات ۷۸ ، ۱۰۸ اور ۱۲۹
۱۰۔ الصآفات ۷۹ ، ۱۰۹ اور ۱۳۰
۱۱۔ ضمیمہ ۲۱۷
۱۲۔ الصآفات ۸۱ ، ۱۱۱ اور ۱۳۲
۱۳۔ الصآفات ۱۳۳
۱۴۔ ضمیمہ ۲۰۷
۱۵۔ المؤمنون ۱۴
۱۶۔ الشعرآء ۲۶ اور الدخان ۸

۱۷۔ الصآفات ۱۵۸ ۱۸۔ ضمیمہ ۲۱۶ ۱۹۔ الصآفات ۷۸ و ۱۰۸ اور الاسرآء ۱۱۹ ۲۰۔ الصآفات ۷۹ ، ۱۰۹ اور ۱۲۰ ۲۱۔ ضمیمہ ۲۱۷ ۲۲۔ الصآفات ۸۱ ، ۱۱۱ اور ۱۲۲ ۲۳۔ الصآفات ۱۲۳

اِذْ نَجَّیْنٰهُ وَ اَهْلَهٗۤ اَجْمَعِیْنَ ﴿۱۳۴﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِی الْغٰبِرِیْنَ ﴿۱۳۵﴾ ثُمَّ
دَمَّرْنَا الْاٰخَرِیْنَ ﴿۱۳۶﴾ وَ اِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَیْهِمْ مُّصْبِحِیْنَ ﴿۱۳۷﴾ وَ بِالَّیْلِ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۳۸﴾ وَ اِنَّ یُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ﴿۱۳۹﴾ اِذْ اَبَقَ اِلَى
الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿۱۴۰﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِیْنَ ﴿۱۴۱﴾
فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَ هُوَ مُلِیْمٌ ﴿۱۴۲﴾ فَلَوْ لَاۤ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِیْنَ ﴿۱۴۳﴾
لَلَبِثَ فِیْ بَطْنِهٖۤ اِلٰى یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ﴿۱۴۴﴾ فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَ هُوَ
سَقِیْمٌ ﴿۱۴۵﴾ وَ اَنْۢبَتْنَا عَلَیْهِ شَجَرَةً مِّنْ یَّقْطِیْنٍ ﴿۱۴۶﴾ وَ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى
مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ یَزِیْدُوْنَ ﴿۱۴۷﴾ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِیْنٍ ﴿۱۴۸﴾
فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنٰتُ وَ لَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿۱۴۹﴾ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓىِٕكَةَ
اِنَاثًا وَّ هُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿۱۵۰﴾ اَلَاۤ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَیَقُوْلُوْنَ ﴿۱۵۱﴾
وَلَدَ اللّٰهُ وَ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۵۲﴾ اَصْطَفَى الْبَنٰتِ عَلَى الْبَنِیْنَ ﴿۱۵۳﴾
مَا لَكُمْ كَیْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿۱۵۴﴾ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۱۵۵﴾ اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ
مُّبِیْنٌ ﴿۱۵۶﴾ فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۱۵۷﴾ وَ جَعَلُوْا بَیْنَهٗ
وَ بَیْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿۱۵۸﴾
سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یَصِفُوْنَ ﴿۱۵۹﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِیْنَ ﴿۱۶۰﴾

۵۔ الشعرآء ۱۱۹ اور یٰس ۴۱
۶۔ القلم ۴۹
۷۔ یونس ۹۸
۸۔ یونس ۳۵ اور القلم ۳۶
۹۔ ضمیمہ ۱۸۰
۱۰۔ ضمیمہ ۲۰
۱۱۔ الصافات ۱۲۷
۱۲۔ المؤمنون ۹۱
۱۳۔ ضمیمہ ۲۱۶

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

ع ۵ ۹

سُورَةُ صٓ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٍ وَثَمَانُونَ آيَةً وَخَمْسُ رُكُوعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

صٓ ۚ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿٢﴾ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوا وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴿٣﴾

۴۔ ضمیمہ ۱۸۷
۵۔ الصآفات ۱۷۹
۶۔ الشعرآء ۲۰۴
۷۔ الصآفات ۱۷۴، الذاریات ۵۴ اور القمر ۶
۸۔ ضمیمہ ۱۸۷
۹۔ الصآفات ۱۷۵
۱۰۔ الانعام ۴۵ نیز ضمیمہ ۱ اور ۲
۱۱۔ الانعام ۶ اور السحدۃ ۲۶ نیز ضمیمہ ۲۰۲

وَعَجِبُوٓا اَنۡ جَآءَهُمۡ مُّنۡذِرٌ مِّنۡهُمۡ وَقَالَ الۡكٰفِرُوۡنَ هٰذَا سٰحِرٌ
كَذَّابٌ ۝٤ اَجَعَلَ الۡاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَىۡءٌ عُجَابٌ ۝٥
وَانۡطَلَقَ الۡمَلَاُ مِنۡهُمۡ اَنِ امۡشُوۡا وَاصۡبِرُوۡا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمۡ ۖۚ اِنَّ هٰذَا
لَشَىۡءٌ يُّرَادُ ۝٦ مَا سَمِعۡنَا بِهٰذَا فِى الۡمِلَّةِ الۡاٰخِرَةِ ۖۚ اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّا
اخۡتِلَاقٌ ۝٧ ءَاُنۡزِلَ عَلَيۡهِ الذِّكۡرُ مِنۡۢ بَيۡنِنَا ؕ بَلۡ هُمۡ فِىۡ شَكٍّ مِّنۡ
ذِكۡرِىۡ ۚ بَلۡ لَّمَّا يَذُوۡقُوۡا عَذَابِ ۝٨ اَمۡ عِنۡدَهُمۡ خَزَآئِنُ رَحۡمَةِ
رَبِّكَ الۡعَزِيۡزِ الۡوَهَّابِ ۝٩ اَمۡ لَهُمۡ مُّلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا
بَيۡنَهُمَا ۟ فَلۡيَرۡتَقُوۡا فِى الۡاَسۡبَابِ ۝١٠ جُنۡدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهۡزُوۡمٌ مِّنَ
الۡاَحۡزَابِ ۝١١ كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوۡحٍ وَّعَادٌ وَّفِرۡعَوۡنُ ذُو الۡاَوۡتَادِ ۝١٢
وَثَمُوۡدُ وَقَوۡمُ لُوۡطٍ وَّاَصۡحٰبُ لۡـَٔيۡكَةِ ؕ اُولٰٓئِكَ الۡاَحۡزَابُ ۝١٣ اِنۡ
كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝١٤ وَمَا يَنۡظُرُ هٰٓؤُلَآءِ
اِلَّا صَيۡحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنۡ فَوَاقٍ ۝١٥ وَقَالُوۡا رَبَّنَا
عَجِّلۡ لَّنَا قِطَّنَا قَبۡلَ يَوۡمِ الۡحِسَابِ ۝١٦ اِصۡبِرۡ عَلٰى مَا
يَقُوۡلُوۡنَ وَاذۡكُرۡ عَبۡدَنَا دَاوٗدَ ذَا الۡاَيۡدِ ۚ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ۝١٧
اِنَّا سَخَّرۡنَا الۡجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحۡنَ بِالۡعَشِىِّ وَالۡاِشۡرَاقِ ۝١٨

ع ١٤ ١٠

٦۔ الطور ٣٧
٧۔ المؤمن ٥، ق ١٢ اور القمر ٩
٨۔ الحج ٤٢ جبکہ «وَاصحب الرّس» ق ١٢ میں ہے۔
٩۔ ق ١٤
١٠۔ ق ١٤
١١۔ ضمیمہ ٢١٥
١٢۔ ص ٤١، ٤٥ اور ٤٨
١٣۔ ص ٣٠ اور ٤٤

وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ
وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾
إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ
بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ
سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ
نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ
ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ
مَآبٍ ﴿٢٥﴾ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ
الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا
يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ
ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

٤۔ ص ٢٤
٥۔ ص ٢٦
٦۔ خيال سے پڑھیے ، پهلے والی (ۃ) پر دو زبر هيں.
٧۔ ص ٢٢ نيز ضميمه ٢٠٤
٨۔ ضميمه ٢١٠
٩۔ ص ٤٠
١٠۔ الرعد ٢٩ اور ص ٤٠
١١۔ ص ٢٢
١٢۔ آل عمران ٤ ، فاطر ٧ و ١٠ اور الشورى ٢٦ جبكه «وَلَهُم» كيساتھ الشورى ١٦ ميں هے.

١٣۔ الانبياء ١٦ ١٤۔ مريم ٣٧ اور الذاريات ٦٠

٦۔ الدخان ١٧
٧۔ آل عمران ٨
٨۔ ابراھیم ٤٩
٩۔ ص ٢٥
١٠۔ الرعد ٢٩ اور ص ٢٥
١١۔ ص ١٧، ٤٥ اور ٤٨
١٢۔ الانبیاء ٨٣
١٣۔ مریم ٥٠ اور ٥٣
١٤۔ الانبیاء ٨٤

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِیْنَ فِی الْاَرْضِ ز
اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِیْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَیْكَ مُبٰرَكٌ
لِّیَدَّبَّرُوْٓا اٰیٰتِهٖ وَلِیَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٩﴾ وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَیْمٰنَ ط
نِعْمَ الْعَبْدُ ط اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٣٠﴾ ط اِذْ عُرِضَ عَلَیْهِ بِالْعَشِیِّ الصّٰفِنٰتُ
الْجِیَادُ ﴿٣١﴾ لا فَقَالَ اِنِّیْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّیْ ج حَتّٰی
تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ قف رُدُّوْهَا عَلَیَّ ط فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَ
الْاَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمٰنَ وَاَلْقَیْنَا عَلٰی كُرْسِیِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ
اَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِیْ وَهَبْ لِیْ مُلْكًا لَّا یَنْۢبَغِیْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ
بَعْدِیْ ج اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّیْحَ تَجْرِیْ بِاَمْرِهٖ
رُخَآءً حَیْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾ لا وَالشَّیٰطِیْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ لا وَّاٰخَرِیْنَ
مُقَرَّنِیْنَ فِی الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَیْرِ
حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰی وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٠﴾ ع وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ
اَیُّوْبَ م اِذْ نَادٰی رَبَّهٗٓ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الشَّیْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ﴿٤١﴾ ط
اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ج هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ
اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰی لِاُولِی الْاَلْبَابِ ﴿٤٣﴾

ع ٣ ١٢ وقف لازم

ص۴۵۷ ۱۔ ص ۳۰ نیز صرف «اِنّه اَوّاب» ص ۱۷ میں هے۔ ۲۔ صرف یهیں نیز ص ۱۷، ۴۱ و ۴۸ و الاحقاف ۲۱ اور ضمیمه ۲۰۱ ۳۔ ص ۴۸ ۴۔ صرف یهیں نیز ص ۴۵ اور ضمیمه ۲۰۱ ۵۔ صرف یهیں نیز الانبیآء ۸۵ اور ص ۴۷ ۶۔ الانبیآء ۲۴ نیز الانبیآء ۵۰ ۷۔ صرف یهیں نیز القلم ۳۴ والنبا ۳۱ اور الدخان ۵۱

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۗ

نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۴۴﴾ وَاذْكُرْ عِبٰدَنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ

اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ﴿۴۵﴾ اِنَّاۤ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى

الدَّارِ ﴿۴۶﴾ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ﴿۴۷﴾ وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ

وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۗ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿۴۸﴾ هٰذَا ذِكْرٌ ۗ وَاِنَّ

لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿۴۹﴾ جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿۵۰﴾

مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ﴿۵۱﴾

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿۵۲﴾ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ

الْحِسَابِ ﴿۵۳﴾ اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ﴿۵۴﴾ هٰذَا ۗ وَاِنَّ

لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿۵۵﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿۵۶﴾ هٰذَا

فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ﴿۵۷﴾ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ ﴿۵۸﴾ هٰذَا

فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۗ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿۵۹﴾ قَالُوْا

بَلْ اَنْتُمْ ۖ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۗ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿۶۰﴾

قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى النَّارِ ﴿۶۱﴾

وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿۶۲﴾

۸۔ صرف یهیں نیز آل عمران ۱۴، الرعد ۲۹ اور ص ۲۵ و ۴۰
۹۔ صرف یهیں نیز الکهف ۳۱ و الدهر ۱۳
۱۰۔صرف یهیں نیز الدخان ۵۵
۱۱۔ ص ۴۲
۱۲۔صرف یهیں نیز الصافات ۴۸
الربع
۱۳۔صرف یهیں نیز ق ۳۲
۱۴۔صرف یهیں نیز النبا ۲۲
۱۵۔ ابراهیم ۲۹ جبکه «جهنّم» (م) کے پیش کیساتھ المحادلة ۸ میں هے۔

۱۶۔ صرف یهیں نیز البقرة ۲۰۶، آل عمران ۱۲ و ۱۹۷ اور الرعد ۱۸ ۱۷۔ صرف یهیں نیز ص ۶۰
۱۸۔ صرف یهیں نیز ص ۵۹ ۱۹۔ صرف یهیں نیز ابراهیم ۲۹ ۲۰۔ صرف یهیں نیز الاعرف ۳۸

١۔ صرف یہیں نیز یوسف ٣٩ ، الرعد ١٦ ، ابراھیم ٤٨ و المؤمن ١٦ اور الزمر ٤ ٢۔ الصآفات ٥ ٣۔ الزمر ٥ جبکہ المؤمن ٤٢ میں « العزیز الغفّار » (ز) کی زیر کیساتھ ہے۔ ٤۔ صرف یہیں نیز البقرة ٨٣ ٥۔ آل عمران ٤٤

أَتَّخَذْنَٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ
تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ
الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ
الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا
كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِن يُوحَىٰ
إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي
خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي
فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا
إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ
أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ
الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ
مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ
لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ
يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَىٰ يَوْمِ
الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾

ع ٤ ٢٤ ١٣

٦۔ صرف یہیں نیز العنکبوت ٥٠ اور الملك ٢٦
٧۔ صرف یہیں نیز البقرة ٣٠ اور الحجر ٢٨
٨۔ الحجر ٢٩
٩۔ الحجر ٣٠
١٠۔ ضمیمه ٢٣
١١۔ صرف یہیں نیز البقرة ٣٤ اور الزمر ٥٩
١٢۔ خیال سے پڑھیے نیز الحجر ٣٢ ، الاعراف ١٢ اور طه ٩٢
١٣۔ الاعراف ١٢
١٤۔ الحجر ٣٤ نیز الاعراف ١٣ اور الاعراف ١٨

١٥۔ خیال سے پڑھیے یہاں « علیك لعنتی » جبکہ « علیك اللعنة » الحجر ٣٥ میں ہے۔ ١٦۔ الحجر ٣٦ نیز الاعراف ١٤ ١٧۔ الحجر ٣٧ نیز الاعرف ١٥ ١٨۔ الحجر ٣٨ ١٩۔ خیال سے پڑھیے نیز الاعراف ١٦ اور الحجر ٣٩ ٢٠۔ صرف یہیں نیز الحجر ٣٩

ص٤٥٩ ١ـ الحجر ٤٠ نیز ضمیمه ٢١٦ ٢ـ صرف یهیں نیز الحجر ٤١ ٣ـ صرف یهیں نیز الاعراف ١٨ ٤ـ الفرقان ٥٧ نیز ضمیمه ٢٠٩ ٥ـ یوسف ١٠٤ اور التکویر ٢٧ نیز الانعام ٩٠ اور القلم ٥٢ ٦ـ الجاثیة ٢ اور الاحقاف ٢ نیز المؤمن ٢ اور السجدة ٢ ٧ـ النسآء ١٠٥ نیز المآئدة ٤٨ ، الزمر ٤١ اور العنکبوت ٥١

اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اَقُوْلُ ﴿٨٤﴾
لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٥﴾ قُلْ
مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴿٨٦﴾ اِنْ
هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ﴿٨٨﴾

ع ٥ (٢٤) ١٤

سُوْرَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّثَمَانُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ
الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ﴿٢﴾ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ
الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا
لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ
يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ لَوْ اَرَادَ
اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ
هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ
يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿٥﴾

٨ـ الزمر ١١ نیز ضمیمه ١٦٠
٩ـ الشوری ٦ نیز الشوری ٩ اور ضمیمه ١٥٩
١٠ـ صرف یهیں نیز المآئدة ١ اور آل عمران ٢٣
١١ـ صرف یهیں نیز ضمیمه ٥٠
١٢ـ صرف یهیں نیز المؤمن ٢٨ و ٣٤ اور البقره ٢٦٤
١٣ـ ضمیمه ٢٢٩
١٤ـ البقرة ١١٦ ، النسآء ١٧١ ، الانعام ١٠٠ ، التوبة ٣١ ، یونس ١٨ و ٦٨ ، النحل ١ و ٥٧ ، الاسرآء ٤٣ ، مریم ٣٥ ، الانبیآء ٢٦ ، الروم ٤٠ اور الزمر ٤ و ٦٧

١٥ـ صرف یهیں نیز ص ٦٥
١٦ـ ابراهیم ١٩ ، النحل ٣ اور التغابن ٣ نیز الانعام ٧٣ ، العنکبوت ٤٤ ، الجاثیة ٢٢ ، الروم ٨ اور الاحقاف ٣
١٧ـ ضمیمه ١٨٩ ١٨ـ الرعد ٢ اور فاطر ١٣ نیز لقمان ٢٩ ١٩ـ صرف یهیں نیز ص ٦٦

خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم
من الأنعام ثمنية أزواج يخلقكم في بطون أمهتكم خلقا من
بعد خلق في ظلمت ثلث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله
إلا هو فأنى تصرفون (٦) إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا
يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة
وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون
إنه عليم بذات الصدور (٧) وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه
منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه
من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع
بكفرك قليلا إنك من أصحب النار (٨) أمن هو قنت آناء
الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما
يتذكر أولوا الألباب (٩) قل يعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم
للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله
واسعة إنما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب (١٠)

٤۔ ضمیمہ ٥٩
٥۔ ضمیمہ ١٥٨
٦۔ المآئدة ٤٨ اور الانعام ١٦٤
٧۔ ضمیمہ ١٣٠
٨۔ ضمیمہ ١٧٤
٩۔ یونس ١٢، الروم ٣٣ اور الزمر ٤٩
١٠۔ ابراهیم ٣٠
١١۔ الرعد ١٩
١٢۔ الزمر ٥٣
١٣۔ النحل ٣٠ اور ٤١

قُلْ اِنِّیْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّیْنَ ﴿١١﴾ وَ اُمِرْتُ لِاَنْ
اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿١٢﴾ قُلْ اِنِّیْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ
یَوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿١٣﴾ قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِیْنِیْ ﴿١٤﴾ فَاعْبُدُوْا مَا
شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ؕ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِیْنَ الَّذِیْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَ
اَهْلِیْهِمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِیْنُ ﴿١٥﴾ لَهُمْ مِّنْ
فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ یُخَوِّفُ اللّٰهُ
بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ یٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴿١٦﴾ وَ الَّذِیْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ
یَّعْبُدُوْهَا وَ اَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِیْنَ
یَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ
وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٨﴾ اَفَمَنْ حَقَّ عَلَیْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ؕ
اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِی النَّارِ ﴿١٩﴾ لٰكِنِ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ
فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِیَّةٌ ۙ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا یُخْلِفُ
اللّٰهُ الْمِیْعَادَ ﴿٢٠﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ یَنَابِیْعَ
فِی الْاَرْضِ ثُمَّ یُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ یَهِیْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا
ثُمَّ یَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِی الْاَلْبَابِ ﴿٢١﴾

ع ١٢/٢ ١٦

٥۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ١٦٠
٦۔ ضمیمہ ٢٣٠
٧۔ الشوریٰ ٤٥
٨۔ الحج ١١
٩۔ الانعام ٩٠ نیز ضمیمہ ١٣
١٠۔ آل عمران ١٩٨
١١۔ ضمیمہ ٢١
١٢۔ الروم ٦
١٣۔ ضمیمہ ٨٠ اور ١٩٥
١٤۔ الحج ٦٣ اور فاطر ٢٧ نیز ضمیمہ ١٨
١٥۔ النحل ١٣
١٦۔ الحدید ٢٠
١٧۔ ق ٣٧

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٢﴾ اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾ اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٥﴾ فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْىَ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾

الزمر ٣٦ اور المؤمن ٣٣ نیز ضمیمہ ١٢٤
٦۔ الزمر ٤٧
٧۔ صرف یہیں نیز الاعراف ٣٩ اور یونس ٥٢
٨۔ سبا ٤٥
٩۔ النحل ٢٦ اور ٤٥
١٠۔ یونس ٩٨ اور حم السجدة ١٦
١١۔ حم السجدة ١٦ اور القلم ٣٣
١٢۔ ضمیمہ ٤٦
١٣۔ الاسراء ٤١ و ٨٩، الكهف ٥٤ اور الروم ٥٨
١٤۔ ضمیمہ ٧٣
١٥۔ ضمیمہ ٦٣
١٦۔ النحل ٧٦
١٧۔ ہود ٢٤ ١٨۔ ضمیمہ ١ ١٩۔ ضمیمہ ١٩٩ ٢٠۔ المومنون ١٦

ع ٣ ١٧

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ
اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۲﴾ وَالَّذِىْ جَآءَ
بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۳۳﴾ لَهُمْ مَّا
يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۴﴾ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ
عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ
الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۳۵﴾ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَيُخَوِّفُوْنَكَ
بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿۳۶﴾
وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ
ذِى انْتِقَامٍ ﴿۳۷﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ
ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ
حَسْبِىَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۳۸﴾ قُلْ يٰقَوْمِ
اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۹﴾
مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿۴۰﴾

٥ـ المآئدة ٨٥
٦ـ النحل ٩٦ اور ٩٧
٧ـ الرعد ٣٣، الزمر ٢٣ اور المؤمن ٣٣ نیز ضمیمہ ١٢٤
٨ـ لقمان ٢٥ نیز ضمیمہ ١٧٧
٩ـ صرف یہیں نیز ضمیمہ ١٤٦
١٠ـ الاحقاف ٤ نیز ضمیمہ ١٩
١١ـ التوبة ١٢٩
١٢ـ یوسف ٦٧ اور ابراهیم ١٢ نیز ضمیمہ ١١٠
١٣ـ الانعام ١٣٥ اور هود ٩٣
١٤ـ ضمیمہ ١٥٦
١٥ـ هود ٣٩ اور ٩٣

إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُل لِّلَّهِ الشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْءَاخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ عَٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَٰدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لَافْتَدَوْا بِهِۦ مِن سُوٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾

یونس ١٠٨ میں ھے۔
٣ ـ سبا ١٤
٤ ـ الرعد ٣ ، الروم ٢١ اور الجاثیة ١٣ نیز ضمیمه ٢٢٥
٥ ـ الانبیآء ٢١ و ٢٤ اور الشوری ٩
٦ ـ ضمیمه ١٩
٧ ـ ضمیمه ٤٩
٨ ـ البقرة ٢٨ اور الروم ١١
٩ ـ آل عمران ٢٦
١٠ ـ یوسف ١٠١
١١ ـ صرف یهیں نیز ضمیمه ١٤٩
١٢ ـ ضمیمه ٥٠
١٣ ـ المآئدة ٣٦ اور الرعد ١٨
١٤ ـ الزمر ٢٤
١٥ ـ الزمر ٤٨ اور الجاثیة ٣٣

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٨﴾ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٥٠﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥١﴾ اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾ وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٥٤﴾ وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

الروم ٣٣ اور الزمر ٨
٥۔ القصص ٧٨
٦۔ ضمیمه ١٤٣
٧۔ الحجر ٨٤ اور المؤمن ٨٢ جبکه «ما كانوا يكسبون» المطففين ١٤ میں هے.
٨۔ النحل ٣٤
٩۔ الزمر ٤٨
١٠۔ الزمر ٤٨
١١۔ ضمیمه ١٩٠
١٢۔ ضمیمه ٢٠٠ اور ٢٢٥
١٣۔ الزمر ١٠ نیز ابراهیم ٣١ اور العنكبوت ٥٦
١٤۔ یوسف ٩٨ اور القصص ١٦
١٥۔ الزمر ٥٥
١٦۔ هود ١١٣
١٧۔ الزمر ٥٤
١٨۔ الحجرات ٢

ع ٥ ١١ ٢

اَوۡ تَقُوۡلَ لَوۡ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِىۡ لَـكُنۡتُ مِنَ الۡمُتَّقِيۡنَ ﴿۵۷﴾ اَوۡ
تَقُوۡلَ حِيۡنَ تَرَى الۡعَذَابَ لَوۡ اَنَّ لِىۡ كَرَّةً فَاَكُوۡنَ مِنَ
الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿۵۸﴾ بَلٰى قَدۡ جَآءَتۡكَ اٰيٰتِىۡ فَكَذَّبۡتَ بِهَا وَاسۡتَكۡبَرۡتَ
وَكُنۡتَ مِنَ الۡكٰفِرِيۡنَ ﴿۵۹﴾ وَيَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيۡنَ كَذَبُوۡا
عَلَى اللّٰهِ وُجُوۡهُهُمۡ مُّسۡوَدَّةٌ ؕ اَلَيۡسَ فِىۡ جَهَنَّمَ مَثۡوًى
لِّلۡمُتَكَبِّرِيۡنَ ﴿۶۰﴾ وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اتَّقَوۡا بِمَفَازَتِهِمۡ ۚ لَا
يَمَسُّهُمُ السُّوۡٓءُ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ ﴿۶۱﴾ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىۡءٍ ۚ وَّ
هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ وَّكِيۡلٌ ﴿۶۲﴾ لَهٗ مَقَالِيۡدُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ وَ
الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ ﴿۶۳﴾ قُلۡ
اَفَغَيۡرَ اللّٰهِ تَاۡمُرُوۡٓنِّىۡۤ اَعۡبُدُ اَيُّهَا الۡجٰهِلُوۡنَ ﴿۶۴﴾ وَلَقَدۡ
اُوۡحِىَ اِلَيۡكَ وَاِلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِكَ ۚ لَئِنۡ اَشۡرَكۡتَ
لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡخٰسِرِيۡنَ ﴿۶۵﴾ بَلِ اللّٰهَ
فَاعۡبُدۡ وَكُنۡ مِّنَ الشّٰكِرِيۡنَ ﴿۶۶﴾ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ
قَدۡرِهٖ ۖ وَالۡاَرۡضُ جَمِيۡعًا قَبۡضَتُهٗ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ
مَطۡوِيّٰتٌۢ بِيَمِيۡنِهٖ ؕ سُبۡحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ ﴿۶۷﴾

العنکبوت ٦٨ اور الزمر ٣٢
٥۔ الانعام ١٠٢ جبکہ « وَاللّٰہ » کیساتھ ہود ١٢ میں ہے۔
٦۔ الشوری ١٢
٧۔ ضمیمہ ٢٥
٨۔ البقرۃ ٢٧ ، الانفال ٣٧ ، اور العنکبوت ٥٢
٩۔ الانعام ٩١ اور الحج ٧٤
١٠۔ یونس ١٨ ، النحل ١ اور الروم ٤٠ جبکہ « وتعالی » کے بغیر التوبۃ ٣١ میں اور صرف « تعالی عمّا یشرکون » النحل ٣ میں استعمال ہوا ہے۔

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ
اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿۶۸﴾
وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِآئَ بِالنَّبِيّٖنَ
وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۶۹﴾ وَوُفِّيَتْ
كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿۷۰﴾ ع وَسِيْقَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ
اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ
يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ
هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۷۱﴾
قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى
الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿۷۲﴾ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ
حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿۷۳﴾ وَقَالُوا
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ
نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿۷۴﴾

٣۔ النمل ٨٧
٤۔ یونس ٤٧ و ٥٤ اور الزمر ٧٥
٥۔ آل عمران ٣٠ اور النحل ١١١
٦۔ الزمر ٧٣
٧۔ الانعام ١٣٠
٨۔ الانعام ١٣٠، السجدة ١٤ اور الجاثية ٣٤
٩۔ النحل ٢٩ اور المومن ٧٦
١٠۔ ضمیمه ٥٨
١١۔ النحل ٢٩ اور المومن ٧٦
١٢۔ الزمر ٧١
١٣۔ ضمیمه ١٤٧
١٤۔ الاعراف ٤٣ اور فاطر ٣٤ جبکه

«وَقَالَا الحمدُ» النمل ١٥ میں آیا ہے نیز ضمیمه ١ اور ١٣٥ ١٥۔ آل عمران ١٣٦ اور العنکبوت ٥٨

١ـ المؤمن ٧ اور الشوری ٥ ٢ـ الزمر ٦٩ نیز یونس ٤٧ و ٥٤ ٣ـ صرف یہیں نیز یونس ١٠ اور ضمیمہ ٢ ٤ـ ضمیمہ ٢١٨ ٥ـ صرف یہیں نیز الزمر ١ ٦ـ صرف یہیں نیز المآئدة ٢

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٥﴾

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَّثَمَانُوْنَ اٰيَةً وَّتِسْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٢﴾ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿٣﴾ مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴿٤﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۢ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾ وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٦﴾ اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٧﴾

٧ـ ضمیمہ ٥٩
٨ـ صرف یہیں نیز ق ٤٣
٩ـ صرف یہیں نیز المؤمن ٣٥، ٥٦ و ٦٩ اور الرعد ١٣
١٠ـ صرف یہیں نیز ضمیمہ ٧ اور ٢١٠
١١ـ صرف یہیں نیز آل عمران ١٩٦
١٢ـ الحج ٤٢، ص ١٢، ق ١٢ اور القمر ٩
١٣ـ صرف یہیں نیز الکہف ٥٦
١٤ـ صرف یہیں نیز الرعد ٣٢ اور ضمیمہ ١٩١

١٥ـ صرف یہیں نیز یونس ٣٣ اور ٩٦ ١٦ـ صرف یہیں نیز ضمیمہ ٢٧ ١٧ـ صرف یہیں نیز الزمر ٧٥ اور الشوری ٥ ١٨ـ صرف یہیں نیز الشوری ٥ ١٩ـ صرف یہیں جبکہ « وَوَقَاهم عذاب الجحيم » الدخان ٥٦ میں اور « وَوَقَاهم ربّهم عذاب الجحيم » الطور ١٨ میں ہے۔

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ﴿۸﴾ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ؕ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۹﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ﴿۱۰﴾ قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿۱۱﴾ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ؕ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ﴿۱۲﴾ هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ؕ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿۱۳﴾ فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۱۴﴾ رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۙ﴿۱۵﴾ يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿۱۶﴾

جبکہ « العزیز الکریم » کیساتھ الدخان ٤٩ میں ہے
٣۔ التوبة ١١١
٤۔ ضمیمہ ٧
٥۔ آل عمران ٦، یونس ٢٢ اور الحدید ٩
٦۔ ضمیمہ ١٦٠
٧۔ النحل ٢

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۷﴾ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى

الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ؕ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ

يُّطَاعُ ؕ ﴿۱۸﴾ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ﴿۱۹﴾

وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا

يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿۲۰﴾ اَوَلَمْ

يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ

كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى

الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ

مِنْ وَّاقٍ ﴿۲۱﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲۲﴾ وَلَقَدْ

اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۳﴾ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ

هَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿۲۴﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ

بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْۤا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ﴿۲۵﴾

٤۔ الروم ۹ اور فاطر ٤٤
۵۔ ضمیمه ۲۲۸
٦۔ آل عمران ۱۱ اور الانفال ۵۲
۷۔ الرعد ۳٤
۸۔ التغابن ٦
۹۔ الانفال ۵۲
۱۰۔ هود ۹٦ ، ابرهیم ۵ ،
۱۱۔ المؤمنون ٤۵ اور الزخرف ٤٦
۱۱۔ ص ٤
۱۲۔ یونس ۷٦ اور القصص ٤۸
۱۳۔ « اَلَّذِيْنَ » کیساتھ صرف یہیں جبکہ « آمنوا » کے بغیر الاعراف ٦٤ و ۷۲ ، الفتح ۲۹ اور الممتحنة ٤ نیز « والذین آمنوا مَعَه » ۷ بار ھے۔
۱٤۔ المؤمن ۳۷
۱۵۔ الرعد ۱٤ اور المؤمن ۵۰

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ۭ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾ يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۡ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ۭ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۭ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾

٤۔ المؤمن ٣٤
٥۔ المؤمن ٣٢، ٣٠، ٣٨، ٣٩ اور ٤١ جبکہ «یا قوم» ٣٥ بار آیا ھے۔
٦۔ المؤمن ٣٨
٧۔ المؤمن ٣٨
٨۔ المؤمن ٣٢
٩۔ التوبة ٧٠ اور ابراھیم ٩
١٠۔ ابراھیم ٩
١١۔ هود ٢٩، ٣٠، ٥٢، ٦٤، ٨٥، ٨٩ و ٩٣ اور المؤمن ٤١ نیز «یا قوم» ٣٥ بار ضمیمه ١٠٤٤ ھے۔
١٢۔ المؤمن ٣٠

ع ٣/٧/٨

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۖ حَتّٰۤى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ﴿٣٤﴾ ۚۖ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ؕ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْۤ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ ۙ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ؕ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٧﴾ ۧ وَقَالَ الَّذِيْۤ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾ ۚ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۫ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

ع ٤ / ١٠ / ٩

٤۔ المومن ٤ ، ٥٦ اور ٦٩
٥۔ المومن ٥٦
٦۔ الصف ٣
٧۔ الاعراف ١٠١ اور الروم ٥٩ جبکہ « كَذٰلِكَ نَطْبَعُ » یونس ٧٤ میں ہے۔
٨۔ القصص ٣٨ اور المومن ٢٦
٩۔ القصص ٣٨
١٠۔ القصص ٣٨
١١۔ الرعد ٣٣
١٢۔ المومن ٢٥
١٣۔ المومن ٣٠
١٤۔ المومن ٢٩
١٥۔ المومن ٢٩ ، ٣٢ اور ٤١ جبکہ کل ٣٥ بار آیا ہے۔

١٦۔ الانعام ١٦٠ ١٧۔ النسآء ١٢٤ اور مریم ٦٠

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ﴿۴۱﴾
تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۡ وَّ
اَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿۴۲﴾ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ
اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ
اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿۴۳﴾ فَسَتَذْكُرُوْنَ
مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۭ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ
بِالْعِبَادِ ﴿۴۴﴾ فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ
بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿۴۵﴾ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا
غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۣ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ
فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿۴۶﴾ وَاِذْ يَتَحَاۗجُّوْنَ فِي النَّارِ
فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰۗؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ
تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿۴۷﴾
قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ
بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿۴۸﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ
ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿۴۹﴾

۲۔ هود ۴۷ خیال رہے کہ «بہٖ» اس آیت میں دو بار شامل ہے۔
۳۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۷۰
۴۔ صرف یہیں نیز «واللّٰہُ» کیساتھ آل عمران ۱۵ اور ۲۰ میں آیا ہے۔
۵۔ «ءُ» پر پیش ہے خیال سے پڑھیے۔
۶۔ ضمیمہ ۲۱۳
۷۔ ابراهیم ۲۱

قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ قَالُوْا بَلٰى ؕ
قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۟﴿۵۰﴾ ع ۱۳
اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿۵۱﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ
مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿۵۲﴾ وَلَقَدْ
اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿۵۳﴾
هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿۵۴﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ
اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿۵۵﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ
بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ
مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ
الْبَصِيْرُ ﴿۵۶﴾ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ
خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۵۷﴾ وَ
مَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۵۸﴾

الانبیآء ۴۸
۵۔ الجاثیة ۱۶
۶۔ المؤمن ۷۷
۷۔ ضمیمه ۱۸۴
۸۔ طه ۱۳۰ ، ق ۳۹ اور الطور ۴۸
۹۔ آل عمران ۴۱
۱۰۔ المؤمن ۴ ، ۳۵ اور ۶۹
۱۱۔ المؤمن ۳۵
۱۲۔ الاعراف ۲۰۰ اور حم السجدة ۳۶
۱۳۔ الاسرآء ۱
۱۴۔ ضمیمه ۱۷۲
۱۵۔ الانعام ۵۰ ، الرعد ۱۶ اور فاطر ۱۹
۱۶۔ ضمیمه ۴۲
۱۷۔ الانعام ۸۰ اور السجدة ۴

١۔ الحجر ٨٥ نیز «لاریبَ فیھا» الکھف ٢١، الحج ٧ و الجاثیة ٣٢ میں اور «لا ریب فیه» ضمیمه ٤ میں ہے۔

اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦١﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۡ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٦٢﴾ كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٦٣﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاۗءَ بِنَاۗءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ښ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٤﴾ هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٥﴾ قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاۗءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّيْ ۡ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٦﴾

ع ١٠ ٦ ١١

٢۔ هود ١٧ اور الرعد ١ نیز ضمیمه ١٧٢
٣۔ المؤمن ٦٤ اور ٧٩
٤۔ یونس ٦٧
٥۔ البقرة ٢٤٣ اور یونس ٦٠
٦۔ البقرة ٢٤٣ اور یوسف ٣٨
٧۔ الانعام ١٠٢ نیز ضمیمه ١٥١
٨۔ ضمیمه ٥٩
٩۔ الانعام ٩٥، یونس ٣٤ اور فاطر ٣
١٠۔ المؤمن ٦١ اور ٧٩
١١۔ ضمیمه ٢٢٦
١٢۔ التغابن ٣

١٣۔ ضمیمه ١٥١ ١٤۔ المؤمنون ١٤ ١٥۔ ضمیمه ٥٩ ١٦۔ ضمیمه ١٦٠
١٧۔ الفاتحه ٢ نیز ضمیمه ١ اور ٢ ١٨۔ الانعام ٥٦ نیز ضمیمه ١٩

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا
وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا
يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي
آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا
أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي
أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي
النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾
مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا مِن
قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ
تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾
ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى
الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ
بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾

ع ۸ / ۱۲

معانقة ۱۳ عند المتأخرين

۴۔ (و) کیساتھ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۴۰
۵۔ ضمیمہ ۸۹
۶۔ البقرۃ ۱۱۷ ، آل عمران ۴۷ اور مریم ۳۵
۷۔ ضمیمہ ۸۰ اور ۸۱
۸۔ المؤمن ۴ ، ۳۵ اور ۵۶
۹۔ ضمیمہ ۱۹۶
۱۰۔ الرعد ۵
۱۱۔ الانبیآء ۴۳ اور القمر ۴۸
۱۲۔ ضمیمہ ۱۹
۱۳۔ الاعراف ۳۷
۱۴۔ ضمیمہ ۱۷۱
۱۵۔ النحل ۲۹ اور الزمر ۷۲

۱۶۔ ضمیمہ ۵۸ ۱۷۔ النحل ۲۹ اور الزمر ۷۲ ۱۸۔ المؤمن ۵۵ ۱۹۔ ضمیمہ ۱۸۴
۲۰۔ یونس ۴۶ اور الرعد ۴۰ ۲۱۔ مریم ۴۰

وَلَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا رُسُلًا مِّنۡ قَبۡلِكَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ قَصَصۡنَا عَلَيۡكَ وَمِنۡهُمۡ مَّنۡ لَّمۡ نَقۡصُصۡ عَلَيۡكَ ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوۡلٍ اَنۡ يَّاۡتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَمۡرُ اللّٰهِ قُضِىَ بِالۡحَـقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الۡمُبۡطِلُوۡنَ ﴿۷۸﴾ اَللّٰهُ الَّذِىۡ جَعَلَ لَـكُمُ الۡاَنۡعَامَ لِتَرۡكَبُوۡا مِنۡهَا وَمِنۡهَا تَاۡكُلُوۡنَ ﴿۷۹﴾ وَلَـكُمۡ فِيۡهَا مَنَافِعُ وَلِتَبۡلُغُوۡا عَلَيۡهَا حَاجَةً فِىۡ صُدُوۡرِكُمۡ وَعَلَيۡهَا وَعَلَى الۡـفُلۡكِ تُحۡمَلُوۡنَ ﴿۸۰﴾ وَيُرِيۡكُمۡ اٰيٰتِهٖ ۖ ۗ فَاَىَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنۡكِرُوۡنَ ﴿۸۱﴾ اَفَلَمۡ يَسِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَيَنۡظُرُوۡا كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ؕ كَانُوۡۤا اَكۡثَرَ مِنۡهُمۡ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الۡاَرۡضِ فَمَاۤ اَغۡنٰى عَنۡهُمۡ مَّا كَانُوۡا يَكۡسِبُوۡنَ ﴿۸۲﴾ فَلَمَّا جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُمۡ بِالۡبَيِّنٰتِ فَرِحُوۡا بِمَا عِنۡدَهُمۡ مِّنَ الۡعِلۡمِ وَحَاقَ بِهِمۡ مَّا كَانُوۡا بِهٖ يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ ﴿۸۳﴾ فَلَمَّا رَاَوۡا بَاۡسَنَا قَالُوۡۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحۡدَهٗ وَكَفَرۡنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشۡرِكِيۡنَ ﴿۸٤﴾ فَلَمۡ يَكُ يَنۡفَعُهُمۡ اِيۡمَانُهُمۡ لَمَّا رَاَوۡا بَاۡسَنَا ؕ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِىۡ قَدۡ خَلَتۡ فِىۡ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الۡكٰفِرُوۡنَ ﴿۸۵﴾

ع ٨/١٠/١٣ — ع ٩/٧/١٤

۵۔ الحج ۳۳ اور المؤمنون ۲۱
٦۔ المؤمنون ۲۲
۷۔ یوسف ۱۰۹، الحج ٤٦ اور محمد ۱۰
۸۔ ضمیمہ ۲۲۸
۹۔ الحجر ۸٤ اور الزمر ۵۰ جبکہ «مَا كَانُوا يكسبون» المطففين ۱٤ میں ہے۔
۱۰۔ ضمیمہ ۱۸۵
۱۱۔ المؤمن ۸۵ جبکہ سابقہ آیت (۸۳) کی ابتدا بھی «فَلَمَّا» سے ہوئی ہے۔
۱۲۔ المؤمن ۸٤
۱۳۔ الفتح ۲۳
۱٤۔ المؤمن ۷۸

١ـ ضميمه ٢١٨ ٢ـ الفاتحة ٣ اور النمل ٣٠ جبكه « الرحمنُ » كيساته البقرة ١٦٣ اور الحشر ٢٢ ميں هے.

سُوْرَةُ حٰمٓ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اَرْبَعٌ وَّخَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّسِتُّ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

حٰمٓ ① تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ② كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ③ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ④ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ⑤ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ⑥ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ⑦ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ⑧ قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ۗ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ⑨ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ۭ سَوَاۗءً لِّلسَّاۗىِٕلِيْنَ ⑩ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَاۗءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۭ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَاۗىِٕعِيْنَ ⑪

٣ـ هود ٦٢ اور ابراهيم ٩

٤ـ الكهف ١١٠ جبكه « بَشر مثلكم » كے بغير الانبياء ١٠٨ ميں هے.

٥ـ النحل ٢٢، الكهف ١١٠ اور الانبياء ١٠٨ جبكه « و » كيساته البقرة ١٦٣ اور « ف » كيساته الحج ٣٤ ميں هے.

٦ـ هود ١٩ اور يوسف ٣٧ جبكه الاعراف ٤٥ ميں « هُم » كى كمى كيساته.

٧ـ ضميمه ٩٢

٨ـ الانشقاق ٢٥ اور التين ٦ ٩ـ سبا ٣٣ ١٠ـ الرعد ٣ ١١ـ التوبة ٥٣

فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ۚ
وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ
الْعَلِيْمِ ﴿١٢﴾ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ
عَادٍ وَّثَمُوْدَ ﴿١٣﴾ اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ
خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ۚ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً
فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾ فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي
الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ
الَّذِيْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿١٥﴾
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْۤ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ
عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ
لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١٦﴾ وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى
فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٧﴾ وَ
نَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿١٨﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ
اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٩﴾ حَتّٰۤى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ
عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٠﴾

٤۔ الشوریٰ ٤٨
٥۔ الاعراف ١٧ جبکہ «یدیہ» اور «خلفِہ» کیساتھ الرعد ١١، الاحقاف ٢١ اور الجن ٢٧ میں نیز ضمیمہ ٨٧
٦۔ ہود ٢ و ٢٦ اور الاحقاف ٢١
٧۔ المومنون ٢٤
٨۔ سبا ٣٤ اور الزخرف ٢٤
٩۔ ضمیمہ ١٧١
١٠۔ الاسرآء ٩٩ اور الاحقاف ٣٣ نیز ضمیمہ ١٩٢
١١۔ ضمیمہ ١٧٠
ع ٢ ١٠ ١٦
١٢۔ القمر ١٩
١٣۔ یونس ٩٨ اور الزمر ٢٦
١٤۔ الزمر ٢٦ اور القلم ٣٣

وَقَالُوْا

١٥۔ صرف یہیں.　١٦۔ ضمیمہ ١٥٥　١٧۔ النمل ٥٣　١٨۔ یونس ٦٣، یوسف ٥٧ اور النمل ٥٣
١٩۔ النمل ١٧ اور ٨٣　٢٠۔ النمل ٨٤　٢١۔ حم السجدة ٢٢　٢٢۔ ضمیمہ ١٥٢

۵۔ الاحقاف ۱۸
۶۔ ضمیمہ ۱۶۱
۷۔ الاحقاف ۱۸
۸۔ ضمیمہ ۱۹۴
۹۔ ضمیمہ ۱۰۱
۱۰۔ العنکبوت ۷

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ۭ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ
الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۱﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ
سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ
لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۲﴾ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ
ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۲۳﴾ فَاِنْ
يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ
الْمُعْتَبِيْنَ ﴿۲۴﴾ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاۗءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ
اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا
خٰسِرِيْنَ ﴿۲۵﴾ ع ۳ ۱۷ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِھٰذَا الْقُرْاٰنِ
وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿۲۶﴾ فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۷﴾ ذٰلِكَ جَزَاۗءُ اَعْدَاۗءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا
دَارُ الْخُلْدِ ۭ جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿۲۸﴾

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿۲۹﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۳۰﴾ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿۳۱﴾ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ﴿۳۲﴾ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۳۳﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ﴿۳۴﴾ وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿۳۵﴾ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۳۶﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۳۷﴾ فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ ﴿۳۸﴾ السجدة

ع ۴ / ۷ / ۱۸

۵۔ یٰس ۵۷
۶۔ «ر» کے نیچے دو زیر ہیں خیال سے پڑھیے۔
۷۔ المؤمنون ۹۶
۸۔ القصص ۸۰ نیز اس آیت میں یہاں پہلی بار۔
۹۔ ہود ۱۱
۱۰۔ القصص ۸۰ نیز اس آیت میں مکرر۔
۱۱۔ القصص ۷۹
۱۲۔ الاعراف ۲۰۰
۱۳۔ الاعراف ۲۰۰ اور المؤمن ۵۶
۱۴۔ ضمیمہ ۱۷۵

۱۵۔ ضمیمہ ۲۱۴ ۱۶۔ البقرة ۱۷۲ اور النحل ۱۱۴

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۳۹﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۴۰﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿۴۱﴾ لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿۴۲﴾ مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۴۳﴾ وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ ﴿۴۴﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿۴۵﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿۴۶﴾

اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ

ع ۵ ۱۹

۴۔ الاحقاف ۳۳ نیز الحج ۶ اور ضمیمہ ۱۵
۵۔ ہود ۱۱۲ نیز ضمیمہ ۹۱
۶۔ ضمیمہ ۷
۷۔ صرف یہیں جبکہ «من الرحمن الرحیم» کیساتھ حم السجدة ۲ میں ہے۔
۸۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۱۸۴، الانعام ۳۴ اور فاطر ۴

۹۔ صرف یہیں جبکہ «لِلنّاس علی ظلمهم» کیساتھ الرعد ۶ میں ہے۔ ۱۰۔ الفرقان ۱۲
۱۱۔ ہود ۱۱۰ نیز یونس ۱۹، الشوری ۱۴ و ۲۱ اور ضمیمہ ۴۴ و ۱۸۱ ۱۲۔ الجاثیة ۱۵
۱۳۔ صرف یہیں جبکہ «وماۤ انا» کیساتھ قٓ ۲۹ میں آیا ہے نیز ضمیمہ ۱۱۴

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٤﴾

۴۔ ہود ۱۰
۵۔ ہود ۱۰
۶۔ الکہف ۳۶
۷۔ ہود ۵۸ اور لقمان ۲۴
۸۔ الاسراء ۸۳ جبکہ «مَسَّهُ الشَّر» حم السجدۃ ۴۹ اور المعارج ۲۰ میں ہے۔
۹۔ ضمیمہ ۱۴۶
۱۰۔ الاحقاف ۱۰
۱۱۔ البقرۃ ۱۷۶ اور الحج ۵۳

۱۔ ضمیمه ۲۱۸ ۲۔ ضمیمه ۸۵ اور ۸٦ ۳۔ البقرة ۲۵۵ ٤۔ مریم ۹۰

سُوْرَةُ الشُّوْرٰی مَکِّیَّةٌ وَّهِیَ ثَلٰثٌ وَّخَمْسُوْنَ اٰیَةً وَّخَمْسُ رُکُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

حٰمٓ ① عٓسٓقٓ ② كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ
اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ③ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَهُوَ
الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ④ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰۗىِٕكَةُ
يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ۭ اَلَآ اِنَّ
اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⑤ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۗءَ اللّٰهُ
حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ڮ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ⑥ وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ
اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ
الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ⑦ وَلَوْ
شَاۗءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاۗءُ فِيْ
رَحْمَتِهٖ ۭ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ⑧ اَمِ اتَّخَذُوْا
مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۗءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ۡ وَهُوَ
عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑨ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗٓ
اِلَى اللّٰهِ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ڰ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ⑩

٥۔ الزمر ۷۵ اور المؤمن ۷
٦۔ صرف یهیں نیز ضمیمه ٦١
۷۔ الزمر ۳ اور الشوری ۹ نیز ضمیمه ۱۵۹
۸۔ الانعام ۱۰۷ اور الزمر ٤١ جبکه «وما انا» کیساتھ یونس ۱۰۸ میں هے۔
۹۔ الشوری ۵۲
۱۰۔ الانعام ۹۲
۱۱۔ ضمیمه ٤
۱۲۔ المائدة ٤٨ اور النحل ۹۳ نیز ضمیمه ١٤
۱۳۔ صرف یهیں۔
١٤۔ الزمر ۳ اور الشوری ٦ نیز ضمیمه ۱۵۹ جبکه «ام اتخذوا» الانبیاء ۲۱ و ۲٤ اور الزمر ٤٣ میں هے۔

ع ۱ / ۹ / ۲

۱۵۔ ضمیمه ۱۳٤ ۱٦۔ یوسف ۸۸ نیز ضمیمه ۱۷۸

۱۔ صرف یہیں جبکہ «فاطِرِ السّمٰوٰت والارض» الانعام ۱۴ ، ابراهیم ۱۰ و فاطر ۱ میں ، «فاطِرَ السّمٰوٰت والارض» یوسف ۱۰۱ و الزمر ۴۶ میں اور «لِلّذی فطرَ السّمٰوٰت والارض» الانعام ۷۹ میں هے۔

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَیْءٌ ۚ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿۱۱﴾ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۲﴾ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِیْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهٖۤ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰۤى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِیْۤ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِیْۤ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿۱۳﴾ وَ مَا تَفَرَّقُوْۤا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِیَ بَيْنَهُمْ ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِیْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿۱۴﴾ فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَ اسْتَقِمْ كَمَاۤ اُمِرْتَ ۚ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَ قُلْ اٰمَنْتُ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَ اُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ ؕ لَنَاۤ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۵﴾

۲۔ النحل ۷۲
۳۔ الزمر ۶۳
۴۔ ضمیمه ۱۹۰
۵۔ «انّه» کیساتھ صرف یہیں نیز ضمیمه ۹۴
۶۔ اور ۷۔ ملتے جلتے الفاظ هیں توجه سے پڑھیے۔
۸۔ آل عمران ۱۹ ، یونس ۹۳ اور الجاثیة ۱۷
۹۔ البقرة ۲۱۳ ، آل عمران ۱۹ اور الجاثیة ۱۷
۱۰۔ ضمیمه ۱۸۱
۱۱۔ «اِلٰی اجل مّسمّی» کیساتھ صرف یہیں جبکه «لَقُضِیَ بَینَهُم» یونس ۱۹ ، هود ۱۱۰ اور حم السجدة ۴۵ میں هے۔

وَالَّذِيْنَ

۱۲۔ هود ۱۱۰ اور حم السجدة ۴۵ — ۱۳۔ هود ۱۱۲ — ۱۴۔ المآئدة ۴۸ اور ۴۹
۱۵۔ البقرة ۱۳۹ اور القصص ۵۵ — ۱۶۔ المآئدة ۱۸ اور التغابن ۳

۱۔ الجاثیۃ ۲۵ ۲۔« ولَهُم » کیساتھ صرف یہیں نیز آل عمران ٤ ، فاطر ۷ و ۱۰ ، ص ۲٦ اور الشوری ۲٦
۳۔ الاحزاب ٦۳ خیال رہے کہ یہاں « تکونُ » شامل نہیں ہے۔
٤۔ اور ٥۔ ملتے جلتے الفاظ ہیں توجہ سے پڑھیں۔
٦۔ القلم ٤١
۷۔ ابراهیم ۲۲ نیز ضمیمہ ۱۰۷
۸۔ الشوری ٤٤
۹۔ الکهف ٤۹
۱۰۔ الاعراف ۱۷۱
۱۱۔ ضمیمہ ٤۲
۱۲۔ الزمر ۳٤
۱۳۔ فاطر ۳۲

وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿١٦﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ۭ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ۭ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿١٨﴾ اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿١٩﴾ ع ۲ ١٠

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾ اَمْ لَهُمْ شُرَكٰۗؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۭ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَاۗءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾

ذٰلِكَ الَّذِىْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ؕ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٢٣﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۙ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٨﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾ وَمَاۤ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ؕ ﴿٣٠﴾ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۖۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٣١﴾

٣ـ صرف یہیں نیز ضمیمہ ١٨٢
٤ـ ضمیمہ ١٧٤
٥ـ التوبۃ ١٠٤
٦ـ النسآء ١٧٣ اور الروم ٤٥ جبکہ النور ٣٨ اور فاطر ٣٠ میں (دَ) پر زبر ھے۔
٧ـ آل عمران ٤، فاطر ٧ و ١٠ اور ص ٢٦ جبکہ « وَلَهُم » کیساتھ الشوری ١٦ میں ھے۔
٨ـ الروم ٢٢ نیز ضمیمہ ٢١٤
٩ـ آل عمران ١٦٦
١٠ـ الحدید ٢٢ اور التغابن ١١

ع ٣ / ١٠ / ٤

١١ـ المآئدۃ ١٥ نیز « وَيَعْفُ » کیساتھ الشوری ٣٤ میں ھے۔ ١٢ـ العنکبوت ٢٢ نیز الانعام ١٣٤، یونس ٥٣ اور ھود ٣٣ ١٣ـ البقرۃ ١٠٧، التوبۃ ١١٦ اور العنکبوت ٢٢ نیز ضمیمہ ١٩

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿۳۲﴾ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ

فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ

شَكُوْرٍ ﴿۳۳﴾ اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿۳۴﴾ وَّيَعْلَمَ

الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا ۭ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿۳۵﴾ فَمَآ اُوْتِيْتُمْ

مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ

كَبٰۗىِٕرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿۳۷﴾

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۠ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى

بَيْنَهُمْ ۠ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ

الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿۳۹﴾ وَجَزٰۗؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ

فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۰﴾

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰۗىِٕكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ

سَبِيْلٍ ﴿۴۱﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَ

يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ

اَلِيْمٌ ﴿۴۲﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۴۳﴾ ع ۴ ۵

۴۔ «وَيَعْفُ» کیساتھ صرف یہیں نیز المآئدة ۱۵ اور الشوری ۳۰
۵۔ حم السجدة ۴۸
۶۔ القصص ۶۰ نیز ضمیمہ ۲۰۳
۷۔ النحل ۴۲ و ۹۹ اور العنکبوت ۵۹
۸۔ النجم ۳۲
۹۔ آل عمران ۱۷۲
۱۰۔ ضمیمہ ۵
۱۱۔ التوبة ۹۳
۱۲۔ ضمیمہ ۱۷۱
۱۳۔ ضمیمہ ۱۰۷
۱۴۔ آل عمران ۱۸۶ اور لقمان ۱۷

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ
لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿۴۴﴾ وَتَرٰىهُمْ
يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ
وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿۴۵﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ
مِنْ سَبِيْلٍ ﴿۴۶﴾ اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ
مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿۴۷﴾ فَاِنْ اَعْرَضُوْا
فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّاۤ اِذَاۤ اَذَقْنَا
الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ
اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿۴۸﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿۴۹﴾
اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ
قَدِيْرٌ ﴿۵۰﴾ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ
حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿۵۱﴾

۵۔ الزمر ۱۵
۶۔ ضمیمہ ۱۹
۷۔ ضمیمہ ۱۲۴
۸۔ البقرة ۲۵۴، ابراهیم ۳۱ اور الروم ۴۳
۹۔ الروم ۴۳
۱۰۔ حم السجدة ۱۳
۱۱۔ النسآء ۸۰ اور الانعام ۱۰۷
۱۲۔ هود ۹ اور الروم ۳۶
۱۳۔ النسآء ۶۲، القصص ۴۷ اور الروم ۳۶
۱۴۔ المآئدة ۱۲۰
۱۵۔ ضمیمہ ۲۲۹
۱۶۔ آل عمران ۷۹

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ
وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ
وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۙ﴿۵۲﴾ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا
فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ﴿۵۳﴾

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ تِسْعٌ وَّثَمَانُوْنَ اٰيَةً وَّسَبْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۚ﴿۱﴾ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ﴿۲﴾ اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ ۚ﴿۳﴾ وَاِنَّهٗ فِىْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ ؕ﴿۴﴾ اَفَنَضْرِبُ
عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿۵﴾ وَكَمْ اَرْسَلْنَا
مِنْ نَّبِىٍّ فِى الْاَوَّلِيْنَ ﴿۶﴾ وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۷﴾ فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ
الْاَوَّلِيْنَ ﴿۸﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ
خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۙ﴿۹﴾ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ
جَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۚ﴿۱۰﴾ وَالَّذِىْ نَزَّلَ مِنَ
السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿۱۱﴾

۵۔ الدخان ۲
۶۔ یوسف ۲
۷۔ ضمیمہ ۴۰
۸۔ خیال سے پڑھیے۔
۹۔ الحجر ۱۱، الانبیآء ۲، الشعرآء ۵ اور یٰس ۳۰
۱۰۔ قٓ ۳۶
۱۱۔ ضمیمہ ۱۷۷
۱۲۔ ضمیمہ ۲۲۶
۱۳۔ طٰہٰ ۵۳
۱۴۔ ضمیمہ ۳۳
۱۵۔ المؤمنون ۱۸ نیز ضمیمہ ۱۸
۱۶۔ الفرقان ۴۹ اور قٓ ۱۱
۱۷۔ الروم ۱۹

وَالَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ
مَا تَرْكَبُوْنَ ﴿۱۲﴾ لِتَسْتَوٗا عَلٰی ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا
اسْتَوَیْتُمْ عَلَیْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا
لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ﴿۱۳﴾ وَاِنَّآ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۴﴾ وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ
عِبَادِهٖ جُزْءًا ۭ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۱۵﴾ اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا یَخْلُقُ
بَنٰتٍ وَّاَصْفٰكُمْ بِالْبَنِیْنَ ﴿۱۶﴾ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ
لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِیْمٌ ﴿۱۷﴾ اَوَمَنْ یُّنَشَّؤُا
فِی الْحِلْیَةِ وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِیْنٍ ﴿۱۸﴾ وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ
الَّذِیْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ۭ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ۭ سَتُكْتَبُ
شَهَادَتُهُمْ وَیُسْـَٔلُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ۭ
مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۤ اِنْ هُمْ اِلَّا یَخْرُصُوْنَ ﴿۲۰﴾ اَمْ اٰتَیْنٰهُمْ
كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ﴿۲۱﴾ بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ
اٰبَآءَنَا عَلٰٓی اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓی اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۲۲﴾ وَكَذٰلِكَ مَآ
اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِیْ قَرْیَةٍ مِّنْ نَّذِیْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا
وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓی اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓی اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿۲۳﴾

توجہ سے پڑھیے یہاں «هُم» شامل نہیں ہے۔
۵۔ الانعام ۱۱۶ و ۱۴۸ اور یونس ٦٦
٦۔ الزخرف ۲۳
۷۔ سبا ۳۴
ع ۱ ۵ ۷
۸۔ الزخرف ۲۲

قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ قَالُوْٓا اِنَّا
بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۲۴﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۲۵﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِىْ
بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿۲۶﴾ اِلَّا الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ﴿۲۷﴾ وَ
جَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۲۸﴾ بَلْ مَتَّعْتُ
هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿۲۹﴾ وَلَمَّا
جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۳۰﴾ وَقَالُوْا لَوْلَا
نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿۳۱﴾ اَهُمْ
يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۳۲﴾ وَلَوْلَآ
اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ
لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَلِبُيُوْتِهِمْ
اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ﴿۳۴﴾ وَزُخْرُفًا وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا
مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۵﴾

۳۔ آل عمران ۱۳۷ ، الانعام ۱۱ اور النحل ۳۶ نیز ضمیمہ ۱۶۷
۴۔ الانعام ۷۴
۵۔ ضمیمہ ۱۰۴
۶۔ الانعام ۳۷ نیز ضمیمہ ۱۳۷
۷۔ الانبیآء ۱۱
۸۔ آل عمران ۱۵۷ اور یونس ۵۸

۵۔ یونس ۴۳
۶۔ ضمیمہ ۱۵۰
۷۔ ضمیمہ ۱۴۵
۸۔ ہود ۹۶، ابراھیم ۵، المؤمنون ۴۵ اور المؤمن ۲۳
۹۔ ضمیمہ ۱۰۴
۱۰۔ الاعراف ۱۳۴

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿۳۶﴾
وَ اِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۳۷﴾
حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ
فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿۳۸﴾ وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ
مُشْتَرِكُوْنَ ﴿۳۹﴾ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ
فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۴۰﴾ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿۴۱﴾
اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿۴۲﴾ فَاسْتَمْسِكْ
بِالَّذِىْٓ اُوْحِىَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۴۳﴾ وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ
لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ ﴿۴۴﴾ وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً
يُّعْبَدُوْنَ ﴿۴۵﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ
فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۶﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ
مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ﴿۴۷﴾ وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ۫
وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۴۸﴾ وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَ
السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿۴۹﴾

۴۔ ضمیمہ ۱۰۰
۵۔ ضمیمہ ۶۰
۶۔ ضمیمہ ۹۸ اور ۹۹

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ
فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ
مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ
أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ
ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ
أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ
إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ
نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ
لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾
وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا
جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ
لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٦٣﴾

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾
فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ
بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ
تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيٰتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ اُدْخُلُوا
الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ
مِّنْ ذَهَبٍ وَّأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ
الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنْتُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا
تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُونَ ﴿٧٤﴾
لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَ
لٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظّٰلِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا
رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مّٰكِثُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ
أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾

ص ۲۷ اور الذاریات ۶۰
۵۔ ضمیمہ ۶۸
۶۔ ضمیمہ ۱۶۸ اور ۱۶۹
۷۔ الاعراف ۴۹ اور یونس ۶۲ نیز ضمیمہ ۳۸
۸۔ الصافات ۴۵ اور الدھر ۱۵
۹۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۲۸
۱۰۔ مریم ۶۳
۱۱۔ ضمیمہ ۱۳۰
۱۲۔ المؤمنون ۱۹
۱۳۔ المؤمنون ۱۹ اور ۲۱
۱۴۔ المؤمنون ۱۰۳
۱۵۔ المؤمنون ۷۰

اَمْ یَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوٰىهُمْ ؕ بَلٰى وَ رُسُلُنَا لَدَیْهِمْ یَكْتُبُوْنَ ﴿۸۰﴾ قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖۗ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِیْنَ ﴿۸۱﴾ سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُوْنَ ﴿۸۲﴾ فَذَرْهُمْ یَخُوْضُوْا وَ یَلْعَبُوْا حَتّٰى یُلٰقُوْا یَوْمَهُمُ الَّذِیْ یُوْعَدُوْنَ ﴿۸۳﴾ وَ هُوَ الَّذِیْ فِی السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّ فِی الْاَرْضِ اِلٰهٌ ؕ وَ هُوَ الْحَكِیْمُ الْعَلِیْمُ ﴿۸۴﴾ وَ تَبٰرَكَ الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا ۚ وَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۸۵﴾ وَ لَا یَمْلِكُ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ یَعْلَمُوْنَ ﴿۸۶﴾ وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَیَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى یُؤْفَكُوْنَ ﴿۸۷﴾ وَ قِیْلِهٖ یٰرَبِّ اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۸۸﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلٰمٌ ؕ فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ ﴿۸۹﴾

سُوْرَةُ الدُّخَانِ مَكِّیَّةٌ وَّ هِیَ تِسْعٌ وَّ خَمْسُوْنَ اٰیَةً وَّ ثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حٰمٓ ﴿۱﴾ وَ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ﴿۲﴾ اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِیْنَ ﴿۳﴾ فِیْهَا یُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِیْمٍ ﴿۴﴾

وقف لازم ع ۷ ۲۲ ۱۴ مع ۱۲ عند المتقدمین ۱۲

أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦﴾ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ إِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ﴿٧﴾ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٩﴾ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ ۖ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللّٰهِ ۖ إِنِّي اٰتِيكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَّزُرُوعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾

وقف لازم

۴۔ ضمیمہ ۵۹
۵۔ ضمیمہ ۸۹
۶۔ الشعرآء ۲۶ اور الصآفات ۱۲۶
۷۔ الدخان ۵۹
۸۔ الدخان ۱۷ اور ۱۸
۹۔ ص ۳۴
۱۰۔ الدخان ۱۳ اور ۱۸
۱۱۔ الدخان ۱۳ اور ۱۷ نیز ضمیمہ ۲۰۸
۱۲۔ المؤمن ۲۷
۱۳۔ القمر ۱۰
۱۴۔ طٰہٰ ۷۷ اور الشعرآء ۵۲

۱۵۔ الشعرآء ۵۷ نیز الشعرآء ۱۳۴ ۱۶۔ الشعرآء ۱۴۸ ۱۷۔ الشعرآء ۵۸

وَّنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فٰكِهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذٰلِكَ وَأَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِينَ ﴿٢٨﴾
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ
نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ
كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى
الْعٰلَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾ إِنَّ هٰٓؤُلَآءِ
لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ﴿٣٥﴾
فَأْتُوا بِاٰبَآئِنَآ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٣٦﴾ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَّ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنٰهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَمَا
خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِينَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنٰهُمَآ
إِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ
مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا وَّلَا
هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾
إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي
فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلٰى سَوَآءِ
الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾

۶۔ الحجر ۸۵ اور الاحقاف ۳ ۱
ع ۲۹ ۱۴
۷۔ الانبیآء ۱۶
۸۔ ضمیمہ ۱۴۳
۹۔ النبا ۱۷
۱۰۔ الطور ۴۶
۱۱۔ الصآفات ۶۲
ع ۱۴ ۲ ۱۵ معانقۃ ۱۴ عند المتاخرین ۲

صفحہ نمبر ٤٩٩ ١۔ صرف یہیں نیز البقرة ٣٢ و ١٢٩ ، المؤمن ٨ اور الممتحنة ٥ میں ھے۔ ٢۔ صرف یہیں نیز الحجر ٤٥ اور الذاریات ١٥ ، الطور ١٧ ، القمر ٥٤ اور المرسلات ٤١ ٣۔ الحجر ٤٥ ، الشعرآء ١٤٧ اور الذاریات ١٥ نیز الشعرآء ٥٧ و ١٣٤ اور الدخان ٢٥

ذُقْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِ
تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾
يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم
بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ
فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾
فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ
بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

ع ٣ ١٧ ١٦

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعٌ وَثَلٰثُونَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

حم ﴿١﴾ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ
آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ
تَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا
عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

٤۔ الطور ٢٠
٥۔ ص ٥١
٦۔ الطور ١٨
٧۔ صرف یہیں نیز البقرة ١٩٨ اور الاسرآء ١٢ ، المآئدة ٢ ، الفتح ٢٩ ، الحجرات ٨ اور الحشر ٨
٨۔ التوبة ٧٢ ، یونس ٦٤ اور الحدید ١٢
٩۔ مریم ٩٧
١٠۔ ضمیمه ٧٣
١١۔ الدخان ١٠
١٢۔ ضمیمه ٢١٨
١٣۔ الزمر ١ اور الاحقاف ٢ نیز المؤمن ٢
١٤۔ «بُ» پر پیش ھے خیال سے پڑھیے۔
١٥۔ البقرة ١٦٤ ، آل عمران ١٩٠ اور یونس ٦

١٦۔ البقرة ١٦٤ اور النحل ٦٥ ١٧۔ صرف یہیں نیز البقرة ١٦٤
١٨۔ البقرة ٢٥٢ اور آل عمران ١٠٨ ١٩۔ صرف یہیں جبکه «بعده یؤمنون» کیساتھ الاعراف ١٨٥ اور المرسلات ٥٠ میں ھے۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٧﴾ يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ
مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٨﴾ وَاِذَا عَلِمَ مِنْ
اٰيٰتِنَا شَيْئَا اِتَّخَذَهَا هُزُوًا ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩﴾ مِنْ وَّرَاۗىِٕهِمْ
جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْئًا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اَوْلِيَاۗءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠﴾ هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ
رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿١١﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ
الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ
لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾ قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا
يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾ مَنْ عَمِلَ
صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَاۗءَ فَعَلَيْهَا ۡ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٥﴾
وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَي الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ
فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّ رَبَّكَ
يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٧﴾

ع ۱۱/۱۷

نیز ضمیمہ ۱۹
٤۔ ضمیمہ ۸
۵۔ ضمیمہ ۲۵
٦۔ سبا ۵
۷۔ ضمیمہ ۱۹۸
۸۔ لقمان ۲۰ نیز ضمیمہ ۸٦
۹۔ الرعد ۳، الروم ۲۱ اور الزمر ٤٢ نیز ضمیمہ ۲۲۵
۱۰۔ ضمیمہ ۱۵۵
۱۱۔ حم السجدة ٤٦
۱۲۔ السجدة ۱۱
۱۳۔ المؤمن ۵۳
۱٤۔ الاسرآء ۷۰
۱۵۔ الدخان ۳۳
۱٦۔ یونس ۹۳
۱۷۔ آل عمران ۱۹، یونس ۹۳ اور الشوری ۱٤
۱۸۔ البقرة ۲۱۳، آل عمران ۱۹ اور الشوری ۱٤

۱۹۔ یونس ۹۳ اور النمل ۷۸ ۲۰۔ ضمیمہ ۵۰

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ
الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸﴾ اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَ
اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۹﴾
هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۲۰﴾ اَمْ
حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿۲۱﴾
وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۲۲﴾ اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ
اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ
فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۳﴾ وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا
حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ
بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿۲۴﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا
بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿۲۵﴾ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۲۶﴾

ع ۲ ۱۰ ۱۸ — ع ۳ ۵ ۱۹

۱۔ ضمیمہ ۱۲۸ ۲۔ « یُوقِنُون » کیساتھ صرف یہیں نیز الاعراف ۵۲ و ۲۰۳ ، یوسف ۱۱۱ اور النحل ۶۴
۳۔ العنکبوت ۴ اور محمد ۲۹
۴۔ الانعام ۱۳۶، النحل ۵۹ اور العنکبوت ۴
۵۔ العنکبوت ۴۴
۶۔ « بِمَا » کیساتھ صرف یہیں نیز البقرة ۲۸۱ ، آل عمران ۲۵ اور ۱۶۱
۷۔ الفرقان ۴۳
۸۔ ضمیمہ ۱۸۰
۹۔ الانعام ۲۹ اور المؤمنون ۳۷
۱۰۔ ضمیمہ ۱۷۳
۱۱۔ الشوری ۱۶
۱۲۔ الدخان ۳۶
۱۳۔ ضمیمہ ۲۰
۱۴۔ ضمیمہ ۴
۱۵۔ ضمیمہ ۱۷۲

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَىِٕذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۣ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا ۭ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾ هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۭ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۣ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾ وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاۗءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾ ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾ وَلَهُ الْكِبْرِيَاۗءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۠ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾

ع ۴ / ۱۱ / ۲۰

۴۔ ضمیمہ ۲۱۲
۵۔ النسآء ۱۷۳ اور الروم ۱۵
۶۔ صرف یہیں نیز الانعام ۱۶
۷۔ البقرۃ ۲۶ اور الروم ۱۶ جبکہ «فاَمَّا» آل عمران ۵۶ میں ھے۔
۸۔ المؤمنون ۶۶ اور ۱۰۵
۹۔ الاعراف ۱۳۳ اور یونس ۷۵ جبکہ «عالین» المؤمنون ۴۶ میں ھے۔
۱۰۔ ضمیمہ ۱۸۴
۱۱۔ الکھف ۲۱، الحج ۷ اور المؤمن ۵۹ نیز ضمیمہ ۴
۱۲۔ الزمر ۴۷ اور ۴۸
۱۳۔ النحل ۳۴
۱۴۔ ضمیمہ ۱۸۵
۱۵۔ الانعام ۱۳۰، السجدۃ ۱۴ اور الزمر ۷۱
۱۶۔ العنکبوت ۲۵ نیز الحدید ۱۵ و آل عمران ۱۵۱
۱۷۔ النحل ۸۴ اور الروم ۵۷
۱۸۔ «رَبّ» تین بار استعمال ھوا ھے۔ توجہ سے پڑھیے نیز ضمیمہ ۲
۱۹۔ ضمیمہ ۱۹۳

سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسٌ وَّثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝٢ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ۝٣ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٤ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝٥ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝٦ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝٧ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝٨

۳۔ الحجر ۸۵ اور الدخان ۳۸
۴۔ الروم ۸
۵۔ ضمیمہ ۲۵
۶۔ ضمیمہ ۱۴۶
۷۔ الزمر ۳۸ نیز ضمیمہ ۱۹
۸۔ فاطر ۴۰
۹۔ ضمیمہ ۲۰
۱۰۔ ضمیمہ ۱۹
۱۱۔ ضمیمہ ۱۷۳
۱۲۔ سبا ۴۳
۱۳۔ النمل ۱۳ اور الصف ۶
۱۴۔ ضمیمہ ۱۸۲
۱۵۔ الرعد ۴۳، الاسراء ۹۶ اور العنکبوت ۵۲
۱۶۔ یونس ۱۰۷

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ ۗ
اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۹﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ
اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِىٓ
اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا
سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ۭ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ﴿۱۱﴾
وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ۭ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ
لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ڰ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۲﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ﴿۱۳﴾ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴﴾ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ۭ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ
كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۭ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ
اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ
وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ۚ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۱۵﴾

ع ۱۰ / ۱

۵۔ المآئدۃ ۵۱ ، الانعام ۱۴۴ اور القصص ۵۰ نیز ضمیمہ ۹۰
۶۔ ضمیمہ ۱۹۴
۷۔ النور ۱۲
۸۔ ھود ۱۷
۹۔ حم السجدۃ ۳۰
۱۰۔ ضمیمہ ۲۴
۱۱۔ ضمیمہ ۴۳
۱۲۔ ضمیمہ ۵۸
۱۳۔ السجدۃ ۱۷ اور الواقعۃ ۲۴ نیز ضمیمہ ۱۵۲
۱۴۔ العنکبوت ۸ اور لقمان ۱۴
۱۵۔ لقمان ۱۴
۱۶۔ النمل ۱۹

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾

۵۔ حم السجدة ۲۵
٦۔ ضمیمہ ۱٦۱
۷۔ حم السجدة ۲۵
۸۔ الانعام ۱۳۲
۹۔ الاحقاف ۳٤
۱۰۔ الانعام ۹۳
۱۱۔ ضمیمہ ۱۷۱
۱۲۔ الرعد ۱۱ اور الحن ۲۷ جبکہ «أیدیهم» اور «خلفهم» کیساتھ الاعراف ۱۷ اور حم السجدة ۱٤ میں ھے۔
۱۳۔ ھود ۲ و ۲٦ اور حم السجدة ۱٤
۱٤۔ الاعراف ۵۹ اور الشعرآء ۱۳۵ نیز الشعرآء ۱۸۹ جبکہ «الیم» کیساتھ ھود ۲٦ میں ھے۔
۱۵۔ الاعراف ۷۰، یونس ۷۸ اور الانبیآء ۵۵
۱٦۔ الاعراف ۷۰ اور ھود ۳۲
۱۷۔ ضمیمہ ۱٦٦

٦۔ ضميمه ۱۹
۷۔ الجن ۱

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَأُبَلِّغُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ أَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿۲۳﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۖ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿۲٤﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۢ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوْا لَا يُرٰىٓ إِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۲۵﴾ وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ إِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّأَبْصَارًا وَّأَفْـِٕدَةً ۖ فَمَآ أَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَارُهُمْ وَلَآ أَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۲٦﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۲۷﴾ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ۖ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿۲۸﴾ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا أَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿۲۹﴾

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾ يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ۭ اُولٰۗىِٕكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓي اَنْ يُّـحْيِۦ الْمَوْتٰى ۭ بَلٰٓي اِنَّهٗ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَي النَّارِ ۭ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۭ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۭ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۭ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۭ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ مَّدَنِيَّةٌ وَّهِيَ ثَمَانٌ وَّثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾

دوسرے موقع میں (و) زیادہ ہے۔
۳۔ الاحقاف ۳۰
٤۔ یہاں «وَيُجِرْكُمْ» کیساتھ ہے توجہ سے پڑھیے نیز ابراھیم ۱۰ اور نوح ٤
۵۔ «اَولياۤءُ» (ءُ) کے پیش کیساتھ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۵۹
٦۔ ضمیمہ ۱۵۰
۷۔ الاسرآء ۹۹ ، یٰسٓ ۸۱ اور حم السجدۃ ۱۵ نیز ضمیمہ ۱۹۲
ع ٤ / ۹
۸۔ القیامۃ ٤۰
۹۔ الحج ٦ اور حم السجدۃ ۳۹
۱۰۔ الاحقاف ۲۰

۱۱۔ الانعام ۳۰ ۱۲۔ آل عمران ۱۰٦ ، الانعام ۳۰ اور الانفال ۳۵ ۱۳۔ یونس ٤۵ اور النازعات ٤٦
۱٤۔ النحل ۸۸ اور فاطر ۷

۶۔ محمد ۲۶
۷۔ یوسف ۱۰۹، الحج ۴۶ اور المؤمن ۸۲
۸۔ ضمیمہ ۲۲۸

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿۲﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۭ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ﴿۳﴾ فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۭ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۤ ۙ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۗءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ڕ ذٰلِكَ ڐ وَلَوْ يَشَاۗءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۭ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿۴﴾ سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿۵﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿۶﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ﴿۷﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿۸﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿۹﴾ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۡ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ﴿۱۰﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ﴿۱۱﴾

مع ۱۳ وقد یبتدأ بقولہ ذٰلک و لکن حسن اتصالہ بما قبلہ ویوقف علی ذٰلک عند المتقدمین ۱۲

ع ۵

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ﴿١٤﴾ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴿١٨﴾

۵۔ ضمیمہ ۱۱۲
۶۔ هود ۱۷
۷۔ فاطر ۸
۸۔ محمد ۱۶ اور القمر ۳
۹۔ الرعد ۳۵ اور الفرقان ۱۵
۱۰۔ الصآفات ۴۶
۱۱۔ البقرة ۲۶۶ ، الاعراف ۵۷ اور النحل ۶۹
۱۲۔ الانعام ۲۵
۱۳۔ ضمیمہ ۱۳
۱۴۔ النحل ۱۰۸
۱۵۔ محمد ۱۴ اور القمر ۳
۱۶۔ فاطر ۴۳ اور محمد ۲۲

۱۔ الصافات ۳۵ ۲۔ المؤمن ۵۵ ۳۔ نوح ۲۸ نیز الاحزاب ۳۵ ٤۔ صرف یہیں جبکہ « انزلت سورۃ » التوبة ۸٦ ، ۱۲٤ و ۱۲۷ اور محمد ۲۰ میں ھے۔ ۵۔ صرف یہیں جبکہ (و) کیساتھ التوبة ۸٦ میں اور « واذا مآ انزلت » کیساتھ التوبة ۱۲٤ و ۱۲۷ میں آیا ھے۔ ٦۔ ضمیمه ۹

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿۱۹﴾ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۭ فَاَوْلٰى لَهُمْ ﴿۲۰﴾ طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۣ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۣ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿۲۱﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ﴿۲۲﴾ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ﴿۲۳﴾ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰي قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ﴿۲٤﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓي اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ۭ وَاَمْلٰى لَهُمْ ﴿۲۵﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ښ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ﴿۲٦﴾ فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰۗىِٕكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ﴿۲۷﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿۲۸﴾ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿۲۹﴾

ع ۲/۸/٦ — ع ۳/۹/۷

۷۔ الاحزاب ۱۹
۸۔ ضمیمه ۱۰۹
۹۔ فاطر ٤۳ اور محمد ۱۸
۱۰۔ النسآء ۵۲ نیز ضمیمه ۱۳
۱۱۔ النسآء ۸۲
۱۲۔ محمد ۳۲ جبکه « له الهدی » کیساتھ النسآء ۱۱۵ میں نیز البقرة ۱۰۹ اور التوبة ۱۱۳
۱۳۔ صرف یہیں جبکه « وأملی لهم » الاعراف ۱۸۳ اور القلم ٤۵ میں ھے۔
۱٤۔ صرف یہیں جبکه « بانهم کرهوا » محمد ۹ میں، « بانهم اتبعوا » محمد ۲۸ میں اور « ذلك بانهم قالوا » البقرة ۲۷۵ و آل عمران ۲٤ اور ۷۵ میں آیا ھے۔

۱۵۔ الانفال ۵۰
۱٦۔ صرف یہیں نیز محمد ۹ و ۲٦ ۱۷۔ محمد ۹ نیز الاحزاب ۱۹ ۱۸۔ العنکبوت ٤ اور الجاثية ۲۱
۱۹۔ ضمیمه ۹ ۲۰۔ صرف یہیں نیز محمد ۳۷

وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ﴿۳۰﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا۟ اَخْبَارَكُمْ ﴿۳۱﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْــًٔا ؕ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ﴿۳۲﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ﴿۳۳﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ﴿۳۴﴾ فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْۤا اِلَى السَّلْمِ ۖۗ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖۗ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ﴿۳۵﴾ اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْــَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ﴿۳۶﴾ اِنْ يَّسْــَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ﴿۳۷﴾ هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْۤا اَمْثَالَكُمْ ﴿۳۸﴾

ع ٤ / ۱۰ / ۸

۵۔ ضمیمہ ۴۷
٦۔ النسآء ۵۹ جبکہ (و) کیساتھ المآئدة ۹۲ اور التغابن ۱۲ میں نیز «قل» کے اضافہ کیساتھ النور ۵٤ میں ھے.
۷۔ محمد ۳۲ نیز ضمیمہ ۷
۸۔ التوبة ۸۰ اور المنافقون ٦
۹۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۱۳۹ اور النسآء ۱۰٤
۱۰۔ آل عمران ۱۳۹
۱۱۔ الانعام ۳۲ اور الحدید ۲۰ جبکہ «لَهو وَلَعِب» العنکبوت ٦٤ میں ھے.

۱۲۔ آل عمران ۱۷۹ ۱۳۔ آل عمران ۱۸۵ ۱٤۔ محمد ۲۹ ۱۵۔ آل عمران ٦٦ اور النسآء ۱۰۹ جبکہ «اُولآء» آل عمران ۱۱۹ میں ھے. ۱٦۔ الفتح ۱٦ ۱۷۔ التوبة ۳۹

سُوْرَۃُ الْفَتْحِ مَدَنِیَّۃٌ وَّهِیَ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰیَۃً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِیْنًا ① لِّیَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَیْكَ وَیَهْدِیَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِیْمًا ② وَّیَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِیْزًا ③ هُوَ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ السَّكِیْنَۃَ فِیْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِیْنَ لِیَزْدَادُوْۤا اِیْمَانًا مَّعَ اِیْمَانِهِمْ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِیْمًا حَكِیْمًا ④ لِّیُدْخِلَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا وَیُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَیِّاٰتِهِمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِیْمًا ⑤ وَّیُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِیْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِیْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّیْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَیْهِمْ دَآئِرَۃُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِیْرًا ⑥ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِیْزًا حَكِیْمًا ⑦ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِیْرًا ⑧ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَۃً وَّاَصِیْلًا ⑨

٦۔ ضمیمہ ۵۸
۷۔ الاحزاب ۷۳
۸۔ الفتح ۱۲
۹۔ التوبۃ ۹۸
۱۰۔ النسآء ۹۷ اور ۱۱۵
۱۱۔ الفتح ٤
۱۲۔ النسآء ۱۵۸ و ۱٦۵ اور الفتح ۱۹ جبکہ «اِنَّ اللّٰہ» کیساتھ النسآء ۵٦ میں ھے۔
۱۳۔ الاحزاب ٤۵
۱٤۔ الاحزاب ٤۲

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ
فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ
اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۰﴾ سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ
الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ
بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ
شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ؕ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۱﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ
اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚۖ
وَكُنْتُمْ قَوْمًا ۢ بُوْرًا ﴿۱۲﴾ وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا
لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿۱۳﴾ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ
لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۴﴾
سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا
ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّنْ
تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ
بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ؕ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۵﴾

ع ۱ ۱۰ ۹

۵۔ «بَل» کیساتھ صرف یہیں نیز اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے کہ «وَکَانَ اللّٰہُ» کیساتھ یہ آیت کہیں نہیں آئی۔
۶۔ الفتح ۶
۷۔ الفرقان ۱۸
۸۔ ضمیمہ ۱۱۵
۹۔ البقرۃ ۲۸۴، آل عمران ۱۲۹ اور المآئدۃ ۱۸
۱۰۔ ضمیمہ ۱۲۶
۱۱۔ الفتح ۱۱

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ
شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا
حَسَنًا وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱٦﴾
لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ
حَرَجٌ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۷﴾ لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ
الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ
فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿۱۸﴾ وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً
يَّاْخُذُوْنَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۹﴾ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ
كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ
عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿۲۰﴾
وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ
عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا ﴿۲۱﴾ وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا
الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۲۲﴾ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿۲۳﴾

۵۔ الفتح ٤
٦۔ الفتح ۲۰
۷۔ النسآء ۱۵۸ و ۱٦۵ اور الفتح ۷ جبکہ «اِنَّ اللّٰه» کیساتھ النسآء ۵٦ میں ہے۔
۸۔ الفتح ۱۹
۹۔ النسآء ۸۵، الکہف ٤۵ اور الاحزاب ۲۷
۱۰۔ ضمیمہ ۱۲۵
۱۱۔ المومن ۸۵
۱۲۔ الاحزاب ٦۲

۵۔ التوبۃ ۳۳ اور الصف ۹
٦۔ النسآء ۷۹ اور ۱٦٦

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾ لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

ع ۳ ۹ ۱۱

١۔ اس آیت (الفتح ٢٩) میں اور آل عمران ١٥٤ میں تمام حروف تحجی شامل هیں.

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

سُورَةُ الْحُجُرٰتِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوٓا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللّٰهِ أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْحُجُرٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

معانقة ١٥ عند المتأخرین ١٢

٢۔ الاعراف ٦٤ و ٧٢ اور الممتحنة ٤ خیال رهے که دیگر تمام مقامات (٧) میں «آمنوا» بهی شامل هے.

٣۔ المائدة ٢ اور الحشر ٨

٤۔ المائدة ٩ جبکه «مِنكم» کے اضافه کیساتھ النور ٥٥ میں هے.

٥۔ الاحزاب ٣٥

٦۔ الحجرات ٢ اور الممتحنة ١ نیز ضمیمه ٤٧

٧۔ ضمیمه ٦٤

٨۔ البقرة ١٨١ اور الانفال ١٧ نیز ضمیمه ٧٥

٩۔ الحجرات ١ اور الممتحنة ١ نیز ضمیمه ٤٧

١٠۔ الزمر ٥٥ ١١۔ ضمیمه ١٣ ١٢۔ المائدة ٩ ١٣۔ المائدة ١٠٣

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ۝۵ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ ۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ
تُصِيْبُوْا قَوْمًا ۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝٦ وَاعْلَمُوْٓا
اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ
لٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ
الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۝۷ فَضْلًا
مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝۸ وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْ ۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى
الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ
فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝۹
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُوْنَ ۝۱۰ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ
يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا
مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ
الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝۱۱

ع ۱ / ۱۳

۵۔ ضمیمہ ۱۱۹
٦۔ اور ۷۔ ایک ہی آیت میں دو بار۔
۸۔ المآئدۃ ۴۲ اور الممتحنۃ ۸
۹۔ ضمیمہ ٦٤
۱۰۔ ضمیمہ ۱۱۱
۱۱۔ ضمیمہ ۴۷
۱۲۔ اور ۱۳۔ ملتے جلتے الفاظ ہیں توجہ سے پڑھیے۔
۱٤۔ «الاسم الفسوق» کو توجہ سے پڑھیے (ل) کے نیچے زیر ہے۔
۱۵۔ ضمیمہ ۷۷

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ
يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ
رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ
شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۳﴾ قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْۤا
اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَ
رَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴﴾
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا
بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿۱۵﴾
قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۶﴾ يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ؕ
قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ
هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۷﴾ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ
غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾

ع ٢ ١٨

٦۔ النور ٦٢ نیز الانفال ٢
٧۔ البقرة ٢١٨، الانفال ٧٢ و ٧٤ اور التوبة ٢٠ نیز التوبة ٨٨
٨۔ الحشر ٨
٩۔ المآئدة ٩٧ اور المجادلة ٧ نیز ضمیمہ ٨٦ جبکہ «وَالارضِ» کیساتھ التغابن ٤ میں ہے۔
١٠۔ ضمیمہ ٩٤
١١۔ ضمیمہ ٢٠
١٢۔ فاطر ٣٨
١٣۔ «تَعمَلُونَ» کیساتھ صرف یہیں جبکہ «یَعمَلُونَ» کیساتھ البقرة ٩٦، آل عمران ١٦٣ اور المآئدة ٧١

سُورَةُ قٓ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسٌ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۝١ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ
فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝٢ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ
ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۝٣ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا
كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝٤ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۝٥
اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا
مِنْ فُرُوْجٍ ۝٦ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا
فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝٧ تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٨
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۝٩
وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۝١٠ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ
بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۝١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ
الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۝١٢ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۝١٣ وَّاَصْحٰبُ
الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ۝١٤
اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝١٥

ع ١ ١٥ ١٥

٤۔ الحجر ١٩
٥۔ الحجر ١٩ اور لقمان ١٠ نیز عبس ٢٧
٦۔ سبا ٩
٧۔ ضمیمہ ١٨
٨۔ الفرقان ٤٩ اور الزخرف ١١
٩۔ ص ١٢ ، المؤمن ٥ اور القمر ٩
١٠۔ «اَصحٰبُ الرّس» کیساتھ صرف یہیں نیز الحج ٤٢ اور ص ١٢
١١۔ ص ١٣
١٢۔ ص ١٤

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿۱۶﴾ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿۱۷﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿۱۸﴾ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿۱۹﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ۗ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿۲۰﴾ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ﴿۲۱﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿۲۲﴾ وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿۲۳﴾ اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿۲۴﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ﴿۲۵﴾ الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿۲۶﴾ قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ﴿۲۷﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿۲۸﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿۲۹﴾ يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿۳۰﴾ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿۳۱﴾ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿۳۲﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ﴿۳۳﴾ ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿۳۴﴾

۴۔ الکہف ۹۹، یس ۵۱ اور الزمر ۶۸
۵۔ ق ۲۷
۶۔ القلم ۱۲
۷۔ القم ۱۲ اور المطففین ۱۲
۸۔ ضمیمہ ۱۹۷
۹۔ ق ۲۳
۱۰۔ ضمیمہ ۱۱۴
۱۱۔ الشعرآء ۹۰
۱۲۔ ص ۵۳
۱۳۔ یس ۱۱
۱۴۔ الحجر ۴۶

ع ۲ ۱۴ ۱۶

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿٣٥﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ
قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِؕ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ
شَهِيْدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ
اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ﴿٣٨﴾ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ الَّيْلِ
فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ﴿٤٠﴾ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ
قَرِيْبٍ ﴿٤١﴾ يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾
اِنَّا نَحْنُ نُحْىٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ
عَنْهُمْ سِرَاعًا ؕ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ
وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۫ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾

سُوْرَةُ الذّٰرِيٰتِ مَكِّيَّةٌ وَّهِىَ سِتُّوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ﴿١﴾ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ﴿٣﴾ فَالْمُقَسِّمٰتِ
اَمْرًا ﴿٤﴾ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾

۷۔ صرف یہیں نیز فاطر ۳۵
۸۔ طٰہٰ ۱۳۰ نیز صٓ ۱۷ اور المزمل ۱۰
۹۔ طٰہٰ ۱۳۰، المؤمن ۵۵ و الطور ۴۸ نیز الحجر ۹۸ اور النصر ۳
۱۰۔ صرف یہیں نیز طٰہٰ ۱۳۰
۱۱۔ صرف یہیں نیز الطور ۴۹ اور الدھر ۲۶
۱۲۔ سبا ۵۱
۱۳۔ صرف یہیں نیز قٓ ۱۱
۱۴۔ صرف یہیں نیز الحجر ۲۳ اور یٰسٓ ۱۲
۱۵۔ صرف یہیں نیز البقرۃ ۲۸۵ اور الممتحنۃ ۴، آل عمران ۲۸، النور ۴۲ و فاطر ۱۸، المآئدۃ ۱۸، الشوریٰ ۱۵ و التغابن ۳ اور الحج ۴۸، لقمان ۱۴، المؤمن ۳ و

ع ۳ ۱۲ ۱۷

ضمیمہ ۵۲ ۱۶۔ صرف یہیں نیز العنکبوت ۱۹
۱۷۔ طٰہٰ ۱۰۴ نیز الاسرآء ۴۷ ۱۸۔ صرف یہیں جبکہ «اِنّما توعدون لآت» الانعام ۱۳۴ میں اور «اِنّما توعدون لواقع» المرسلات ۷ میں ھے۔ ۱۹۔ صرف یہیں نیز الطور ۷ اور المرسلات ۷

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿٧﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿٩﴾ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿١١﴾ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

ع ١ ٢٣ ١٨

٥۔ خیال سے پڑھیے یہاں «هُم» استعمال ہوا ہے۔
٦۔ المعارج ٢٤
٧۔ المعارج ٢٥
٨۔ القصص ٧٢ اور الزخرف ٥١ نیز السجدة ٢٧
٩۔ النازعات ١٥ ، البروج ١٧ اور الغاشیة ١
١٠۔ الحجر ٥٢ اور ص ٢٢
١١۔ هود ٦٩ اور الحجر ٥٢
١٢۔ الصآفات ٩١ اور ٩٣
١٣۔ هود ٧٠ اور طه ٦٧
١٤۔ هود ٧٠ ، العنكبوت ٣٣ اور ص ٢٢

١٥۔ الحجر ٥٣ اور الصآفات ١٠١ ١٦۔ صرف یہیں جبکہ «وهو الحكيم العليم» الزخرف ٨٤ میں ہے۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۳۱﴾ قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿۳۲﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ﴿۳۳﴾ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿۳۴﴾ فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۳۵﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۳۶﴾ وَتَرَكْنَا فِيْهَآ اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿۳۷﴾ وَفِيْ مُوْسٰٓى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۸﴾ فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿۳۹﴾ فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿۴۰﴾ وَفِيْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ﴿۴۱﴾ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ﴿۴۲﴾ وَفِيْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ﴿۴۳﴾ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿۴۴﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ﴿۴۵﴾ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿۴۶﴾ وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿۴۷﴾ وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ﴿۴۸﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۴۹﴾ فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۵۰﴾

۶۔ القصص ۴۰
۷۔ ضمیمہ ۱۸۷
۸۔ النسآء ۱۵۳
۹۔ النجم ۵۲
۱۰۔ النمل ۱۲، القصص ۳۲ اور الزخرف ۵۴
۱۱۔ ضمیمہ ۱۵۷
۱۲۔ الذاریات ۵۱

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ؕ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۚ﴿۵۱﴾ كَذٰلِكَ مَاۤ اَتَى الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ۚ﴿۵۲﴾ اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۚ﴿۵۳﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَاۤ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ٭﴿۵۴﴾ وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۵۵﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾ مَاۤ اُرِیْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّ مَاۤ اُرِیْدُ اَنْ یُّطْعِمُوْنِ ﴿۵۷﴾ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِیْنُ ﴿۵۸﴾ فَاِنَّ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا یَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿۵۹﴾ فَوَیْلٌ لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ یَّوْمِهِمُ الَّذِیْ یُوْعَدُوْنَ ۠﴿۶۰﴾

سُوْرَةُ الطُّوْرِ مَكِّیَّةٌ وَّهِیَ تِسْعٌ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰیَةً وَّفِیْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالطُّوْرِ ۙ﴿۱﴾ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۙ﴿۲﴾ فِیْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۙ﴿۳﴾ وَّالْبَیْتِ الْمَعْمُوْرِ ۙ﴿۴﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۙ﴿۵﴾ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۙ﴿۶﴾ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۙ﴿۷﴾ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۙ﴿۸﴾ یَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۙ﴿۹﴾ وَّتَسِیْرُ الْجِبَالُ سَیْرًا ؕ﴿۱۰﴾ فَوَیْلٌ یَّوْمَىِٕذٍ لِّلْمُكَذِّبِیْنَ ۙ﴿۱۱﴾ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ خَوْضٍ یَّلْعَبُوْنَ ۘ﴿۱۲﴾ یَوْمَ یُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ؕ﴿۱۳﴾ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِیْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿۱۴﴾

۵۔ الصآفات ۱۷٤ و ۱۷۸ اور القمر ٦
٦۔ الطور ٤۷
۷۔ مریم ۳۷ اور ص ۲۷
۸۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۲۲۳
۹۔ الانعام ۹۱
۱۰۔ سبا ٤۲ نیز السجدۃ ۲۰ ، الصآفات ۲۱ اور المطففین ۱۷

وقف لازم

أَفَسِحْرٌ هٰذَآ أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿۱۵﴾ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا أَوْ لَا
تَصْبِرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶﴾ إِنَّ
الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ﴿۱۷﴾ فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقٰهُمْ
رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿۱۸﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۹﴾
مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿۲۰﴾ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ
أَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿۲۱﴾ وَ
أَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿۲۲﴾ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا
كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَأْثِيْمٌ ﴿۲۳﴾ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ
كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿۲۴﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ
يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿۲۵﴾ قَالُوْٓا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿۲۶﴾ فَمَنَّ
اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿۲۷﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ
نَدْعُوْهُ إِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿۲۸﴾ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ
بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ﴿۲۹﴾ أَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ
الْمَنُوْنِ ﴿۳۰﴾ قُلْ تَرَبَّصُوْا فَإِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿۳۱﴾

ع ۱ ۲۸ ۲

۳۔ الذاریات ۱۶
۴۔ الدخان ۵۶
۵۔ الحآقة ۲۴ اور المرسلات ۴۳
۶۔ ضمیمہ ۱۳۰
۷۔ الرحمٰن ۵۴ اور ۷۶
۸۔ الدخان ۵۴
۹۔ اور ۱۰۔ ملتے جلتے الفاظ هیں خیال سے پڑھیے۔
۱۱۔ الواقعة ۲۱
۱۲۔ الواقعة ۱۷ اور الدهر ۱۹
۱۳۔ الصآفات ۲۷ و ۵۰ اور القلم ۳۰ نیز ضمیمہ ۲۰۴
۱۴۔ القلم ۲

أَمْ تَأْمُرُهُمْ

۱۵۔ الطور ۳۳ خیال رہے کہ اس سورۃ میں «اَم» سے بارہ آیات کا آغاز ہو رہا ہے۔

اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿۳۲﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۳﴾ فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿۳٤﴾ اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿۳۵﴾ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ﴿۳٦﴾ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ﴿۳۷﴾ اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۸﴾ اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ﴿۳۹﴾ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤۰﴾ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤۱﴾ اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ۚ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ﴿٤۲﴾ اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤۳﴾ وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ﴿٤٤﴾ فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ﴿٤۵﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤۷﴾ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٤۸﴾ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ﴿٤۹﴾

ع ۲ / ۲۱ / ٤

۵۔ ص ۹
٦۔ المؤمنون ۷۲ اور القلم ٤٦
۷۔ القلم ٤٦
۸۔ القلم ٤۷
۹۔ الحج ۱۹ جبکہ «الّا الذین کفروا» المؤمن ٤ میں، «وللّذین کفروا» الملک ٦ میں اور «انّ الذین کفروا» ضمیمہ ۷ میں
۱۰۔ الحشر ۲۳
۱۱۔ ضمیمہ ۱٤۰
۱۲۔ یہاں (ك) استعمال ہوا ہے خیال رکھیے۔
۱۳۔ الزخرف ۸۳ اور المعارج ٤۲
۱٤۔ الدخان ٤۱
۱۵۔ الذاریات ۵۹

۱٦۔ ضمیمہ ۱٤۳ ۱۷۔ القلم ٤۸ ۱۸۔ طٰه ۱۳۰، المؤمن ۵۵ اور قٓ ۳۹ ۱۹۔ الشعرآء ۲۱۸
۲۰۔ قٓ ٤۰ اور الدهر ۲٦ ۲۱۔ قٓ ٤۰

سُوْرَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اِثْنَتَانِ وَّسِتُّوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ﴿۱﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ﴿۲﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ﴿۳﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ﴿۴﴾ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ﴿۵﴾ ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى ﴿۶﴾ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ﴿۷﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ﴿۸﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ﴿۹﴾ فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ﴿۱۰﴾ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ﴿۱۱﴾ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ﴿۱۲﴾ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ﴿۱۳﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿۱۴﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ﴿۱۵﴾ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ﴿۱۶﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿۱۷﴾ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿۱۸﴾ اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿۱۹﴾ وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ﴿۲۰﴾ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ﴿۲۱﴾ تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿۲۲﴾ اِنْ هِيَ اِلَّاۤ اَسْمَاۤءٌ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَاۤؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۱ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاۤءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ۲ ﴿۲۳﴾ اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ﴿۲۴﴾ فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ﴿۲۵﴾

ع ۱ ۵

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ
بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَرْضٰى ﴿۲۶﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ﴿۲۷﴾ وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ
عِلْمٍ ۭ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ
شَيْـًٔا ﴿۲۸﴾ فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۬ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا ﴿۲۹﴾ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ۭ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۙ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ﴿۳۰﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ
اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ﴿۳۱﴾ اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ
اِلَّا اللَّمَمَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۭ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا
اَنْفُسَكُمْ ۭ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿۳۲﴾ اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ تَوَلّٰى ﴿۳۳﴾ وَاَعْطٰى
قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ﴿۳۴﴾ اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ﴿۳۵﴾ اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ
بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسٰى ﴿۳۶﴾ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰٓى ﴿۳۷﴾ اَلَّا تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ﴿۳۸﴾ وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ﴿۳۹﴾

۳۔ الانعام ۱۱۶، یونس ۶۶ اور النجم ۲۳
۴۔ یونس ۳۶
۵۔ ضمیمہ ۱۵۳
۶۔ صرف یہیں نیز الانعام ۱۱۷، النحل ۱۲۵، القصص ۵۶ اور القلم ۷
۷۔ ضمیمہ ۸۶ اور ۱۰۸
۸۔ یونس ۲۶
۹۔ الشوریٰ ۳۷
۱۰۔ النحل ۷۸ اور الزمر ۶
۱۱۔ ضمیمہ ۱۵۸

٤۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۲۲۱
۵۔ ضمیمہ ۱۹
٦۔ ضمیمہ ۱٤۰
۷۔ محمد ۱٤ اور ۱٦

وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ﴿٤١﴾ وَاَنَّ اِلٰى
رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ﴿٤٢﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ﴿٤٣﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَ
اَحْيَا ﴿٤٤﴾ وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٤٥﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ
اِذَا تُمْنٰى ﴿٤٦﴾ وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ﴿٤٧﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَ
اَقْنٰى ﴿٤٨﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ﴿٤٩﴾ وَاَنَّهٗ اَهْلَكَ عَادَا ِۨ الْاُوْلٰى ﴿٥٠﴾ وَ
ثَمُوْدَاۡ فَمَآ اَبْقٰى ﴿٥١﴾ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ
وَاَطْغٰى ﴿٥٢﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى ﴿٥٣﴾ فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰى ﴿٥٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكَ تَتَمَارٰى ﴿٥٥﴾ هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى ﴿٥٦﴾ اَزِفَتِ
الْاٰزِفَةُ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ اَفَمِنْ هٰذَا
الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَاَنْتُمْ
سٰمِدُوْنَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ﴿٦٢﴾

ع ۳ السجدة ۷

سُوْرَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسٌ وَّخَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا
سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾ وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣﴾

صفحہ نمبر ۵۳۰ ۱۔ الصافات ۱۷۴ ، ۱۷۸ اور الذاریات ۵۴ ۲۔ المعارج ۴۳ ۳۔ ص ۱۲ ، المؤمن ۵ اور ق ۱۲ نیز القمر ۱۸ ، ۲۳ اور ۳۳

وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾ حِكْمَةٌۢ بَٰلِغَةٌ ۖ فَمَا
تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ﴿٥﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَىْءٍ نُّكُرٍ ﴿٦﴾ (وقف لازم)
خُشَّعًا أَبْصَٰرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿٧﴾
مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَٰفِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾ كَذَّبَتْ
قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا۟ عَبْدَنَا وَقَالُوا۟ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ﴿٩﴾
فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ
مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾
وَحَمَلْنَٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ
كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَلَقَد تَّرَكْنَٰهَآ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى
وَنُذُرِ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾ كَذَّبَتْ
عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿١٨﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا
صَرْصَرًا فِى يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ
نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ (ع ۱ ۲۲ ۸)
فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرًا مِّنَّا وَٰحِدًا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًا لَّفِى ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

۴۔ الدخان ۲۲
۵۔ ضمیمہ ۲۱۹
۶۔ ضمیمہ ۱۹۱
۷۔ ضمیمہ ۲۲۰
۸۔ القمر ۲۲ ، ۳۲ اور ۴۰
۹۔ ضمیمہ ۲۱۹
۱۰۔ القمر ۹ ، ۲۳ اور ۳۳
۱۱۔ ضمیمہ ۱۹۱
۱۲۔ ضمیمہ ۲۲۰
۱۳۔ القمر ۳۱ اور ۳۴
۱۴۔ حم السجدۃ ۱۶
۱۵۔ الحاقۃ ۷
۱۶۔ ضمیمہ ۱۹۱
۱۷۔ ضمیمہ ۲۲۰
۱۸۔ القمر ۱۷ ، ۳۲ اور ۴۰

۱۹۔ ضمیمہ ۲۱۹ ۲۰۔ الشعرآء ۱۴۱ ، الحاقۃ ۴ اور الشمس ۱۱ نیز القمر ۹ ، ۱۸ اور ۳۳ ۲۱۔ القمر ۴۷

ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُوْنَ
غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٦﴾ اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ
فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾ وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ
كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً
وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍۢ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا
كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا
بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا
عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوْقُوْا
عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ
مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا
فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾ اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ
اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾

ع ۲ ۱۸ ۹

۴۔ ضمیمہ ۲۲۰
۵۔ القمر ۱۹ اور ۳۴
۶۔ ضمیمہ ۲۱۵
۷۔ القمر ۱۷، ۲۲ اور ۴۰
۸۔ ضمیمہ ۲۱۹
۹۔ القمر ۹، ۱۸ اور ۲۳
۱۰۔ العنکبوت ۴۰ نیز القمر ۱۹ اور ۳۱
۱۱۔ القمر ۳۹ نیز ضمیمہ ۲۲۰
۱۲۔ القمر ۳۷ نیز ضمیمہ ۲۲۰
۱۳۔ القمر ۱۷، ۲۲ اور ۳۲
۱۴۔ ضمیمہ ۲۱۹
۱۵۔ طه ۵۶
۱۶۔ القمر ۵۵

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ

اَدْهٰى وَاَمَرُّ ﴿٤٦﴾ اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ

فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ

بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا

اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَ

كُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ﴿٥٤﴾

فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ ثَمَانٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلرَّحْمٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿٦﴾ وَالسَّمَآءَ

رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿٧﴾ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ﴿٨﴾ وَاَقِيْمُوا

الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿٩﴾ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا

لِلْاَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَالْحَبُّ

ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٣﴾

٤۔ ضمیمہ ۲۱۹
٥۔ الحجر ٤٥،
الذاریات ۱۵
اور الطور ۱۷
٦۔ القمر ٤۲
۷۔ الرحمٰن ۸
اور ۹
۸۔ الرحمٰن ۷
اور ۹
۹۔ الرحمٰن ۷
اور ۸
۱۰۔ الرحمٰن ٦۸
۱۱۔ ضمیمہ
۲۲۱

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿۱۴﴾ وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿۱۵﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۱۶﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿۱۷﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۱۸﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿۱۹﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿۲۰﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۱﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿۲۲﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۳﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿۲۴﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۵﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿۲۶﴾ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿۲۷﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۸﴾ يَسْـَٔلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ﴿۲۹﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۰﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿۳۱﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۲﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿۳۳﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۴﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿۳۵﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۶﴾ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿۳۷﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۸﴾

۵۔ ضمیمہ ۲۲۱
۶۔ الشوریٰ ۳۲
۷۔ ضمیمہ ۲۲۱
۸۔ الرحمٰن ۷۸
۹۔ ضمیمہ ۲۲۱
۱۰۔ ضمیمہ ۱۰۶
۱۱۔ ضمیمہ ۲۲۱
۱۲۔ ضمیمہ ۲۲۱
۱۳۔ الانعام ۱۲۸ اور ۱۳۰
۱٤۔ ضمیمہ ۲۲۱
۱۵۔ ضمیمہ ۲۲۱
۱٦۔ ضمیمہ ۲۲۱

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ﴿۳۹﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٤۰﴾ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَ
الْاَقْدَامِ ﴿٤۱﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤۲﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ
بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤۳﴾ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤۵﴾ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤۷﴾ ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ ﴿٤۸﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤۹﴾ فِيْهِمَا
عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿۵۰﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۱﴾ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ
فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿۵۲﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۳﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ
بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿۵٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۵﴾ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ
وَلَا جَآنٌّ ﴿۵٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۷﴾ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَ
الْمَرْجَانُ ﴿۵۸﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۵۹﴾ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ
اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦۰﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦۱﴾ وَمِنْ دُوْنِهِمَا
جَنَّتٰنِ ﴿٦۲﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦۳﴾ مُدْهَآمَّتٰنِ ﴿٦٤﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦۵﴾ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾

۵۔ ضمیمہ ۲۲۱
٦۔ ضمیمہ ۲۲۱
۷۔ الرحمٰن ٦٦
۸۔ ضمیمہ ۲۲۱
۹۔ ضمیمہ ۲۲۱
۱۰۔ الطور ۲۰ اور الرحمٰن ۷٦
۱۱۔ ضمیمہ ۲۲۱
۱۲۔ الرحمٰن ۷۰
۱۳۔ الصافات ٤۸ اور ص ۵۲
۱٤۔ الرحمٰن ۷٤
۱۵۔ ضمیمہ ۲۲۱
۱٦۔ ضمیمہ ۲۲۱
۱۷۔ ضمیمہ ۲۲۱
۱۸۔ ضمیمہ ۲۲۱

۱۹۔ ضمیمہ ۲۲۱ ۲۰۔ الرحمٰن ۵۰

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۶۷﴾ فِیۡهِمَا فَاکِهَةٌ وَّ نَخۡلٌ وَّ رُمَّانٌ ﴿۶۸﴾

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۶۹﴾ فِیۡهِنَّ خَیۡرٰتٌ حِسَانٌ ﴿۷۰﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ

رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۷۱﴾ حُوۡرٌ مَّقۡصُوۡرٰتٌ فِی الۡخِیَامِ ﴿۷۲﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا

تُکَذِّبٰنِ ﴿۷۳﴾ لَمۡ یَطۡمِثۡهُنَّ اِنۡسٌ قَبۡلَهُمۡ وَ لَا جَآنٌّ ﴿۷۴﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا

تُکَذِّبٰنِ ﴿۷۵﴾ مُتَّکِـِٕیۡنَ عَلٰی رَفۡرَفٍ خُضۡرٍ وَّ عَبۡقَرِیٍّ حِسَانٍ ﴿۷۶﴾ فَبِاَیِّ

اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۷۷﴾ تَبٰرَکَ اسۡمُ رَبِّکَ ذِی الۡجَلٰلِ وَ الۡاِکۡرَامِ ﴿۷۸﴾

سُوۡرَةُ الۡوَاقِعَةِ مَکِّیَّةٌ وَهِیَ سِتٌّ وَّتِسۡعُوۡنَ اٰیَةً وَّثَلٰثُ رُکُوۡعَاتٍ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اِذَا وَقَعَتِ الۡوَاقِعَةُ ﴿۱﴾ لَیۡسَ لِوَقۡعَتِهَا کَاذِبَةٌ ﴿۲﴾ خَافِضَةٌ

رَّافِعَةٌ ﴿۳﴾ اِذَا رُجَّتِ الۡاَرۡضُ رَجًّا ﴿۴﴾ وَّ بُسَّتِ الۡجِبَالُ بَسًّا ﴿۵﴾

فَکَانَتۡ هَبَآءً مُّنۡۢبَثًّا ﴿۶﴾ وَّ کُنۡتُمۡ اَزۡوَاجًا ثَلٰثَةً ﴿۷﴾ فَاَصۡحٰبُ الۡمَیۡمَنَةِ ۬

مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡمَیۡمَنَةِ ﴿۸﴾ وَ اَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔمَةِ ۬ مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔمَةِ ﴿۹﴾

وَ السّٰبِقُوۡنَ السّٰبِقُوۡنَ ﴿۱۰﴾ اُولٰٓئِکَ الۡمُقَرَّبُوۡنَ ﴿۱۱﴾ فِیۡ جَنّٰتِ

النَّعِیۡمِ ﴿۱۲﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿۱۳﴾ وَ قَلِیۡلٌ مِّنَ الۡاٰخِرِیۡنَ ﴿۱۴﴾

عَلٰی سُرُرٍ مَّوۡضُوۡنَةٍ ﴿۱۵﴾ مُّتَّکِـِٕیۡنَ عَلَیۡهَا مُتَقٰبِلِیۡنَ ﴿۱۶﴾

۵۔ ضمیمہ ۲۲۱
۶۔ ضمیمہ ۲۲۱
۷۔ الرحمن ۵۶
۸۔ ضمیمہ ۲۲۱
۹۔ الطور ۲۰ اور الرحمن ۵۴
۱۰۔ ضمیمہ ۲۲۱
۱۱۔ الرحمن ۲۷
۱۲۔ الحآقۃ ۱۵
۱۳۔ البلد ۱۸
۱۴۔ یونس ۹، الحج ۵۶ اور الصآفات ۴۳
۱۵۔ الواقعۃ ۳۹

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيقَ ۙ وَكَأْسٍ
مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا
يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَالِ
اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا
لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۙ مَا أَصْحَابُ
الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَ
مَآءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَّلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَ
فُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَآءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾
عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ
الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۙ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ وَ
حَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ
ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوا
يَقُولُونَ ۙ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوَآبَاؤُنَا
الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ ۙ إِلَىٰ
مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾

ع ۱ ۳۸ ۱۴

۵۔ السجدۃ ۱۷ اور الاحقاف ۱۴ نیز ضمیمہ ۱۵۲
۶۔ مریم ۶۲ اور النبا ۳۵
۷۔ المدثر ۳۹
۸۔ الواقعة ۱۳
۹۔ الذاریات ۱۶
۱۰۔ المومنون ۸۲، الصآفات ۱۶ اور ۵۳ جبکہ «ترابا وعظاما» المومنون ۳۵ میں ہے۔
۱۱۔ الصآفات ۱۷
۱۲۔ الشعرآء ۳۸

٥۔ الواقعة ٧٠
٦۔ القلم ٢٧
٧۔ الواقعة ٥٩، ٦٤ اور ٧٢
٨۔ الواقعة ٦٥
٩۔ الواقعة ٥٩، ٦٤ اور ٦٩
١٠۔ الواقعة ٩٦ اور الحاقة ٥٢
١١۔ ضميمه ٢٢٢

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾
فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾
هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿٥٧﴾
اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿٥٨﴾ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿٥٩﴾
نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٦٠﴾ عَلٰۤى اَنْ
نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ
النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾
ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا
فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾
اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ
الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا
تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾ ءَاَنْتُمْ
اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَاۤ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً
وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾ فَلَاۤ
اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿۷۷﴾ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿۷۸﴾ لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿۷۹﴾
تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۸۰﴾ اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿۸۱﴾
وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿۸۲﴾ فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿۸۳﴾
وَاَنْتُمْ حِيْنَىِٕذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿۸۴﴾ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا
تُبْصِرُوْنَ ﴿۸۵﴾ فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿۸۶﴾ تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۸۷﴾ فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿۸۸﴾ فَرَوْحٌ وَّ
رَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿۸۹﴾ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿۹۰﴾
فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿۹۱﴾ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ
الضَّآلِّيْنَ ﴿۹۲﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿۹۳﴾ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿۹۴﴾ اِنَّ
هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿۹۵﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿۹۶﴾

ع ۳ ۲۲ ۱۶

سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱﴾ لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲﴾
هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۳﴾

۵۔ الواقعة ۸۸ اور ۹۲
۶۔ الواقعة ۸۸ اور ۹۰
۷۔ الحآقة ۵۱
۸۔ الواقعة ۷۴ اور الحآقة ۵۲
۹۔ الحشر ۱ اور الصف ۱
۱۰۔ ضمیمہ ۱۲۷ اور ۵۱
۱۱۔ ضمیمہ ۱۹۳
۱۲۔ الحدید ۵ نیز ضمیمہ ۴۹
۱۳۔ ضمیمہ ۸۹
۱۴۔ ضمیمہ ۱۳۴
۱۵۔ البقرة ۲۹ اور الانعام ۱۰۱ جبکہ «خلق» کیساتھ یٰسٓ ۷۹ میں ھے۔

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٤﴾ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٥﴾ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٦﴾ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩﴾ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٠﴾

ع ١ ١٠ ١٧

٦۔ ضمیمہ ٦٩
٧۔ الحج ٦١، لقمان ٢٩ اور فاطر ١٣
٨۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ١٧٤
٩۔ النسآء ١٣٦
١٠۔ الحدید ١٠
١١۔ ضمیمہ ٤٥
١٢۔ آل عمران ٦، یونس ٢٢ اور المؤمن ١٣
١٣۔ ضمیمہ ٨٨
١٤۔ الحدید ٨
١٥۔ آل عمران ١٨٠
١٦۔ النسآء ٩٥
١٧۔ ضمیمہ ٧٩

مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ
اَجْرٌ كَرِیْمٌ ﴿۱۱﴾ یَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ یَسْعٰى نُوْرُهُمْ
بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَبِاَیْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْیَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿۱۲﴾ یَوْمَ یَقُوْلُ
الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ
نُّوْرِكُمْ ۚ قِیْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَیْنَهُمْ
بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِیْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿۱۳﴾
یُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ
وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِیُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَ
غَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿۱٤﴾ فَالْیَوْمَ لَا یُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْیَةٌ وَّلَا مِنَ
الَّذِیْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِیَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِیْرُ ﴿۱۵﴾ اَلَمْ
یَاْنِ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ
الْحَقِّ ۙ وَلَا یَكُوْنُوْا كَالَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَیْهِمُ
الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَكَثِیْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۱٦﴾ اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ
یُحْیِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَیَّنَّا لَكُمُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷﴾

٦۔ التوبة ۷۲، یونس ٦٤ اور الدخان ۵۷
۷۔ «بینهم» کو خیال سے پڑھیے۔
۸۔ «غ» پر زبر ہے احتیاط سے پڑھیے۔
۹۔ صرف یہیں نیز العنکبوت ۲۵، الجاثیة ۳٤ اور آل عمران ۱۵۱
۱۰۔ ضمیمہ ۵۲
۱۱۔ الحدید ۲٦ اور ۲۷
۱۲۔ الحدید ۲۰
۱۳۔ الروم ۱۹، ۲٤ اور ۵۰
۱٤۔ آل عمران ۱۱۸
۱۵۔ ضمیمہ ٤۰

۱۔ دونوں «ص» پر تشدید ہے، توجہ سے پڑھیے۔ ۲۔ الحدید ۱۱ ۳۔ النسآء ۱۵۲

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَأَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ
لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ أُولٰٓئِكَ هُمُ
الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۗ وَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَآ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾ اِعْلَمُوٓا
أَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِينَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيجُ
فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطٰمًا ۖ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ
مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾
سَابِقُوٓا إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَ
الْأَرْضِ ۙ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ
يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾ مَآ أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ
ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَآ
اٰتٰىكُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

ع ۲ ۹ ۱۸

٤۔ ضمیمہ ۲۵ اور ۲٦
۵۔ المآئدۃ ۱۰ و ۸٦ اور الحج ۵۱
٦۔ الحدید ۱۷
۷۔ الانعام ۳۲ اور محمد ۳٦ نیز العنکبوت ٦٤ میں «لھو» پہلے ہے۔
۸۔ الزمر ۲۱
۹۔ آل عمران ۱۸۵
۱۰۔ آل عمران ۱۳۳
۱۱۔ ضمیمہ ۱۰۵
۱۲۔ ضمیمہ ٤۸
۱۳۔ الشوری ۳۰ اور التغابن ۱۱
۱٤۔ الحج ۷۰، العنکبوت ۱۹ اور فاطر ۱۱ جبکہ «وذلک» کیساتھ التغابن ۷ میں ہے۔

۱۵۔ النسآء ۳٦ ۱٦۔ النسآء ۳۷ ۱۷۔ الممتحنۃ ٦

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ
بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ
رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿۲۵﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ
اِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ
وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۲۶﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا
بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَرَهْبَانِيَّةَ ِۨابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا
عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاۗءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ
فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۲۷﴾
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ
كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۸﴾ لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ
عَلٰي شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ
يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۹﴾

ع ۳ ۱۹ — ع ۴ ۲۰

میں «لَقَوِی» کیساتھ ھے۔
۴۔ هود ۲۵، المومنون ۲۳، العنکبوت ۱۴ اور نوح ۱ نیز «نُوحا» کے بغیر الحدید ۲۵ میں ھے۔
۵۔ العنکبوت ۲۷
۶۔ الحدید ۱۶ اور ۲۷
۷۔ المآئدة ۴۶
۸۔ الحدید ۱۶ اور ۲۶
۹۔ ضمیمه ۴۷ اور ۹۳
۱۰۔ ضمیمه ۷۱
۱۱۔ ضمیمه ۱۰۵
۱۲۔ ضمیمه ۴۸

سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ اثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَ
تَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝١
اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَاۗىِٕهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۭ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ
اِلَّا الّٰۗـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۭ وَ
اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝٢ وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَاۗىِٕهِمْ ثُمَّ
يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاۗسَّا ۭ ذٰلِكُمْ
تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٣ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاۗسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ
سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۭ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۭ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۭ
وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٤ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَاۗدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۭ وَ
لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ
بِمَا عَمِلُوْا ۭ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝٦

الجزء ٢٨ — ع ١

٥۔ الحج ٦٠
٦۔ المحادلة ٢
٧۔ النسآء ٩٢ میں دوبار «فتحرير» اور ایک بار «وتحرير» کیساتھ هے۔
٨۔ المحادلة ٤
٩۔ ضميمه ٧٩
١٠۔ البقرة ١٩٦، النسآء ٩٢ اور المآئدة ٨٩
١١۔ المحادلة ٣
١٢۔ البقرة ٢٣٠ اور الطلاق ١
١٣۔ البقرة ١٠٤
١٤۔ المحادلة ٢٠
١٥۔ البقرة ٩٩
١٦۔ البقرة ٩٠
١٧۔ المحادلة ١٨
١٨۔ المحادلة ٧

١٩۔ البروج ٩ جبکه «إنّ الله» کیساتھ الحج ١٧ میں هے۔

اَلَمۡ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعۡلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ‌ؕ مَا يَكُوۡنُ مِنۡ
نَّجۡوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمۡ وَلَا خَمۡسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمۡ وَلَاۤ اَدۡنٰى مِنۡ
ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكۡثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ اَيۡنَ مَا كَانُوۡا‌ ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمۡ بِمَا عَمِلُوۡا
يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ﴿۷﴾ اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ نُهُوۡا عَنِ
النَّجۡوٰى ثُمَّ يَعُوۡدُوۡنَ لِمَا نُهُوۡا عَنۡهُ وَيَتَنٰجَوۡنَ بِالۡاِثۡمِ وَالۡعُدۡوَانِ
وَمَعۡصِيَتِ الرَّسُوۡلِ وَاِذَا جَآءُوۡكَ حَيَّوۡكَ بِمَا لَمۡ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ
وَيَقُوۡلُوۡنَ فِىۡۤ اَنۡفُسِهِمۡ لَوۡلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوۡلُ‌ ؕ حَسۡبُهُمۡ جَهَنَّمُ‌ ۚ
يَصۡلَوۡنَهَا‌ ۚ فَبِئۡسَ الۡمَصِيۡرُ ﴿۸﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا تَنَاجَيۡتُمۡ
فَلَا تَتَنَاجَوۡا بِالۡاِثۡمِ وَالۡعُدۡوَانِ وَمَعۡصِيَتِ الرَّسُوۡلِ وَتَنَاجَوۡا
بِالۡبِرِّ وَالتَّقۡوٰى‌ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىۡۤ اِلَيۡهِ تُحۡشَرُوۡنَ ﴿۹﴾ اِنَّمَا النَّجۡوٰى
مِنَ الشَّيۡطٰنِ لِيَحۡزُنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَلَيۡسَ بِضَآرِّهِمۡ شَيۡـئًا اِلَّا
بِاِذۡنِ اللّٰهِ‌ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۰﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ
اٰمَنُوۡۤا اِذَا قِيۡلَ لَـكُمۡ تَفَسَّحُوۡا فِى الۡمَجٰلِسِ فَافۡسَحُوۡا يَفۡسَحِ اللّٰهُ
لَـكُمۡ‌ ۚ وَاِذَا قِيۡلَ انْشُزُوۡا فَانْشُزُوۡا يَرۡفَعِ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا
مِنۡكُمۡ ۙ وَالَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ دَرَجٰتٍ‌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ ﴿۱۱﴾

٣ـ المجادلۃ ٦
٤ـ الانفال ٧٥، التوبۃ ١١٥ اور العنکبوت ٦٢ جبکہ «وَاَنَّ اللّٰہ» کیساتھ المآئدۃ ٩٧ میں نیز ضمیمہ ٩٤
٥ـ ضمیمہ ٨٠ اور ٨١
٦ـ المجادلۃ ٩
٧ـ ابراھیم ٢٩ اور ص ٥٦
٨ـ صرف یہیں نیز ضمیمہ ٥٢
٩ـ المجادلۃ ١١ اور ١٢ نیز ضمیمہ ٤٧
١٠ـ المجادلۃ ٨
١١ـ المآئدۃ ٩٦ نیز ضمیمہ ٦٤ اور ١١٦
١٢ـ ضمیمہ ١١٠
١٣ـ المجادلۃ ٩ اور ١٢ نیز ضمیمہ ٤٧ ١٤ـ ضمیمہ ٧٩

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾ ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۴﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵﴾ اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۶﴾ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۷﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿۱۸﴾ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰىهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۹﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اُولٰٓئِكَ فِي الْاَذَلِّيْنَ ﴿۲۰﴾

ع ۲ / ۷ / ۲

۵۔ الحج ۷۸ نیز ضمیمہ ۳۰
۶۔ آل عمران ۱۵۳، التوبۃ ۱۶ اور المنافقون ۱۱ نیز ضمیمہ ۷۹
۷۔ ضمیمہ ۸۰ اور ۸۱
۸۔ الممتحنۃ ۱۳
۹۔ آل عمران ۷۵ اور ۷۸
۱۰۔ الطلاق ۱۰
۱۱۔ ضمیمہ ۱۰۱
۱۲۔ التوبۃ ۹ اور المنافقون ۲ نیز ضمیمہ ۱۲۹
۱۳۔ المنافقون ۲ نیز التوبۃ ۳۱
۱٤۔ آل عمران ۱۰ اور ۱۱۶
۱۵۔ ضمیمہ ۲۷
۱٦۔ ضمیمہ ۲۸
۱۷۔ المجادلۃ ٦
۱۸۔ المجادلۃ ۵

١۔ الحدید ٢٥ جبکہ الحج ٤٠ اور ٧٤ میں «لَقَوِی» کیساتھ ہے۔ ٢۔ آل عمران ١١٤ اور التوبة ٤٤ جبکہ «تؤمِنُون» النسآء ٥٩ اور النور ٢ میں استعمال ہوا ہے نیز ضمیمہ ٣٧

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغۡلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىۡ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيۡزٌ ﴿٢١﴾ لَا تَجِدُ قَوۡمًا يُّؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ يُوَآدُّوۡنَ مَنۡ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ وَلَوۡ كَانُوۡۤا اٰبَآءَهُمۡ اَوۡ اَبۡنَآءَهُمۡ اَوۡ اِخۡوَانَهُمۡ اَوۡ عَشِيۡرَتَهُمۡ‌ ؕ اُولٰٓـئِكَ كَتَبَ فِىۡ قُلُوۡبِهِمُ الۡاِيۡمَانَ وَاَيَّدَهُمۡ بِرُوۡحٍ مِّنۡهُ‌ ؕ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا‌ ؕ رَضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُوۡا عَنۡهُ‌ ؕ اُولٰٓـئِكَ حِزۡبُ اللّٰهِ‌ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزۡبَ اللّٰهِ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿٢٢﴾ ع ٣

سُوۡرَةُ الۡحَشۡرِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِىَ اَرۡبَعٌ وَّعِشۡرُوۡنَ اٰيَةً وَّثَلٰثُ رُكُوۡعَاتٍ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ‌ ۚ وَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِىۡۤ اَخۡرَجَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ مِنۡ دِيَارِهِمۡ لِاَوَّلِ الۡحَشۡرِ‌ ؕ مَا ظَنَنۡتُمۡ اَنۡ يَّخۡرُجُوۡا وَظَنُّوۡۤا اَنَّهُمۡ مَّانِعَتُهُمۡ حُصُوۡنُهُمۡ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰٮهُمُ اللّٰهُ مِنۡ حَيۡثُ لَمۡ يَحۡتَسِبُوۡا‌ ۖ وَقَذَفَ فِىۡ قُلُوۡبِهِمُ الرُّعۡبَ يُخۡرِبُوۡنَ بُيُوۡتَهُمۡ بِاَيۡدِيۡهِمۡ وَاَيۡدِى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۖ فَاعۡتَبِرُوۡا يٰۤاُولِى الۡاَبۡصَارِ ﴿٢﴾ وَلَوۡلَاۤ اَنۡ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيۡهِمُ الۡجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمۡ فِى الدُّنۡيَا‌ ؕ وَلَهُمۡ فِى الۡاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿٣﴾

وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم

٣۔ ضمیمہ ٢١
٤۔ ضمیمہ ٥٨
٥۔ المائدة ١١٩ ، التوبة ١٠٠ اور البینة ٨
٦۔ الحدید ١ اور الصف ١
٧۔ ضمیمہ ٩٥ اور ٨٦
٨۔ ضمیمہ ١٩٣
٩۔ الحشر ١١
١٠۔ الاحزاب ٢٦
١١۔ خیال رہے کہ «اَلبَابِ» کیساتھ یہ آیت کہیں نہیں آئی ہے۔
١٢۔ «بُ» پر پیش ہے خیال سے پڑھیے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ ④ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى
اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ⑤ وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى
رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ
اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑥
مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ
وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ
دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۭ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۤ وَمَا
نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ⑦
لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ⑧ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ
قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ
حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ ۭ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑨

وقف لازم

۵۔ الحشر ۶
۶۔ البقرة ۱۷۷ و ۲۱۵ اور الانفال ۴۱
۷۔ ضمیمہ ۶۴
۸۔ المآئدة ۲
۹۔ البقرة ۲۷۳
۱۰۔ الحج ۴۰
۱۱۔ المآئدة ۲ اور الفتح ۲۹
۱۲۔ الحجرات ۱۵
۱۳۔ التغابن ۱۶
۱۴۔ الاعراف ۸، المومنون ۱۰۲ اور التغابن ۱۶

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا

الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا

يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ

اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ

قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿۱۱﴾ لَئِنْ اُخْرِجُوْا

لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ

لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۙ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۱۲﴾ لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً

فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿۱۳﴾

لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ

جُدُرٍ ؕ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ؕ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ

شَتّٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۴﴾ كَمَثَلِ الَّذِيْنَ

مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ

اَلِيْمٌ ﴿۱۵﴾ ۚ كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ

قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۶﴾

۴۔ التوبة ۱۰۷
۵۔ الاحزاب ۱۵
۶۔ آل عمران ۱۱۱
۷۔ الانفال ۶۵ اور التوبة ۱۲۷
۸۔ المائدة ۵۸
۹۔ الحشر ۱۶
۱۰۔ ضمیمہ ۱۰
۱۱۔ الحشر ۱۵
۱۲۔ الانفال ۴۸
۱۳۔ المائدة ۲۸

صفحہ نمبر ۵۴۹ ۱۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۵۸ ۲۔ المآئدۃ ۲۹ ۳۔ ضمیمہ ۴۷ اور ۹۳ ۴۔ ضمیمہ ۶۴
۵۔ المآئدۃ ۸ اور النور ۵۳ ۶۔ آل عمران ۱۰۵ ، الانفال ۲۱ و ۴۷ نیز آل عمران ۱۵۶ اور الاحزاب ۶۹

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ۭ وَذٰلِكَ
جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ
اَنْفُسَهُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ
النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۭ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ ۝
لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰي جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا
مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۭ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝
هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ
الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ
عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۭ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ
وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

ع ۲ ۷ ۵ — ع ۳ ۷ ۶

۷۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۸۲ ، المآئدۃ ۴۷ اورالنور ۴ و ۵۵
۸۔ العنکبوت ۴۳
۹۔ الاعراف ۱۷۶ نیز النحل ۴۴
۱۰۔ الحشر ۲۳ نیز ضمیمہ ۵۹
۱۱۔ ضمیمہ ۱۴۹
۱۲۔ البقرۃ ۱۶۳ نیز «الرّحمٰن» کیساتھ الفاتحہ ۳ ، النمل ۳۰ اور حم السجدۃ ۲ میں ہے۔
۱۳۔ الحشر ۲۲ نیز ضمیمہ ۵۹
۱۴۔ صرف یہیں نیز الجمعۃ ۱

۱۵۔ الطور ۴۳ ۱۶۔ طٰہٰ ۸ نیز «فلہ» کیساتھ الاسرآء ۱۱۰ میں اور «وللّٰہ» کیساتھ الاعراف ۱۸۰ میں آیا ہے۔
۱۷۔ البقرۃ ۱۱۶ نیز ضمیمہ ۵۱ ۱۸۔ ضمیمہ ۱۹۳

۱۔ الحجرات ۱ و ۲ وضمیمہ ۴۷ ۲۔ اور ۳۔ ایک ہی آیت میں دوبار. ٤۔ البقرة ۱۰۸ اور المائدة ۱۲ ۵۔ ضمیمہ ۹۱ ٦۔ الاحزاب ۲۱ اور الممتحنة ٦ ۷۔ الاعراف ٦٤ و ۷۲ اور الفتح ۲۹ خیال رہے کہ دیگر تمام مقامات (۷) میں «آمَنوا» بھی شامل ہے. ۸۔ ضمیمہ ۱۹ ۹۔ (ُ) (ۃ) اور (ءُ) کے پیش کیساتھ صرف یہیں نیز المائدة ۱٤ ، ٦٤ اور ۹۱

سُورَةُ الْمُمْتَحِنَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَلٰثَ عَشْرَةَ اٰيَةً وَفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿۱﴾ اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۲﴾ لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۳﴾ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٤﴾

۱۰۔ البقرة ۲۸۵

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٥ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝٦ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۭ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٧ لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٨ اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓي اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٩ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَاۗءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ۭ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ۭ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ۭ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ۭ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۭ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ۭ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۭ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝١٠

۲۔ الاحزاب ۲۱ نیز الممتحنة ۴
۳۔ الحدید ۲۴
۴۔ ضمیمه ۷۱
۵۔ الممتحنة ۹
۶۔ المآئدة ۴۲ اور الحجرات ۹
۷۔ الممتحنة ۸
۸۔ المآئدة ۵۱ اور التوبة ۲۳
۹۔ ضمیمه ۷۷
۱۰۔ ضمیمه ۴۷
۱۱۔ المآئدة ۵
۱۲۔ ضمیمه ۱۱۹

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ
ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ
مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ
عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا
يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ
أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ
الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٣﴾

سُورَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ○
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا
عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾

۴۔ ضمیمہ ٦۱
۵۔ ضمیمہ ٤۷
٦۔ المجادلۃ ١٤
۷۔ الحدید ۱ اور الحشر ۱
۸۔ ضمیمہ ۹۵ اور ۸٦
۹۔ ضمیمہ ۱۹۳
۱۰۔ ضمیمہ ٤۷
۱۱۔ الصف ۳
۱۲۔ المومن ۳۵
۱۳۔ الصف ۲

ع ۲ / ۷ / ۸

۱۔ ضمیمہ ۳٤ نیز اگلی آیت (٦) کا آغاز بھی «واذ قالَ» سے ہورہا ہے۔ ۲۔ الصف ٦

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا
بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا
هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ
يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ يُرِيدُونَ
لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ
تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾
وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

۳۔ المآئدة ۱۰۸ ، التوبة ۲٤ اور ۸۰ جبکہ «إنّ اللّٰه» کیساتھ المنافقون ٦ میں آیا ہے۔
٤۔ سابقہ آیت (٥) کا آغاز بھی انہی الفاظ سے ہو رہا ہے۔
٥۔ الصف ٥
٦۔ آل عمران ٥٠
۷۔ النمل ۱۳ اور الاحقاف ۷ نیز ضمیمہ ۱۳۱
۸۔ ضمیمہ ۱۳۸
۹۔ ضمیمہ ۹۰
۱۰۔ التوبة ۳۲
۱۱۔ التوبة ۳۳ اور الفتح ۲۸
۱۲۔ التوبة ۳۳
۱۳۔ ضمیمہ ٤۷
۱٤۔ طه ٤۰ اور القصص ۱۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

۱٥۔ التوبة ٤۱ ، العنکبوت ۱٦ اورالجمعة ۹ نیز ضمیمہ ٦۲
۱٦۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۳۱ اور الاحزاب ۷۱
۱۷۔ التحریم ۸
۱۸۔ التوبة ۷۲ نیز ضمیمہ ۲۱
۱۹۔ ضمیمہ ۱۳۳
۲۰۔ ضمیمہ ۷٤

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّاۗىِٕفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّاۗىِٕفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰي عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ﴿١٤﴾

ع ٢ / ٥ / ١٠

سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اِحْدٰى عَشْرَةَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۤ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢﴾ ۙ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣﴾ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٤﴾ مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۭ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاۗءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦﴾

٥۔ البقرة ١٢٩ و ١٥١ اور آل عمران ١٦٤

٦۔ آل عمران ١٦٤ نیز ضمیمہ ١١٣

٧۔ ضمیمہ ١٩٣

٨۔ ضمیمہ ١٠٥

٩۔ ضمیمہ ٤٨

١٠۔ ضمیمہ ٩٠

١١۔ صرف یہیں نیز ضمیمہ ٤٧

١٢۔ البقرة ٩٤

١٣۔ ضمیمہ ٢٠

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾

۳۔ التوبة ۹٤ و ۱۰۵ اور المومنون ۹۲
٤۔ ضمیمہ ۱۳۰
۵۔ ضمیمہ ٤۷
٦۔ التوبة ٤۱ ، العنکبوت ۱٦ اور الصف ۱۱ نیز ضمیمہ ٦۲
۷۔ الانفال ٤۵ نیز ضمیمہ ٦۵
۸۔ ضمیمہ ۱۳۲
۹۔ المجادلة ۱٦ نیز التوبة ۳۱

۱۰۔ التوبة ۹ اور المجادلة ۱۵ نیز ضمیمہ ۱۲۹ ۱۱۔ التوبة ۸۷ اور ۹۳

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ۭ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۭ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۭ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۭ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۭ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۡ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ④ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ⑤ سَوَاۗءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۭ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ⑥ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰي مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ۭ وَلِلّٰهِ خَزَاۗىِٕنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ⑦ يَقُوْلُوْنَ لَىِٕنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ۭ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ⑧ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ⑨ وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ⑩ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاۗءَ اَجَلُهَا ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑪

۵۔ «اِنَّ اللّٰہ» کیساتھ صرف یہیں نیز المآئدة ١٠٨ ، التوبة ٢٤ و ٨٠ اور الصف ٥
٦۔ المنافقون ٨
٧۔ المنافقون ٨
٨۔ المنافقون ٧
٩۔ المنافقون ٧
١٠۔ ضميمه ٤٧
١١۔ آل عمران ٢٨ ، النسآء ٣٠ اور ١١٤
١٢۔ البقرة ١٢١ اور الاعراف ١٧٨ نيز التوبة ٦٩
١٣۔ البقرة ١٨٠ اور المآئدة ١٠٦ جبکہ «اَحَدَهُمُ الموتُ» النسآء ١٨ میں ھے۔

ع ١ ٨ ١٣ — ع ٢ ٣ ١٤

١٤۔ النسآء ٧٧ اور ابراهيم ٤٤ ١۵۔ صرف یہیں نیز «اَجَلُهُم» کیساتھ یونس ٤٩ میں ھے۔
١٦۔ آل عمران ١۵٣ ، التوبة ١٦ اورالمجادلة ١٣ نیز ضمیمه ٧٩

سُوْرَةُ التَّغَابُنِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ ثَمَانَ عَشْرَةَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ① هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ② خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ③ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ④ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۡ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑤ ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۡ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ⑥ زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۭ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ⑦ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ⑧

۵۔ النحل ۳ اور الزمر ۵
٦۔ المؤمن ٦٤
۷۔ المائدة ۱۸ اور الشوریٰ ۱۵
۸۔ « وَالْاَرْضِ » کیساتھ صرف یہیں جبکہ « وَمَا فی الْاَرض » المائدة ۹۷ ، الحجرات ۱٦ اور المجادلة ۷ میں ہے نیز ضمیمه ۵۱
۹۔ النحل ۱۹
۱۰۔ آل عمران ۱۵٤ نیز آل عمران ۱۱۹ ، المائدة ۷ اور لقمان ۲۳
۱۱۔ التوبة ۷۰ اور ابراهیم ۹
۱۲۔ ضمیمه ۱۰
۱۳۔ المؤمن ۲۲
۱٤۔ سبا ۳

۱۵۔ « وذٰلك » کیساتھ صرف یہیں جبکہ « انّ ذٰلك » کیساتھ الحج ۷۰ ، العنکبوت ۱۹ ، فاطر ۱۱ اور الحدید ۲۲ میں ہے۔ ۱٦۔ الاعراف ۱۵۸ ۱۷۔ ضمیمه ۷۹

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑨ وَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑩ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ
يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ⑪ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ
اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ⑫
اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑬ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ
وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑭ اِنَّمَآ
اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ⑮ فَاتَّقُوا
اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ۗ
وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑯ اِنْ
تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ
شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ⑰ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑱

۵۔ ضمیمہ ۱۳۳
٦۔ ضمیمہ ۲۵ اور ۲٦
۷۔ ضمیمہ ۲۷
۸۔ ضمیمہ ۵۸
۹۔ ضمیمہ ۵۲
۱۰۔ الشوریٰ ۳۰ اور الحدید ۲۲
۱۱۔ التغابن ۹ اور الطلاق ۱۱
۱۲۔ ضمیمہ ۹٤
۱۳۔ المائدۃ ۹۲ جبکہ (و) کی کمی کیساتھ النساء ۵۹ اور محمد ۳۳ میں نیز النور ۵٤ میں «قُل» کیساتھ.
۱٤۔ المائدۃ ۹۲

منزل ۷

۱۵۔ ضمیمہ ۸٤ اور ۵۹ ۱٦۔ ضمیمہ ۱۱۰ ۱۷۔ ضمیمہ ٤۷ ۱۸۔ ضمیمہ ٦٦ ۱۹۔ الانفال ۲۸
۲۰۔ ضمیمہ ۹۸ ۲۱۔ الحشر ۹ ۲۲۔ الاعراف ۸، المؤمنون ۱۰۲ اور الحشر ۹ ۲۳۔ ضمیمہ ۱٤۹

۵۔ البقرة ۲۲۹
٦۔ البقرة ۲۳۱
۷۔ البقرة ۲۳۱
۸۔ البقرة ۲۳۲
۹۔ ضمیمه ۳۷
۱۰۔ الطلاق ٤ اور ۵
۱۱۔ اور ۱۲۔ ایك هی آیت میں یه لفظ دو بار۔
۱۳۔ الطلاق ٦
۱٤۔ الطلاق ۲ اور ۵
۱۵۔ الطلاق ۲ اور ٤

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا
الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ
حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۚ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ
اَمْرًا ① فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ
بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ
يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ
يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ② وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى
اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ③
وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ④ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ
اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ⑤

١ـ الطلاق ٤ ٢ـ النسآء ٢٤ جبكه (و) كيساتهه النسآء ٢٥ ميں هے. ٣ـ البقرة ٢٣٣ و ٢٨٦ ، الانعام ١٥٢ اور المؤمنون ٦٢

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن
قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ
رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾
فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَدْ
أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ
لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَن
يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ
سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

ع ١ / ٧ / ١٧

مع ١٤ عند المتقدمين ١٢

ع ٢ / ٥ / ١٨

٤ـ ضميمه ١١٢
٥ـ «حِسابا» كيساتهه صرف يهيں نيز ضميمه ١٠١
٦ـ المجادلة ١٥
٧ـ ضميمه ١٠١
٨ـ ضميمه ٩٨
٩ـ ضميمه ٨٨
١٠ـ التغابن ٩ اور ١١
١١ـ التغابن ٩
١٢ـ ضميمه ٢١
١٣ـ ضميمه ١٢١

١٤ـ الملك ٣ اور نوح ١٥ ١٥ـ البقرة ١٠٦ اور ٢٥٩ نيز ضميمه ١٥

سُورَةُ التَّحْرِيمِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ○

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ① قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ② وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ③ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ④ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ⑤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ⑥

٤ـ اور ٥ـ ايك هى آيت ميں ملتے جلتے الفاظ دو بار.
٦ـ «ربه» كيساته صرف يهيں جبكه «ربكم» كيساته الاعراف ١٢٩، الاسراء ٨ اور التحريم ٨ ميں هے.
٧ـ ضميمه ٤٧
٨ـ البقرة ٢٤
٩ـ النحل ٥٠

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَعْتَذِرُوا۟ ٱلْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٩﴾ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَٰنِتِينَ ﴿١٢﴾

ضميمه ٢١٢
٣۔ ضميمه ٤٧
٤۔ الاعراف ١٢٩ اور الاسرآء ٨
جبكه «ربه» كيساتھ التحريم ٥ ميں هے.
٥۔ الصف ١٢
٦۔ ضميمه ٢١
٧۔ الحديد ١٢
٨۔ آل عمران ٢٦
٩۔ ضميمه ١٧٦
١٠۔ التوبة ٧٣
١١۔ التوبة ٧٣ و ٩٥ اور الرعد ١٨
١٢۔ ضميمه ٥٢
١٣۔ التحريم ١١
١٤۔ التحريم ١٠
١٥۔ القصص ٢١
١٦۔ الانبياء ٩١

سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۨ ﴿۱﴾ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ ﴿۲﴾ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿۳﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ﴿۵﴾ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٦﴾ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۙ ﴿۷﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ﴿۸﴾ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ﴿۹﴾ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿۱۰﴾

۵۔ الملک ۲
۶۔ الطلاق ۱۲ اور نوح ۱۵
۷۔ الملک ٤
۸۔ الملک ۳
۹۔ الصآفات ٦ اور حم السجدة ۱۲
۱۰۔ حم السجدة ۱۲
۱۱۔ «کَفَرُوا» کیساتھ صرف یہیں نیز ضمیمہ ۷
۱۲۔ ضمیمہ ۵۲
۱۳۔ الفرقان ۱۳
۱٤۔ یس ٤۷
۱۵۔ الملک ۱۱

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ⑪ اِنَّ الَّذِيْنَ

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ⑫ وَاَسِرُّوْا

قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ ۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑬ اَلَا يَعْلَمُ

مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ⑭ۧ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ

الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَ

اِلَيْهِ النُّشُوْرُ ⑮ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ

الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ⑯ۙ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ

يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ⑰ وَلَقَدْ

كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ⑱ اَوَلَمْ يَرَوْا

اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؔۘ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ

اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۢ بَصِيْرٌ ⑲ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ

يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ⑳ۚ

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا

فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ㉑ اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖۤ

اَهْدٰۤى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ㉒

۵۔ الانعام ۱۰۳
٦۔ ضمیمہ ۲۲٦
۷۔ فاطر ۹
۸۔ الاسرآء ٦۸
۹۔ الاسرآء ٦۹
۱۰۔ الاسرآء ٦۸
۱۱۔ الحج ٤٤، سبا ٤۵، فاطر ۲٦ اور ضمیمہ ۱۹۱
۱۲۔ ضمیمہ ۱۹۲
۱۳۔ النحل ۷۹
۱٤۔ النحل ۷۹
۱۵۔ الملك ۲۱
۱٦۔ الملك ۲۰
۱۷۔ ضمیمہ ۱٤۵

قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝۲۳ قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝۲۴ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۲۵ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۠ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝۲۶ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْۗـــــَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ۝۲۷ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝۲۸ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝۲۹ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاۗؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاۗءٍ مَّعِيْنٍ ۝۳۰ ع ۲/۱٦/۲

سُوْرَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اثْنَتَانِ وَخَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

نۗ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝۱ۙ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۝۲ۚ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝۳ۚ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝۴ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۝۵ۙ بِاَيِّىكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۝٦

۳۔ المؤمنون ۷۹
۴۔ ضمیمہ ۱۸۳
۵۔ ضمیمہ ۲۰
٦۔ الاحقاف ۲۳
۷۔ العنکبوت ۵۰
۸۔ ضمیمہ ۱٤٦
۹۔ ضمیمہ ۱۵۰
۱۰۔ ضمیمہ ۱٤٦
۱۱۔ الطور ۲۹
۱۲۔ القلم ٤
۱۳۔ القلم ۳

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ۞ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ
فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ۞ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ
بِنَمِيمٍ ۞ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ۞
أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۞ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ۞ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا
بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۞ وَلَا
يَسْتَثْنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۞
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۞ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ۞ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ
حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ۞ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ۞
أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ۞ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ
قَادِرِينَ ۞ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ۞ بَلْ نَحْنُ
مَحْرُومُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ۞
قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ۞ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ۞

۴۔ القلم ۱۰
۵۔ القلم ۸
۶۔ ق ۲۵
۷۔ ق ۲۵ اور المطففین ۱۲
۸۔ المطففین ۱۳ نیز ضمیمہ ۱۷۳ و ۱۴۱
۹۔ اور ۱۰۔ دونوں مقامات پر ایک ھی لفظ ھے۔
۱۱۔ المطففین ۳۲
۱۲۔ الواقعۃ ۶۷
۱۳۔ الاعراف ۵ ، الانبیاء ۱۴ ، ۴۶ اور القلم ۳۱
۱۴۔ الصافات ۲۷ و ۵۰ اور الطور ۲۵ نیز ضمیمہ ۲۰۴
۱۵۔ الانبیاء ۱۴ ، یس ۵۲ اور الصافات ۲۰

۱۶۔ «طٰغین» کیساتھ صرف یھیں نیز الاعراف ۵ ، الانبیاء ۱۴ و ۴۶ اور القلم ۲۹

عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ﴿۳۲﴾

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۭ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا

يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۳﴾ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿۳٤﴾

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿۳۵﴾ مَا لَكُمْ ۣ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿۳٦﴾

اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ﴿۳۷﴾ اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ﴿۳۸﴾

اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ

لَمَا تَحْكُمُوْنَ ﴿۳۹﴾ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ﴿٤۰﴾ اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ ۚ

فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٤۱﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ

عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٤۲﴾

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۭ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ

اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ﴿٤۳﴾ فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا

الْحَدِيْثِ ۭ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَاُمْلِيْ

لَهُمْ ۭ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿٤۵﴾ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ

مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٦﴾ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤۷﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ

رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ﴿٤۸﴾

وقف لازم — ع ۳۲ ۔ ۲ — ع ۵ عند المتقدمین ۳ — وقف لازم

٤۔ القلم ۳۹
۵۔ القلم ۳۷
٦۔ الشوریٰ ۲۱
۷۔ الطور ۳٤
۸۔ القلم ٤۳
۹۔ المعارج ٤٤
۱۰۔ القلم ٤۲
۱۱۔ الاعراف ۱۸۲
۱۲۔ الاعراف ۱۸۳
۱۳۔ المؤمنون ۷۲ اور الطور ٤۰
۱٤۔ الطور ٤۰
۱۵۔ الطور ٤۱
۱٦۔ الطور ٤۸

صفحہ نمبر ٥٦٨ ١۔ الصافات ١٤٥ ٢۔ یوسف ١٠٤ ، ص ٨٧ اور التکویر ٢٧ نیز الانعام ٩٠ میں «ذکری» کی (ر) کھڑے زبر کیساتھ ہے۔
٣۔ الشعرآء ١٤١ ، القمر ٢٣ اور الشمس ١١
٤۔ القمر ٢٠
٥۔ العلق ١٦

لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ﴿٤٩﴾
فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٥٠﴾ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ
لَمَجْنُوْنٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٢﴾

سُوْرَةُ الْحَآقَّةِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اِثْنَتَانِ وَخَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَآقَّةُ ﴿١﴾ مَا الْحَآقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ﴿٣﴾
كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا
بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾ وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾
سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا
فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾
فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ
وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ
فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾ اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ
فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ﴿١٢﴾

۵۔ الغاشیۃ ۱۰
۶۔ الطور ۱۹ اور المرسلات ۴۳
۷۔ الانشقاق ۱۰
۸۔ اللھب ۲
۹۔ الفجر ۱۸ اور الماعون ۳

فَاِذَا نُفِخَ فِی الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝ وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَ
الْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۝ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝
وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِیَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۝ وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ۝ يَوْمَئِذٍ
تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ
كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ۝ اِنِّیْ
ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ۝ فَهُوَ فِیْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝
فِیْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ۝ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا
هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِی الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝ وَاَمَّا مَنْ
اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِیْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ۝
وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝ مَآ
اَغْنٰى عَنِّیْ مَالِيَهْ ۝ هَلَكَ عَنِّیْ سُلْطٰنِيَهْ ۝ خُذُوْهُ
فَغُلُّوْهُ ۝ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۝ ثُمَّ فِیْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا
سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ
بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝

۵۔ الواقعۃ ۸۰
۶۔ الواقعۃ ۹۵
۷۔ الواقعۃ ۷۴ اور ۹۶
۸۔ القدر ۴
۹۔ السجدۃ ۵

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴿۳۵﴾ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ﴿۳۶﴾ لَّا يَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخٰطِـُٔوْنَ ﴿۳۷﴾ فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ﴿۳۸﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿۳۹﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿۴۰﴾ وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ﴿۴۱﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۴۲﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۳﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿۴۴﴾ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿۴۵﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿۴۶﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿۴۷﴾ وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۴۸﴾ وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿۴۹﴾ وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۵۰﴾ وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿۵۱﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿۵۲﴾

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اَرْبَعٌ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَاَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ﴿۱﴾ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ﴿۲﴾ مِّنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿۳﴾ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ﴿۴﴾

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝٥ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝٦ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۝٧ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ۝٨ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝٩ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝١٠ يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ۝١١ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝١٢ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۝١٣ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝١٤ كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ۝١٥ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ۝١٦ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۝١٧ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۝١٨ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝١٩ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝٢١ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝٢٢ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝٢٣ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝٢٤ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝٢٥ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝٢٦ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۝٢٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ۝٢٨ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٢٩ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٣٠ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝٣١

۴۔ ہود ٦٦ نیز توجہ سے پڑھیے یہاں (م) کے نیچے زیر ہے۔
۵۔ عبس ٣٦
۶۔ الاسرآء ٨٣، حم السجدة ٤٩ اور ٥١
۷۔ المؤمنون ٢
۸۔ الذاریات ١٩
۹۔ الذاریات ١٩
۱۰۔ المؤمنون ٥
۱۱۔ المؤمنون ٦ نیز ضمیمه ١١٧
۱۲۔ المؤمنون ٧

۵۔ الواقعۃ ۶۱
۶۔ الزخرف ۸۳ اور الطور ۴۵
۷۔ القمر ۷
۸۔ القلم ۴۳
۹۔ ھود ۲۵، المؤمنون ۲۳ اور العنکبوت ۱۴
۱۰۔ ھود ۲۵

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿۳۲﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿۳۴﴾ اُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ﴿۳۵﴾ فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿۳۶﴾ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿۳۷﴾ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿۳۸﴾ كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۹﴾ فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿۴۰﴾ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿۴۱﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ﴿۴۲﴾ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿۴۳﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿۴۴﴾

ع ۱ ۴۵ ۷ — ع ۲ ۹ ۸

سُوْرَةُ نُوْحٍ مَّكِّيَّةٌ وَّهِىَ ثَمَانٍ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱﴾ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۲﴾

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ۝۳ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ
ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ
اِذَا جَاۗءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۴ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ
دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ۝۵ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاۗءِىْٓ اِلَّا
فِرَارًا ۝۶ وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ
فِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا
اسْتِكْبَارًا ۝۷ ثُمَّ اِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝۸ ثُمَّ اِنِّىْٓ اَعْلَنْتُ
لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۝۹ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۭ
اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۝۱۰ يُّرْسِلِ السَّمَاۗءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۝۱۱
وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ
وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ۝۱۲ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۝۱۳
وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ۝۱۴ اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ
سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۝۱۵ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا
وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝۱۶ وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ
الْاَرْضِ نَبَاتًا ۝۱۷ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ۝۱۸

۵۔ ھود ۵۲ نیز «عَلیھم» کیساتھ الانعام ۶ میں ھے۔
۶۔ الاسرآء ۶
۷۔ لقمان ۲۰
۸۔ الطلاق ۱۲ اور الملك ۳

۵۔ ضمیمہ ۱۹
۶۔ نوح ۲۱

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ﴿۱۹﴾ لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿۲۰﴾ قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗٓ اِلَّا خَسَارًا ﴿۲۱﴾ وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿۲۲﴾ وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۥ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ﴿۲۳﴾ وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۥ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿۲۴﴾ مِمَّا خَطِيْٓئٰتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۥ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿۲۵﴾ وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿۲۶﴾ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿۲۷﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۭ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿۲۸﴾

ع ۹ / ع ۸

۷۔ نوح ۲۴
۸۔ نوح ۲۱ اور ۲۴
۹۔ الاحقاف ۲۹

سُوْرَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَمَانٍ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ﴿۱﴾

يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۭ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ (٢)
وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ (٣) وَّ
اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ (٤) وَّاَنَّا ظَنَنَّآ
اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ (٥) وَّاَنَّهٗ كَانَ
رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ
رَهَقًا ۙ (٦) وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ (٧)
وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاۗءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا
وَّشُهُبًا ۙ (٨) وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۭ فَمَنْ
يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ (٩) وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ
اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ
رَشَدًا ۙ (١٠) وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ۭ كُنَّا
طَرَاۗىِٕقَ قِدَدًا ۙ (١١) وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ
وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۙ (١٢) وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ۭ
فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۙ (١٣) وَّاَنَّا مِنَّا
الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ۭ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰۗىِٕكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (١٤)

وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿۱۵﴾ وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا
عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿۱٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۚ وَ
مَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿۱۷﴾ وَّ
اَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿۱۸﴾ وَّاَنَّهٗ لَمَّا
قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿۱۹﴾ ع
قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۰﴾ قُلْ اِنِّيْ لَآ
اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿۲۱﴾ قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ
اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿۲۲﴾ اِلَّا بَلٰغًا
مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ۚ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ
لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ﴿۲۳﴾ حَتّٰۤى اِذَا رَاَوْا مَا
يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ﴿۲۴﴾
قُلْ اِنْ اَدْرِيْۤ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ
رَبِّيْۤ اَمَدًا ﴿۲۵﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ
اَحَدًا ﴿۲٦﴾ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ
يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿۲۷﴾

ع ۱ ۱۹ ۱۱

۴۔ ضمیمہ ۱۲۱
۵۔ مریم ۷۵
٦۔ الانبیآء ۱۰۹ اور ۱۱۱
۷۔ «وَالشَّهَادَةِ» کے بغیر صرف یہیں نیز ضمیمہ ۱۴۹
۸۔ الرعد ۱۱ اور الاحقاف ۲۱ جبکہ «من م بین ایدیهم ومن خلفهم» الاعراف ۱۷ اور حم السجدۃ ۱۴ میں ہے۔

لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿۲۸﴾

ع ۲ ۹ ۱۲

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ عِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿۱﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۲﴾ نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿۳﴾ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ﴿٤﴾ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴿۵﴾ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ﴿٦﴾ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ﴿۷﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ﴿۸﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ﴿۹﴾ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿۱۰﴾ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿۱۱﴾ اِنَّ لَدَيْنَاۤ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ﴿۱۲﴾ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۳﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿۱٤﴾ اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ﴿۱۵﴾

فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿۱۶﴾
فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ
شِيْبًا ﴿۱۷﴾ السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿۱۸﴾ اِنَّ
هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿۱۹﴾
اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَ
نِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ
يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ
سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ
يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا
لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا
وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿۲۰﴾

ع ۱ ۱۹ ۱۳ — ع ۲ ۱ ۱۴

۴۔ البقرة ۵۴ اور ۱۸۷
۵۔ اس آیت میں پہلی بار۔
۶۔ اس آیت میں یہاں مکرر۔
۷۔ اس آیت میں یہاں مکرر۔
۸۔ ضمیمہ ۳۰
۹۔ البقرة ۱۱۰
۱۰۔ البقرة ۱۹۹، النور ۶۲ اور الممتحنة ۱۲
۱۱۔ ضمیمہ ۶۱

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ سِتٌّ وَّخَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝۱ قُمْ فَاَنْذِرْ ۝۲ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝۳ وَثِيَابَكَ
فَطَهِّرْ ۝۴ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝۵ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝۶ وَ
لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝۷ فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ ۝۸ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ
يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۝۹ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۝۱۰ ذَرْنِيْ وَمَنْ
خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۝۱۱ وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۝۱۲ وَّبَنِيْنَ
شُهُوْدًا ۝۱۳ وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۝۱۴ ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ
اَزِيْدَ ۝۱۵ كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ۝۱۶ سَاُرْهِقُهٗ
صَعُوْدًا ۝۱۷ اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝۱۸ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝۱۹
ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝۲۰ ثُمَّ نَظَرَ ۝۲۱ ثُمَّ عَبَسَ وَ
بَسَرَ ۝۲۲ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝۲۳ فَقَالَ اِنْ هٰذَآ
اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ۝۲۴ اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝۲۵
سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ۝۲۶ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ۝۲۷ لَا تُبْقِيْ وَ
لَا تَذَرُ ۝۲۸ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۝۲۹ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝۳۰

وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ
اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ
وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۭ كَذٰلِكَ يُضِلُّ
اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ
رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ۭ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ﴿۳۱﴾ كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿۳۲﴾
وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ﴿۳۳﴾ وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ﴿۳۴﴾ اِنَّهَا لَاِحْدَى
الْكُبَرِ ﴿۳۵﴾ نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ﴿۳۶﴾ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ
يَتَاَخَّرَ ﴿۳۷﴾ كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿۳۸﴾ اِلَّآ اَصْحٰبَ
الْيَمِيْنِ ﴿۳۹﴾ فِيْ جَنّٰتٍ ۚ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿۴۰﴾ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۴۱﴾ مَا
سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿۴۲﴾ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿۴۳﴾ وَلَمْ
نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿۴۴﴾ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ﴿۴۵﴾ وَ
كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿۴۶﴾ حَتّٰٓى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ﴿۴۷﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ
شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿۴۸﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿۴۹﴾

ع ۱۵ ۳۱
مع ۱۶ عند المتقدمین ۱۲

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ۝٥٠ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ۝٥١ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۝٥٢ كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝٥٣ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۝٥٤ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ۝٥٥ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝٥٦

سُورَةُ الْقِيٰمَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝١ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝٢ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ۝٣ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝٤ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝٥ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ۝٦ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝٧ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝١٢ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝١٣ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝١٤

۴۔ صرف یہیں جبکہ «لآ أقسم» القيامة ۱ اور البلد ۱ میں نیز «فلآ أقسم» ضمیمہ ۲۲۲ میں ھے۔

ع ۲ ۲۵ ۱۶

۵۔ القيامة ۳۶

۶۔ الذاريات ۱۲

۷۔ القيامة ۳۰

۵۔ القیامۃ ۱۲
۶۔ القیامۃ ۳۵
۷۔ القیامۃ ۳۴
۸۔ القیامۃ ۳
۹۔ النجم ۴۵ اور الیل ۳
۱۰۔ الاحقاف ۳۳

وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ﴿۱۵﴾ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ
بِهٖ ﴿۱۶﴾ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ﴿۱۷﴾ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ
قُرْاٰنَهٗ ﴿۱۸﴾ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ﴿۱۹﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ
الْعَاجِلَةَ ﴿۲۰﴾ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿۲۱﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿۲۲﴾
اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿۲۳﴾ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿۲۴﴾ تَظُنُّ
اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿۲۵﴾ كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿۲۶﴾
وَقِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿۲۷﴾ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿۲۸﴾ وَالْتَفَّتِ
السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿۲۹﴾ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ۣالْمَسَاقُ ﴿۳۰﴾ ع
فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ﴿۳۱﴾ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿۳۲﴾
ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿۳۳﴾ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿۳۴﴾
ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿۳۵﴾ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ
يُّتْرَكَ سُدًى ﴿۳۶﴾ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿۳۷﴾
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿۳۸﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ
الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿۳۹﴾ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ
يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ﴿۴۰﴾ ع

ع ۱ / ۱۷
ع ۲ / ۱۸

۴۔ الکھف ۳۱ اور ص ۵۱

سُوْرَةُ الدَّهْرِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اِحْدٰى وَّثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ۝١
اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ
سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝٢ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا
كَفُوْرًا ۝٣ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَاۡ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ۝٤
اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝٥
عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ۝٦ يُوْفُوْنَ
بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۝٧ وَيُطْعِمُوْنَ
الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝٨ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ
لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝٩ اِنَّا نَخَافُ مِنْ
رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝١٠ فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ
لَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ۝١١ وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝١٢
مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا
زَمْهَرِيْرًا ۝١٣ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝١٤

ص۵۸۴ ۱۔ صرف یہیں نیز الصآفات ۴۵ ، الزخرف ۷۱ اور الدھر ۱۹ ۲۔ صرف یہیں نیز الفرقان ۲
۳۔ صرف یہیں نیز الدھر ۵ ۴۔ صرف یہیں نیز الدھر ۶ اور المطففین ۲۸ ۵۔ صرف یہیں نیز الواقعة ۱۷،
الطور ۲۴ اورالدھر ۱۵ ۶۔ الشعرآء ۶۴ اور التکویر ۲۱ نیز «فثمّ» البقرة ۱۱۵ میں اور «ثُمّ» ۳۳۶ مرتبه هے۔

وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ﴿١٥﴾
قَوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا
كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ وَيَطُوفُ
عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا
مَّنثُورًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾
عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ
مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَٰذَا كَانَ
لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا
أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ
فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ
الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ
وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾
إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا
تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾

۷۔ صرف یہیں نیز النسآء ۵۴
۸۔ صرف یہیں نیز الکھف ۳۱
۹۔ صرف یہیں نیز الاسرآء ۱۹
۱۰۔ صرف یہیں جبکه «اِنّا نحن نزّلنا الذکر» الحجر ۹ میں آیا هے۔
۱۱۔ القلم ۴۸ نیز الطور ۴۸
۱۲۔ المزمل ۸
۱۳۔ الفرقان ۵، الاحزاب ۴۲ اورالفتح ۹
۱۴۔ صرف یہیں جبکه «ومن الّیل فسبّحه وادبار السّجود»

ق ۴۰ میں اور «ومن الّیل فسبّحهُ وادبار النحوم» الطور ۴۹ میں هے۔ ۱۵۔ صرف یہیں نیز القیامة ۲۰ اور ۲۱
۱۶۔ صرف یہیں نیز «اِنّا خلقنٰهم» الصآفات ۱۱ اور المعارج ۳۹ میں آیا هے۔ ۱۷۔ المزمل ۱۹ نیز النبا ۳۹
۱۸۔ التکویر ۲۹ ۱۹۔ النسآء ۱۱ و ۲۴ اور الاحزاب ۱ نیز ضمیمه ۱۱۸

٦۔ الصآفات ۳٤

يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ۭ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝۳۱

ع ۲ / ۲۰

۷۔ ضمیمہ ۲۲۳
۸۔ ضمیمہ ۲۲۳
۹۔ النبا ٦

سُوْرَةُ الْمُرْسَلٰتِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۝۱ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۝۲ وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۝۳ فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۝٤ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۝۵ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۝٦ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۝۷ فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۝۸ وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۝۹ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝۱۰ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ۝۱۱ لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ۝۱۲ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝۱۳ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝۱٤ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝۱۵ اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ۝۱٦ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ۝۱۷ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۝۱۸ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝۱۹ اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝۲۰ فَجَعَلْنٰهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝۲۱ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝۲۲ فَقَدَرْنَا ڰ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ۝۲۳ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝۲٤ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۝۲۵

اَحۡيَآءً وَّ اَمۡوَاتًا ﴿۲۶﴾ وَّجَعَلۡنَا فِيۡهَا رَوَاسِىَ شٰمِخٰتٍ وَّ
اَسۡقَيۡنٰكُمۡ مَّآءً فُرَاتًا ﴿۲۷﴾ وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿۲۸﴾
اِنۡطَلِقُوۡۤا اِلٰى مَا كُنۡتُمۡ بِهٖ تُكَذِّبُوۡنَ ﴿۲۹﴾ اِنۡطَلِقُوۡۤا اِلٰى ظِلٍّ
ذِىۡ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿۳۰﴾ لَّا ظَلِيۡلٍ وَّلَا يُغۡنِىۡ مِنَ اللَّهَبِ ﴿۳۱﴾
اِنَّهَا تَرۡمِىۡ بِشَرَرٍ كَالۡقَصۡرِ ﴿۳۲﴾ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفۡرٌ ﴿۳۳﴾ وَيۡلٌ
يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿۳۴﴾ هٰذَا يَوۡمُ لَا يَنۡطِقُوۡنَ ﴿۳۵﴾ وَلَا
يُؤۡذَنُ لَهُمۡ فَيَعۡتَذِرُوۡنَ ﴿۳۶﴾ وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿۳۷﴾
هٰذَا يَوۡمُ الۡفَصۡلِ جَمَعۡنٰكُمۡ وَالۡاَوَّلِيۡنَ ﴿۳۸﴾ فَاِنۡ كَانَ لَكُمۡ
كَيۡدٌ فَكِيۡدُوۡنِ ﴿۳۹﴾ وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿۴۰﴾ اِنَّ
الۡمُتَّقِيۡنَ فِىۡ ظِلٰلٍ وَّعُيُوۡنٍ ﴿۴۱﴾ وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشۡتَهُوۡنَ ﴿۴۲﴾
كُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا هَنِيۡٓـئًا ۢ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۴۳﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ
نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿۴۴﴾ وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿۴۵﴾ كُلُوۡا
وَتَمَتَّعُوۡا قَلِيۡلًا اِنَّكُمۡ مُّجۡرِمُوۡنَ ﴿۴۶﴾ وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ
لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿۴۷﴾ وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمُ ارۡكَعُوۡا لَا يَرۡكَعُوۡنَ ﴿۴۸﴾ وَيۡلٌ
يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿۴۹﴾ فَبِاَىِّ حَدِيۡثٍ ۢ بَعۡدَهٗ يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۵۰﴾

۴۔ المرسلات ۲۹
۵۔ ضمیمہ ۲۲۳
۶۔ ضمیمہ ۲۲۳
۷۔ ضمیمہ ۲۲۳
۸۔ الطور ۱۹ اور الحآقۃ ۲۴
۹۔ ضمیمہ ۱۳۰
۱۰۔ ضمیمہ ۲۱۷
۱۱۔ ضمیمہ ۲۲۳
۱۲۔ ضمیمہ ۲۲۳
۱۳۔ ضمیمہ ۱۱
۱۴۔ ضمیمہ ۲۲۳
۱۵۔ الاعراف ۱۸۵ اور الجاثیۃ ۶

۶۔ الانعام ۷۳
اور طه ۱۰۲
۷۔ النبا ۳۶

سُورَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝۱ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝۲
الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۝۳ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٤ ثُمَّ كَلَّا
سَيَعْلَمُوْنَ ۝۵ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝۶ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝۷
وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝۸ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝۹ وَّجَعَلْنَا
الَّيْلَ لِبَاسًا ۝۱۰ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝۱۱ وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ
سَبْعًا شِدَادًا ۝۱۲ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۝۱۳ وَّاَنْزَلْنَا
مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝۱٤ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝۱۵
وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝۱۶ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۝۱۷ يَّوْمَ
يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۝۱۸ وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ
فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝۱۹ وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝۲۰ اِنَّ
جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝۲۱ لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ۝۲۲ لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ
اَحْقَابًا ۝۲۳ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۝۲٤ اِلَّا حَمِيْمًا وَّ
غَسَّاقًا ۝۲۵ جَزَآءً وِّفَاقًا ۝۲۶ اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۝۲۷

وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾
فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾
حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَّكَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾
لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً
حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ
لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾
ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾ اِنَّآ
اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ
وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

سُوْرَةُ النّٰزِعٰتِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ سِتٌّ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ﴿٢﴾ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ﴿٣﴾
فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ﴿٥﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ
الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ﴿٨﴾

٦۔ الشعرآء ۲٤، الصافات ۵،
ص ٦٦ اور الدخان ۷
۷۔ المزمل ۱۹ اور الدهر ۲۹
۸۔ الكهف ۵۷
۹۔ المزمل ۱٤

أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿٩﴾ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾
فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾ هَلْ أَتَاكَ
حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾
اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن
تَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿١٩﴾ فَأَرَاهُ الْآيَةَ
الْكُبْرَىٰ ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ
فَنَادَىٰ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ
الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿٢٦﴾ أَأَنتُمْ
أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ﴿٢٨﴾
وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ
دَحَاهَا ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣٢﴾
مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾
يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ
لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾

۴۔ طٰہ ۱۲
۵۔ طٰہ ۲۴ اور ۴۳
۶۔ آل عمران ۱۳ اور النور ۴۴
۷۔ عبس ۳۲
۸۔ عبس ۳۳
۹۔ الفجر ۲۳
۱۰۔ الشعرآء ۹۱

۵۔ المدثر ۲۲
٦۔ عبس ۷
۷۔ عبس ۳
۸۔ المدثر ٥٤
۹۔ المدثر ۵۵

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوٰى ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ﴿٤١﴾ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ﴿٤٣﴾ إِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشٰهَا ﴿٤٥﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰهَا ﴿٤٦﴾

ع ۲

سُوْرَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اثْنَتَانِ وَاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعٌ وَّاحِدٌ وَّتُوْكَذَا الخ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلّٰى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمٰى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى ﴿٣﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ﴿٤﴾ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ﴿٥﴾ فَأَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكّٰى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشٰى ﴿٩﴾ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ﴿١٠﴾ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهٗ ﴿١٢﴾ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهٗ ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ﴿١٨﴾ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿١٩﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهٗ ﴿٢٠﴾

۵۔ النازعات ۳٤
٦۔ المعارج ۱۲
۷۔ القیامۃ ۲۲ اور الغاشیۃ ۲ و ۸
۸۔ القیامۃ ۲٤
۹۔ المرسلات ۱۰
۱۰۔ الانفطار ۳

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴿۲۱﴾ ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ﴿۲۲﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ﴿۲۳﴾ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ﴿۲۴﴾ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿۲۵﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ﴿۲۶﴾ فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﴿۲۷﴾ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿۲۸﴾ وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ﴿۲۹﴾ وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿۳۰﴾ وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ﴿۳۱﴾ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿۳۲﴾ فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿۳۳﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿۳۴﴾ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿۳۵﴾ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿۳۶﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿۳۷﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿۳۸﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿۳۹﴾ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿۴۰﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿۴۱﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿۴۲﴾

ع ۱ ۴۲ ۵

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿۱﴾ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ﴿۲﴾ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿۳﴾ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿۴﴾ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ﴿۵﴾ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿۶﴾ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ﴿۷﴾

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝۸ بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝۹ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝۱۰ وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝۱۱ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝۱۲ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝۱۳ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ۝۱٤ فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝۱۵ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝۱٦ وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ۝۱۷ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ۝۱۸ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝۱۹ ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۝۲۰ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۝۲۱ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ۝۲۲ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ۝۲۳ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۝۲٤ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۝۲۵ فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ۝۲٦ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝۲۷ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ۝۲۸ وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۲۹

سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ تِسْعَ عَشْرَةَ اٰيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۝۱ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝۲ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝۳ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝٤ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۝۵

٦۔ «ث» پر زبر ہے توجہ سے پڑھیے نیز البقرة ۱۱۵، الشعرآء ٦٤ اور الدھر ۲۰
۷۔ الحاقة ٤۱
۸۔ الحجر ۱۷
۹۔ یوسف ۱۰٤، ص ۸۷ اور القلم ۵۲ جبکہ الانعام ۹۰ میں «ذکری» کی «ر» کھڑے زبر کیساتھ ہے۔
۱۰۔ المدثر ۳۷
۱۱۔ الدھر ۳۰
۱۲۔ الانشقاق ۱
۱۳۔ التکویر ٦
۱٤۔ التکویر ۱٤

٤۔ «ك» استعمال ہوا ہے خیال سے پڑھیے۔
٥۔ المطففین ۱۸
٦۔ المطففین ۱۹
٧۔ المطففین ۲۰
۸۔ ضمیمہ ۲۲۳

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿٦﴾ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِىٓ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴿٩﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَٰتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۖ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ﴿١٩﴾

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتٌّ وَثَلٰثُونَ اٰيَةً

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾

الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿١١﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ
مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿١٢﴾ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ
الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾ كَلَّا بَلْ سكته رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾
كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ اِنَّهُمْ
لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٧﴾
كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ﴿١٨﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ﴿١٩﴾
كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٢٠﴾ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢١﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ
نَعِيْمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ
نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿٢٥﴾ خِتٰمُهٗ
مِسْكٌ ۚ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَ
مِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٨﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٢٩﴾
وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ﴿٣٠﴾ وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى
اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ﴿٣١﴾ وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ
هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ﴿٣٢﴾ وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٣٣﴾

۴۔ الحجر ۸۴، الزمر ۵۰ اور المؤمن ۸۲
۵۔ المطففین ۱۴
۶۔ السجدة ۲۰ اور الصافات ۲۱
۷۔ المطففین ۷
۸۔ المطففین ۸
۹۔ المطففین ۹
۱۰۔ الانفطار ۱۳
۱۱۔ المطففین ۳۵
۱۲۔ الدهر ۶ نیز الدهر ۱۸
۱۳۔ المطففین ۳۴
۱۴۔ القلم ۲۶

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْاَرَآئِكِ ۙ يَنْظُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَ اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ﴿٦﴾ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ﴿٨﴾ وَّيَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴿٩﴾ وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ﴿١١﴾ وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ كَانَ فِيْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴿١٣﴾ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ﴿١٤﴾ بَلٰۤى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ﴿١٥﴾ فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ﴿٢١﴾ السجدة

٦۔الانشقاق ۲
۷۔الانفطار ٦
ع ۱ ۸
۸۔ الاسرآء ۷۱ اورالحآقۃ ۱۹
۹۔ الحآقۃ ۲۵
۱۰۔ صرف یہیں نیز فاطرہ ٤۵
۱۱۔ ضمیمہ ۲۲۲

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿٥﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾

۵۔الطارق ۱ اور ۱۱
٦۔ التوبة ۷٤
۷۔ ابراهيم ۲
۸۔ضميمه ٤۹
۹۔المجادلة ٦ نیز «اِنّ اللّٰہ» کیساتھ الحج ۱۷ میں ہے۔
۱۰۔ صرف یہیں نیز آل عمران ۱۸۱، الانفال ۵۰، الحج ۹ اور ۲۲
۱۱۔ ضميمه ۹۲
۱۲۔ ضميمه ۲۱

۴۔البروج ۱ اور الطارق ۱۱
۵۔عبس ۲۴
۶۔ البروج ۱ اور الطارق ۱

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾ هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾ وَّاللّٰهُ مِن وَّرَآئِهِم مُّحِيطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

ع ۱ ۲۲ ۱۰

سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ سَبْعَ عَشْرَةَ آيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ﴿٧﴾ إِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ﴿٩﴾ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَّأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

ع ۱ ۱۷ ۱۱

سُوْرَةُ الْاَعْلٰى مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ تِسْعَ عَشْرَةَ اٰيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝١ الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝٢ وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝٣ وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝٤ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ۝٥ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ۝٦ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۝٧ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۝٨ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝٩ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝١٠ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝١١ الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۝١٢ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝١٣ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝١٤ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝١٥ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝١٦ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝١٧ اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝١٨ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝١٩ ع

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ سِتٌّ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝١ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝٢ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝٤ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝٥ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝٦ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ۝٧

٦۔ الیل ۱۵ و ۱۷
۷۔ طٰه ۷٤
۸۔ الشمس ۹
۹۔ ضمیمه ۲۰۳
۱۰۔ الذاریات ۲٤، النازعات ۱۵ اور البروج ۱۷
۱۱۔ القیامة ۲۲، عبس ۳۸ اور الغاشیة ۸

وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاعِمَةٌ ۝٨ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝٩ فِیْ جَنَّةٍ
عَالِيَةٍ ۝١٠ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝١١ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝١٢ فِيْهَا
سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝١٣ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝١٤ وَّنَمَارِقُ
مَصْفُوْفَةٌ ۝١٥ وَّزَرَابِیُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝١٦ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ
كَيْفَ خُلِقَتْ ۝١٧ وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝١٨ وَاِلَى الْجِبَالِ
كَيْفَ نُصِبَتْ ۝١٩ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝٢٠ فَذَكِّرْ
اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝٢١ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۝٢٢ اِلَّا مَنْ
تَوَلّٰى وَكَفَرَ ۝٢٣ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ۝٢٤ اِنَّ اِلَيْنَآ
اِيَابَهُمْ ۝٢٥ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝٢٦

سُوْرَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ وَّهِیَ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا
يَسْرِ ۝٤ هَلْ فِیْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِیْ حِجْرٍ ۝٥ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ
رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧ الَّتِیْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا
فِی الْبِلَادِ ۝٨ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩

٤۔ خیال سے پڑھیے۔
٥۔ خیال سے پڑھیے «ع» کے اوپر زبر استعمال ھوا ھے۔
٦۔ «ل» کے نیچے زیر ھے خیال سے پڑھیے۔
٧۔ ابراھیم ۲۴ اور الفیل ۱ نیز ضمیمہ ۸۰

وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ ۝١٠ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ ۝١١
فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝١٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ
عَذَابٍ ۝١٣ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝١٤ فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا
ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ اَكْرَمَنِ ۝١٥
وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّىْٓ
اَهَانَنِ ۝١٦ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۝١٧ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ
عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝١٨ وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۝١٩
وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝٢٠ كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ
دَكًّا دَكًّا ۝٢١ وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝٢٢ وَجِاْىٓءَ
يَوْمَئِذٍۢ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ
الذِّكْرٰى ۝٢٣ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ ۝٢٤ فَيَوْمَئِذٍ
لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ۝٢٥ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ
اَحَدٌ ۝٢٦ يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝٢٧ ارْجِعِىْٓ اِلٰى
رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝٢٨ فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ۝٢٩
وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ۝٣٠

ع ١٤

۶۔ البلد ۱۱
۷۔ البلد ۱۶
۸۔ البلد ۱۵
۹۔ العصر ۳
۱۰۔ الواقعۃ ۸
۱۱۔ ضمیمہ ۲۵
۱۲۔ الھمزۃ ۸
۱۳۔ الضحی ۱
۱۴۔ الیل ۲
۱۵۔ الیل ۱ اور الضحی ۲

سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ عِشْرُونَ اٰيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ﴿٤﴾ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ﴿٥﴾ يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٧﴾ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

ع ۱ / ۱۵

سُورَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسَ عَشْرَةَ اٰيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالشَّمْسِ وَضُحٰىهَا ﴿١﴾ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ﴿٢﴾ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ﴿٣﴾ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ﴿٤﴾ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ﴿٥﴾

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۞ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۞ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۞ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۞ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَآ ۞ اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا ۞ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۞ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۞

۴ـ الشمس ٤ اور الضحى ٢
۵ـ الشمس ٣
٦ـ النجم ٤٥ اور القيامة ٣٩
٧ـ الیل ٩
٨ـ الاعلى ٨ اور الیل ١٠
٩ـ الیل ٦

سُوْرَةُ الَّيْلِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اِحْدٰى وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۞ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۞ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ۞ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۞ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۞ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۞ وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۞ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۞ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۞ وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ۞ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۞ وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ۞ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۞ لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۞ الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۞ الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۞

١٠ـ الاعلى ٨ اور الیل ٧
١١ـ اللهب ٢
١٢ـ الاعلى ١١ اور الیل ١٧
١٣ـ الاعلى ١١ اور الیل ١٥

٦۔ الضحی ۷
۷۔ الانشراح ٦
۸۔ الانشراح ٥

وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ﴿۱۹﴾ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴿۲۰﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ﴿۲۱﴾

ع ۱ ۲۱ ۱۷

سُوْرَةُ الضُّحٰى مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اِحْدٰى عَشَرَةَ اٰيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالضُّحٰى ﴿۱﴾ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ﴿۲﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ﴿۳﴾ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ﴿٥﴾ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿۷﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴿۸﴾ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿۹﴾ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿۱۰﴾ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿۱۱﴾

ع ۱ ۱۱ ۱۸

سُوْرَةُ الْاِنْشِرَاحِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَمَانِ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿۱﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿۲﴾ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿۳﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿۷﴾ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿۸﴾

ع ۱ ۸ ۱۹

٥۔ الاعلی ١
٦۔ العلق ١
٧۔ الماعون ١
٨۔ العلق ١٣
٩۔ العلق ١١
١٠۔ الحاقة ٩

سُورَةُ التِّينِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِي آيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ① وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ② وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ③ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ④ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ⑤ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ⑥ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ⑦ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ⑧

ع ٨ / ٢٠

سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعَ عَشَرَةَ آيَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ① خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ② اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ③ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤ كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ⑥ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ⑦ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ⑧ اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى ⑨ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ⑩ اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ⑪ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ⑫ اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ⑬ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ⑭ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ⑮ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ⑯ فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ⑰

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿۱۸﴾ كَلَّا ۚ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩ ﴿۱۹﴾

سُوْرَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿۱﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿۲﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ﴿۳﴾ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ﴿۴﴾ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿۵﴾

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِيْ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿۱﴾ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿۲﴾ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿۳﴾ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿۴﴾ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ﴿۵﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿۶﴾

۷۔ البینۃ ۱
۸۔ ضمیمہ ۱۶۰
۹۔ ضمیمہ ۷
۱۰۔ البقرۃ ۱۰۵ اور البینۃ ۱
۱۱۔ ضمیمہ ۵۸
۱۲۔ البینۃ ۷

صفحہ نمبر ۶۰۶ ۱۔ ضمیمہ ۹۲ ۲۔ البینۃ ٦ ۳۔ ضمیمہ ۲۱ ٤۔ ضمیمہ ۲۱ ٥۔ المآئدۃ ۱۱۹، التوبۃ ۱۰۰ اور المجادلۃ ۲۲ ٦۔ صرف یہیں جبکہ «ذلک لمن خشی العنت منکم» النسآء ۲٥ میں ھے۔ ۷۔ الزلزال ٦

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾

سُورَةُ الزَّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ | وَهِيَ ثَمَانِي آيَاتٍ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

سُورَةُ الْعٰدِيٰتِ مَكِّيَّةٌ | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ | وَهِيَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ آيَةً

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴿١﴾ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ﴿٢﴾ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴿٣﴾ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ﴿٤﴾ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿٥﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ﴿١١﴾

۸۔ الزلزال ٤
۹۔ النسآء ٤۰، سبا ۲۲ اور الزلزال ۸ جبکہ
یونس ٦۱ میں «لِ» کے نیچے زیر اور سبا ۳ میں «لُ» پر پیش ھے۔
۱۰۔ النسآء ٤۰، سبا ۲۲ اور الزلزال ۷ جبکہ
یونس ٦۱ میں «لِ» کے نیچے زیر اور سبا ۳ میں «لُ» پر پیش ھے۔
۱۱۔ العادیات ۳
۱۲۔ العادیات ۲
۱۳۔ العادیات ۸
۱٤۔ العادیات ۷

سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ | وَهِيَ اِحْدٰى عَشْرَةَ اٰيَةً

اَلْقَارِعَةُ ۙ﴿۱﴾ مَا الْقَارِعَةُ ۚ﴿۲﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ؕ﴿۳﴾
يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ﴿۴﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ
كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ؕ﴿۵﴾ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿۶﴾ فَهُوَ
فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ﴿۷﴾ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿۸﴾ فَاُمُّهٗ
هَاوِيَةٌ ؕ﴿۹﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ؕ﴿۱۰﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿۱۱﴾

ع ۱ ۱۱ ۲٦

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ | وَهِيَ ثَمَانِ اٰيَاتٍ

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ﴿۱﴾ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ؕ﴿۲﴾ كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿۳﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ؕ﴿۴﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ
الْيَقِيْنِ ؕ﴿۵﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۙ﴿۶﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۙ﴿۷﴾
ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿۸﴾

ع ۱ ۸ ۲۷

سُوْرَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلٰثُ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالْعَصْرِ ۙ﴿۱﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ﴿۲﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾

ع ۱ ۳ ۲۸

۱۰۔ التكاثر ۳ اور ٤
۱۱۔ التكاثر ۷
۱۲۔ التكاثر ٤ اور ۸
۱۳۔ التكاثر ٥
۱٤۔ التكاثر ٤ اور ۷
۱٥۔ ضمیمہ ۲۱۰
۱٦۔ البلد ۱۷

۱۔ اور ۲۔ احتیاط سے پڑھیے پہلی «ۃٍ» کے نیچے زیر اور دوسری «ۃٌ» پر پیش ہے۔ ۳۔ البلد ۲۰

سُوْرَۃُ الْھُمَزَۃِ مَکِّیَّۃٌ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ | وَهِيَ تِسْعُ اٰيَاتٍ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۨ ۝١ الَّذِیْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝٢ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝٣ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝٦ الَّتِیْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝٧ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝٨ فِیْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝٩

ع ۱ ۹ ۲۹

سُوْرَۃُ الْفِيْلِ مَکِّيَّۃٌ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ | وَهِيَ خَمْسُ اٰيَاتٍ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِیْ تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥

ع ۱ ۵ ۳۰

سُوْرَۃُ قُرَيْشٍ مَکِّيَّۃٌ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ | وَهِيَ اَرْبَعُ اٰيَاتٍ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِیْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

ع ۱ ۴ ۳۱

سُوْرَۃُ الْمَاعُوْنِ مَکِّيَّۃٌ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ | وَهِيَ سَبْعُ اٰيَاتٍ

اَرَءَيْتَ الَّذِیْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِیْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝٢

۴۔ ابراھیم ۲۴ اور الفجر ۶ علاوہ ازیں دیکھیے ضمیمہ ۸۰ نیز خیال رہے کہ اگلی آیت ۲ کا آغاز بھی «اَلَم» سے ہورہا ہے۔
۵۔ الفیل ۱
۶۔ ھود ۸۲ اور الحجر ۷۴
۷۔ العلق ۹

٦۔الحجر ۹۸
۷۔ الحاقۃ ۲۸
۸۔ الیل ۱۱

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

سُورَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ | وَهِيَ ثَلٰثُ اٰيَاتٍ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

سُورَةُ الْكٰفِرُونَ مَكِّيَّةٌ | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ | وَهِيَ سِتُّ اٰيَاتٍ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

سُورَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ | وَهِيَ ثَلٰثُ اٰيَاتٍ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

سُورَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ | وَهِيَ خَمْسُ اٰيَاتٍ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾

۵۔ الفلق ۱
۶۔ هود ۱۱۹ اور السجدة ۱۳

سُورَةُ الإِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | وَهِيَ اَرْبَعُ اٰيَاتٍ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۥ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

ع ۱ ۴ ۳۷

سُورَةُ الفَلَقِ مَدَنِيَّةٌ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | وَهِيَ خَمْسُ اٰيَاتٍ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

ع ۱ ۵ ۳۸

سُورَةُ النَّاسِ مَدَنِيَّةٌ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | وَهِيَ سِتُّ اٰيَاتٍ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ اِلٰهِ النَّاسِ ۝٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۥ الْخَنَّاسِ ۝٤ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٦

ع ۱ ۶ ۳۹

سید محمد عظمت نوری

دُعَاءُ خَتْمِ الْقُرْاٰنِ

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِيْ فِيْ قَبْرِيْ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَاۤءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاۤءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ اٰمِيْنَ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نئی ترتیب واضافی معلومات کا نایاب خزانہ

ضمیمہ

اردو اور انگریزی ترجمہ کے ساتھ

مؤلفین

''قرآنی کمپیوٹر'' قاری عبدالحلیم نوّر اللہ مرقدہٗ

''فرزندِ رُوحانی'' قاری محمد سلیم رفیق عفا اللہ عنہٗ

ہو بہو اِعراب اور حُروف کے ساتھ قرآنِ کریم میں شامل

اَجزاء اور آیات کا ذخیرہ

۱۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ (۲۱ بار) سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔

Praise be to Allah.

الفاتحة ۲ ۔ الانعام ۱ ۔ الاعراف ۴۳ ۔ یونس ۱۰ ۔ ابراهیم ۳۹ ۔ النحل ۷۵ ۔ الاسرآء ۱۱۱ ۔ الکهف ۱ ۔ المومنون ۲۸ ۔ النمل ۱۵، ۵۹ و ۹۳ ۔ العنکبوت ۶۳ ۔ لقمان ۲۵ ۔ سبا ۱ ۔ فاطر ۱ و ۳۴ ۔ الزمر ۲۹، ۷۴ و ۷۵ اور المؤمن ۶۵ جبکه « والحمد لله » الانعام ٤٥ اور الصآفات ۱۸۲ میں آیا هے علاوه ازیں « الحمد لله ربّ العالمین » ضمیمه ۲ میں، « الحمد لله الذی » ضمیمه ۱۳۵ میں ، « سبحان الله » ضمیمه ۲٤٥ میں، « إن شآء الله » ضمیمه ۳۹ میں ، « ما شآء الله » ضمیمه ۱٥٤ میں اور « واستغفروا الله » ضمیمه ۵۸۰ میں هے۔

۲۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (۲ بار) سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔

Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds.

الفاتحة ۲ اور المؤمن ٦٥ جبکه « والحمد لله ربّ العالمین » الانعام ٤٥ و الصآفات ۱۸۲ میں ، « أنِ الحمد لله ربّ العالمین » یونس ۱۰ میں اور « وقیل الحمد لله ربّ العالمین » الزمر ۷۵ میں نیز « لله ربّ العالمین » الانعام ۱٦۲ و النمل ٤٤ میں، « وسبحان الله ربّ العالمین » النمل ۸ میں اور « فللّٰه الحمد ربّ السّمٰوٰت وربّ الارض ربّ العالمین » الجاثیة ۳٦ میں هے علاوه ازیں « الحمد لله » ضمیمه ۱ میں، « الحمد لله الذی » ضمیمه ۱۳۵ میں، « ربِّ العالمین » ضمیمه ٥٦٦ میں، « ربُّ العالمین » ضمیمه ۷۷٦ میں اور « وأنّی فضلتکم علی العالمین » ضمیمه ۷۳۰ میں هے۔

۳۔ الٓمّٓ (٦ بار) الف ۔ لام ۔ میم ۔

Alif. Lam. Meem.

البقرة ۱ ۔ آل عمران ۱ ۔ العنکبوت ۱ ۔ الروم ۱ ۔ لقمان ۱ اور السجدة ۱ جبکه « الٓمٓصٓ » الاعراف ۱ میں اور « الٓمٓرٰ » الرعد ۱ میں نیز « کٓهٰیٰعٓصٓ » مریم ۱ میں، « طٰهٰ » طه ۱ میں ، « طٰسٓمٓ » الشعرآء ۱ و القصص ۱ میں، « طٰسٓ » النمل ۱ میں، « یٰسٓ » یٰسٓ ۱ میں، « صٓ » ص ۱ میں ، « عٓسٓقٓ » الشوری ۲ میں ، « قٓ » ق ۱ میں اور « نٓ » القلم ۱ میں آیا هے علاوه ازیں « الٓرٰ » ضمیمه ۱۷۹ میں اور « حٰمٓ » ضمیمه ۲۱۸ میں هے۔

٤۔ لَا رَیْبَ فِیْهِ (۱۰ بار) اس میں کوئی شک نہیں

There is no doubt in it.

البقرة ۲ ۔ آل عمران ۹ و ۲۵ ۔ النسآء ۸۷ ۔ الانعام ۱۲ ۔ یونس ۳۷ ۔ الاسرآء ۹۹ ۔ السجدة ۲ ۔ الشوری ۷ اور الجاثیة ۲٦ جبکه « لا ریبَ فیها » الکهف ۲۱ ۔ الحج ۷ ۔ المؤمن ۵۹ اور الجاثیة ۳۲ میں آیا هے۔

۵۔ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ (٦ بار) اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

And spend out of what We have provided them.

البقرة ۳ ۔ الانفال ۳ ۔ الحج ۳۵ ۔ القصص ٥٤ ۔ السجدة ۱٦ اور الشوری ۳۸ جبکه « وَأنفقوا ممّا رزقهم الله » النسآء ۳۹ میں، « وَأنفقوا ممّا رزقنا هم » الرعد ۲۲ و فاطر ۲۹ میں ، « وینفقوا ممّا رزقنا هم » ابراهیم ۳۱ میں اور « نصیبا ممّا رزقناهم » النحل ٥٦ میں هے علاوه ازیں « أنفِقوا ممّا رزقنا کم » البقرة ۲٥٤ میں،

«وانفِقوا ممّا رزقناکم» المنافقون ١٠ میں اور «اَنفِقوا ممّا رزقکم اللّٰه» یٰسٓ ٤٧ میں هے نیز «ممّا رزقکم اللّٰه» ضمیمه ٥٣٣ میں، «وانفِقوا» ضمیمه ٢٧٤ میں ، «الذین ینفِقون اموالهم» ضمیمه ٣١٣ میں اور «وما تنفقوا من خیرٍ» ضمیمه ٦٩٥ میں هے.

٦۔ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٦ بار) اور وہی لوگ مُراد کو پہنچنے والے ہیں۔

And it is just these who are the successful.

البقرة ٥ ۔ آل عمران ١٠٤ ۔ التوبة ٨٨ ۔ النور ٥١ ۔ الروم ٣٨ اور لقمان ٥ جبکه «فاولٓئك هم المفلحون» الاعراف ٨ ۔ المؤمنون ١٠٢ ۔ الحشر ٩ و التغابن ١٦ میں، «اُولٓئك هُمُ الْمفلحون» الاعراف ١٥٧ میں، «هم المفلحون» المجادلة ٢٢ میں اور «فعسٰی ان یکون من المفلحین» القصص ٦٧ میں هے علاوه ازیں «واولٓئك هم المتقون» البقرة ١٧٧ میں اور «اولٓئك هم المتقون» الزمر ٣٣ میں، «واولٓئك هم الفآئزون» التوبة ٢٠ میں، «فاولٓئك هم الفآئزون» النور ٥٢ میں اور «فاولٓئك هم المضعفون» الروم ٣٩ میں ، «اولٓئك لهم الاَمنُ وهم مهتدون» الانعام ٨٢ میں، «اولٓئك هم المؤمنون حقا» الانفال ٧٤ میں اور «اولٓئك هم الوا رثون» المؤمنون ١٠ میں نیز «اولٓئك الذین» ضمیمه ١٣ میں ، «فاولٓئك هم الظّٰلمون» ضمیمه ٧٧ میں ، «اولٓئك هم الخسرون» ضمیمه ٤٦١ میں اور «فاولٓئك هم الفاسقون» ضمیمه ٤٦٢ میں، «وهم یعلمون» ضمیمه ٢٥٩ میں ، «وهم بالآخرة هم کافرون» ضمیمه ٢٨٠ میں ، «وهم معرضون» ضمیمه ٣٨٤ میں ، «وهم کفّار» ضمیمه ٦٦٨ میں ، «وهم مهتدون» ضمیمه ٧٠٠ میں ، «والذین هم علیٰ صلوٰتهم یحافظون» ضمیمه ٥٢٦ میں ، «وهم لا یشعرون» ضمیمه ١٦٩ میں ، «وهم لا یظلمون» ضمیمه ٢٦١ میں ، «فهم یوزعون» ضمیمه ١٠٤٨ میں ، «فهم لا یؤمنون» ضمیمه ٧٥١ میں ، «وان هم الّا یخرصون» ضمیمه ٩٨٠ میں ، «اذا هم ینکثون» ضمیمه ١٠٢٠ میں ، «ولاهم ینصرون» ضمیمه ٢٩١ میں ، «ولاهم ینظرون» ضمیمه ٢٩٢ میں ، «ولاهم یحزنون» و مزید معلومات ضمیمه ٤٤٣ میں اور «وماهم بمؤمنین» ضمیمه ١٠٤٧ میں آیا هے.

٧۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا (١٨ بار) بیشک جو لوگ کافر ہو چکے۔

Surely for those who have disbelieved.

البقرة ٦ و ١٦١ ۔ آل عمران ٤، ١٠، ٩٠، ٩١ و ١١٦ ۔ النسآء ٥٦، ١٦٧ و ١٦٨ ۔ المآئدة ٣٦ ۔ الانفال ٣٦ ۔ الحج ٢٥ ۔ المؤمن ١٠ ۔ حم السجدة ٤١ ۔ محمد ٣٢ و ٣٤ اور البینة ٦ جبکه «انّ الذین یکفرون» آل عمران ٢١ و النسآء ١٥٠ میں اور «الا الذین کفروا» المؤمن ٤ میں هے علاوه ازیں «قل للذین کفروا» آل عمران ١٢ و الانفال ٣٨ میں اور «وللذین کفروا» الملك ٦ میں، «وعذّب الذین کفروا» التوبة ٢٦ میں اور «لعذبنا الذین کفروا» الفتح ٢٥ میں، «الذین کفروا» النحل ٨٨ ۔ فاطر ٧ و محمد ١ میں اور «فالذین کفروا» الحج ١٩ و الطور ٤٢ میں «ویجادل الذین کفروا» الکهف ٥٦ میں، «افحسب الذین کفروا» الکهف ١٠٢ میں، «اولٓئك الذین کفروا» الکهف ١٠٥ میں، «وعد ها اللّٰه الذین کفروا» الحج ٧٢ میں، «بل الذین کفروا» صٓ ٢ ۔ الانشقاق ٢٢ و البروج ١٩ میں ، «ذلك بأنّ الذین کفروا» محمد ٣ میں، «واذا لقیتم الذین کفروا» محمد ٤ میں، «هم الذین کفروا» الفتح ٢٥ میں، «وجوه الذین کفروا» الملك ٢٧ میں اور «لم یکن الذین کفروا» البیّنة ١ میں هے نیز «والذین کفروا» ضمیمه ٢٥ میں، «وقال الذین کفروا» ضمیمه ١٩٤ میں، «انّ الذین کفروا وصدّوا عن سبیل اللّٰه» ضمیمه ٧٥٠ میں ، «فتنة للّذین کفروا» ضمیمه ٨٩٤ میں اور «یکفرون بآیات اللّٰه» ضمیمه ٨٨٧ میں هے.

۸- وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٥ بار) اوران کے لئے بڑا عذاب (تیار) ہے۔

Great is the penalty they (incur).

البقرة ۷ - آل عمران ۱۷٦ - النحل ۱۰٦ - النور ۲۳ اور الجاثية ۱۰ جبکه «لَهُم عذاب عظيم» آل عمران ۱۰٥ میں، «له عذاب عظيم» النور ۱۱ میں، «ولكم عذاب عظيم» النحل ۹٤ میں، «عذاب عظيم» الانفال ٦۸ و النور ۱٤ میں اور «الى عذابِ عظيم» التوبة ۱۰۱ میں هے علاوه ازیں «ولهم عذابٌ وّاصب» الصآفات ۹ میں، «عذاب قريب» هود ٦٤ میں، «عذاب غير مردود» هود ۷٦ میں، «عذاب غليظ» ابراهیم ۱۷ میں اور «عذاب مّستقر» القمر ۳۸ میں هے نیز «ولهم فى الاخرة عذاب عظيم» ضمیمه ۹۱٥ میں، «ولهم عذاب اليم» ضمیمه ۱۰ میں، «ولهم عذاب مقيم» ضمیمه ٦۱۲ میں، «لهم عذاب اليم» ضمیمه ۱۰۷ میں، «لهم عذاب شديد» ضمیمه ۲٤٦ میں، «إِنّي اخاف عليكم عذاب يومٍ عظيم» ضمیمه ۳٤٥ میں، «عذاب مّهين» ضمیمه ۹۱۸ میں، «عذابِ السّعير» ضمیمه ٥۰۰ میں، «عذابا شديدا» ضمیمه ۱۰۱ میں ، «عذابا اليما» ضمیمه ۲۹۰ میں اور «بعذابِ اليم» ضمیمه ۷٤۳ میں هے۔

۹- فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ (۱۰ بار) ان کے دلوں میں (کفر کا) مرض ہے۔

In their hearts is a disease.

البقرة ۱۰ - المآئدة ٥۲ - الانفال ٤۹ - التوبة ۱۲٥ - الحج ٥۳ - الاحزاب ۱۲ و ٦۰ - محمد ۲۰ و ۲۹ اور المدثر ۳۱ جبکه «اَفى قُلُوبهم مّرَض» النور ٥۰ میں اور «فى قلبهٖ مرض» الاحزاب ۳۲ میں هے علاوه ازیں «فى قلوبهم زيغ» آل عمران ۷ میں اور «ازاغ الله قلوبهم» الصف ٥ میں، «فى قلوبهم» آل عمران ۱٥٦ اور التوبة ۷۷ و ۱۱۰ میں، «فى قلوبكم» الانفال ۷۰ - الفتح ۱۲ اور الحجرات ۷ و ۱٤ میں، «ماليس فى قلوبهم» آل عمران ۱٦۷ و الفتح ۱۱ میں، «ما فى قلوبهم» النسآء ٦۳ و الفتح ۱۸ میں، «ما فى قلوبكم» آل عمران ۱٥٤ و الاحزاب ٥۱ میں، «بما فى قلوبهم» التوبة ٦٤ میں، «بين قلوبهم» الانفال ٦۳ و ٦۳ میں، «بين قلوبكم» آل عمران ۱۰۳ میں، «غيظ قلوبهم» التوبة ۱٥ میں اور «حتى اذا فزّع عن قلوبهم» سبا ۲۳ میں هے جبکه «فى قلوبهم العجل بكفرهم» البقرة ۹۳ میں، «فى قلوبهم الرّعب» الاحزاب ۲٦ و الحشر ۲ میں، «فى قلوبهم الحميّة» الفتح ۲٦ میں اور «فى قلوبهم الايمان» المجادلة ۲۲ میں نیز «فى قلوب الذين» آل عمران ۱٥۱ - الانفال ۱۲ اور الحديد ۲۷ میں، «فى قلوب المجرمين» الحجر ۱۲ و الشعرآء ۲۰۰ میں اور «فى قلوب المؤمنين» الفتح ٤ میں جبکه «لفى شكّ منه مريب» ضمیمه ٥۱۹ میں، «فى مرية» ضمیمه ٦٦۰ میں اور «علىٰ قلوبهم اكنّة» ضمیمه ۷۷٥ میں هے۔

۱۰- وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ (۱۲ بار) اوران کے لئے دردناک سزا ہے۔

And grievous is the penalty they (incur).

البقرة ۱۰ و ۱۷٤ - آل عمران ۷۷، ۱۷۷ و ۱۸۸ - المآئدة ۳٦ - التوبة ۷۹ - النحل ٦۳، ۱۰٤ و ۱۱۷ - الحشر ۱٥ اور التغابن ٥ جبکه «لهم عذاب مّن رجز اليم» سبا ٥ و الجاثية ۱۱ میں هے علاوه ازیں «وللكافرين عذاب اليم» البقرة ۱۰٤ و المجادلة ٤ میں اور «الذين كفروا منهم عذاب اليم» المآئدة ۷۳ و التوبة ۹۰ میں، «وعذاب اليم» الانعام ۷۰ و يونس ٤ میں، «فيأخذكم عذاب اليم» الاعراف ۷۳ میں،

« منّا عذاب الیم » هود ٤٨ و یٰسٓ ١٨ میں، « اوعذاب الیم » یوسف ٢٥ میں اور « اویصیبهم عذاب الیم » النور ٦٣ میں، « هذا عذاب الیم » الدخان ١١ میں، « فیها عذاب الیم » الاحقاف ٢٤ میں اور « اَن یاتیهم عذاب الیم » نوح ١ میں نیز « عذابَ یومٍ الیم » هود ٢٦ اور « عذابِ یوم الیم » الزخرف ٦٥ میں هے جبکه « ولهم عذاب عظیم » ضمیمه ٨ میں، « ولهم فی الآخرة عذاب عظیم » ضمیمه ٩١٥ میں، « ولهم عذاب مقیم » ضمیمه ٦١٢ میں، « لهم عذاب الیم » ضمیمه ١٠٧ میں، « لهم عذاب شدید » ضمیمه ٢٤٦ میں، « اِنّی اخاف علیکم عذاب یومٍ عظیم » ضمیمه ٣٤٥ میں، « عذاب مّهین » ضمیمه ٩١٨ میں، « عذابِ السّعیر » ضمیمه ٥٠٠ میں، « عذابا شدیدا » ضمیمه ١٠١ میں ، « عذابا الیما » ضمیمه ٢٩٠ میں اور « بعذابٍ الیم » ضمیمه ٧٤٣ میں هے.

١١۔ وَاِذَا قِیْلَ لَهُمْ (١٢ بار) اور جب ان سے کہا جاتا ہے۔

And When it is said to them.

البقرة ١١، ١٣، ٩١ و ١٧٠ ـ النسآء ٦١ ـ المآئدة ١٠٤ ـ النحل ٢٤ ـ الفرقان ٦٠، لقمان ٢١ ـ یٰسٓ ٤٥ و ٤٧ اور المنافقون ٥ جبکه « اذا قیل لهم » الصآفات ٣٥ میں، « اذ قیل لهم » الذاریات ٤٣ میں اور « اذا قیل لکم » التوبة ٣٨ و المجادلة ١١ میں، « واذا قیل له اتق اللّٰه » البقرة ٢٠٦ میں اور « واذا قیل لهمُ اتّقوا » یٰسٓ ٤٥ میں، « واذ قیل لهُم اسکنوا » الاعراف ١٦١ میں اور « واذا قیل لهمُ ارکعوا » المرسلات ٤٨ میں ، « واذا قیل اِنّ وعد اللّٰه حق » الجاثیة ٣٢ میں، « واذا قیل انشزوا » المجادلة ١١ میں، « وقیل لهم » آل عمران ١٦٧ ـ الشعرآء ٩٢ و السجدة ٢٠ میں اور « قیل لهم » البقرة ٥٩ ـ النسآء ٧٧ ـ الاعراف ١٦٢ و المؤمن ٧٣ میں آیا هے علاوه ازیں « واذا قیل لهم تعالوا » ضمیمه ٨٩٥ میں هے.

١٢۔ فِیْ طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُوْنَ (٥ بار) کہ شرارت وسرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔

So they will wander like blind ones (hither and thither).

البقرة ١٥ ـ الانعام ١١٠ ـ الاعراف ١٨٦ ـ یونس ١١ اور المؤمنون ٧٥ جبکه « لفی سکرتهم یعمهون » الحجر ٧٢ میں اور « فهم یعمهون » النمل ٤ میں هے.

١٣۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ (٢٦ بار) یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے۔

These are they who.

البقرة ١٦، ٨٦، ١٧٥ و ١٧٧ ـ آل عمران ٢٢ ـ النسآء ٥٢ و ٦٣ ـ المآئدة ٤١ ـ الانعام ٧٠، ٨٩ و ٩٠ ـ هود ١٦ و ٢١ ـ الرعد ٥ ـ النحل ١٠٨ ـ الاسرآء ٥٧ ـ الکهف ١٠٥ ـ مریم ٥٨ ـ النور ٦٢ ـ النمل ٥ ـ الزمر ١٨ الاحقاف ١٦ و ١٨ ـ محمد ١٦ و ٢٣ اور الحجرات ٣ جبکه « واولٰٓئك هم المفلحون » ضمیمه ٦ میں، « فاولٰٓئك هم الظّٰلمون » ضمیمه ٧٧ میں ، « اولٰٓئك هم الخسرون » ضمیمه ٤٦١ میں اور « فاولٰٓئك هم الفاسقون » ضمیمه ٤٦٢ میں هے.

١٤۔ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ (١٢ بار) اور اگر اللہ چاہے۔

And if Allah willed.

البقرة ٢٠، ٢٢٠، ٢٥٣ و ٢٥٣ ـ النسآء ٩٠ ـ المآئدة ٤٨ ـ الانعام ٣٥ ، ١٠٧ و ١٣٧ ـ النحل ٩٣ ـ المؤمنون ٢٤ اور الشورٰی ٨ جبکه « لوشآءَ اللّٰه » الانعام ١٤٨ ـ یونس ١٦ و النحل ٣٥ میں، « لوشآء ربنا » حم السجدة

۱٤ میں اور «لوشآء الرحمٰن» الزخرف ۲۰ میں ، «ولوشآء ربّك» الانعام ۱۱۲ ـ یونس ۹۹ وهود ۱۱۸ میں، «ولویشآء اللّٰه» محمد ٤ میں اور «لو یشآء اللّٰه» الرعد ۳۱ و یٰسٓ ٤٧ میں آیا هے علاوه ازیں «فلوشآء لهداکم احمعین» الانعام ۱٤۹ میں، «ولوشآء لهداکم احمعین» النحل ۹ میں اور «ولوشآء لجعله ساکنا» الفرقان ٤٥ میں، «ولونشآء» یٰسٓ ٦٦ و ٦٧ ـ الزخرف ٦۰ و محمد ۳۰ میں ، «لو نشآء» الاعراف ۱۰۰ ـ الانفال ۳۱ ، الواقعة ٦٥ و ۷۰ میں اور «ولوشئنا» الاعراف ۱۷٦ ـ الفرقان ٥۱ و السحدة ۱۳ میں نیز «ولو ترٰی» ضمیمه ۱٤۲ میں، «ولو کره الکافرون» ضمیمه ٦۲۷ میں، «ولوانّهم آمنوا» ضمیمه ۹۳۲ میں اور «ولوکان ذا قربٰی» ضمیمه ۹۳٤ میں، «لوکانوا یعلمون» ضمیمه ٤٦ میں، «ولولا فضل اللّٰه علیکم ورحمته» ضمیمه ۱۲۳ میں اور «ولولا کلمة سبقت من ربّك» ضمیمه ۱۸۱ میں، «ان شآء اللّٰه» ضمیمه ۳۹ میں، «ما شآء اللّٰه» ضمیمه ۱٥٤ میں، «اِلّا اَن یشآء اللّٰه» ضمیمه ۲۳۷ میں اور «فمن شآء اتّخذ الی ربّه سبیلا» ضمیمه ۷۸٤ میں هے.

۱۵- اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۸ بار) بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

For Allah has power over all things.

البقرة ۲۰، ۱۰۹ و ۱٤۸ ـ آل عمران ۱٦٥ ـ النحل ۷۷ ـ النور ٤٥ ـ العنکبوت ۲۰ اور فاطر ۱ جبکه «اَنّ اللّٰه علیٰ کلّ شیءٍ قدیر» البقرة ۱۰٦ و ۲٥۹ اور الطلاق ۱۲ میں، «اِنّك علیٰ کلّ شیءٍ قدیر» آل عمران ۲٦ اور التحریم ۸ میں، «واَنّه علی کل شیءٍ قدیر» الحج ٦ میں اور «اِنّه علی کلّ شیءٍ قدیر» حم السحدة ۳۹ و الاحقاف ۳۳ میں، «انّ ربّی علی کلّ شیءٍ حفیظ» هود ٥۷ میں اور «وربّك علیٰ کلّ شیءٍ حفیظ» سبا ۲۱ میں نیز «علیٰ شیءٍ» البقرة ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۲٦٤ ـ المآئدة ٦۸ ـ ابرهیم ۱۸ ـ النحل ۷٥ و ۷٦ ـ الحدید ۲۹ اور المحادلة ۱۸ میں آیا هے علاوه ازیں «واللّٰه علی کلّ شیءٍ قدیر» ضمیمه ۹٦ میں، «وهو علیٰ کلّ شیءٍ قدیر» ضمیمه ۱۳٤ میں، «واللّٰه علیٰ کلّ شیءٍ شهید» ضمیمه ۳۲۱ میں، «وکان اللّٰه علیٰ کلّ شیء قدیرا» ضمیمه ٤۹۱ میں اور «خالق کلّ شیء» ضمیمه ۷۱۷ میں هے.

۱٦- یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ (۲۰ بار) اے لوگو!

O you people!

البقرة ۲۱ و ۱٦۸ ـ النسآء ۱، ۱۷۰ و ۱۷٤ ـ الاعراف ۱٥۸ ـ یونس ۲۳، ٥۷، ۱۰٤ و ۱۰۸ ـ الحج ۱، ٥، ٤۹ و ۷۳ ـ النمل ۱٦ ـ لقمان ۳۳ ـ فاطر ۳ ، ٥ و ۱٥ اور الحجرات ۱۳ جبکه «اَیّها النّاس» النسآء ۱۳۳ میں اور «یاَیّهَا الا نسان» الانفطار ٦ و الانشقاق ٦ میں آیا هے علاوه ازیں «یاَیّهَا النّاس اتقوا ربکم» ضمیمه ۸۰۲ میں ، «یاَیّهَا النّبی» ضمیمه ۱۷٦ میں نیز «یا یّهَا الذین آمنوا» اور تفصیلی معلومات ضمیمه ٤۷ میں هے.

۱۷- لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ (٦ بار) تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔

That you may have the chance to become righteousness.

البقرة ۲۱، ٦۳، ۱۷۹ و ۱۸۳ ـ الانعام ۱٥۳ اور الاعراف ۱۷۱ جبکه «لعلّهم یتقون» ضمیمه ٦۳ میں هے علاوه ازیں «لعلکم تشکرون» ضمیمه ۳۲ میں اور «ولعلکم تشکرون» ضمیمه ۱۹۸ میں، «لعلکم تهتدون» ضمیمه ۳۳ میں، «لعلکم تعقلون» ضمیمه ٤۰ میں، «لعلکم تفلحون» ضمیمه ٦٥ میں، «لعلکم ترحمون» ضمیمه ۱۱۱ میں اور «لعلکم تتفکرون» و تفصیلی معلومات ضمیمه ۷۸۳ میں هے نیز «لعلهم یتذکرون» ضمیمه ۷۳ میں اور «لعلهم یرجعون» ضمیمه ۱۰٤ میں هے.

۱۸۔ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً (۲۰ بار) آسمان سے بارش ۔ **Rain from the heavens.**

البقرۃ ۲۲۔ الانعام ۹۹۔ الانفال ۱۱۔ الرعد ۱۷۔ ابراھیم ۳۲۔ الحجر ۲۲۔ النحل ۱۰ و ۶۵۔ طه ۵۳۔ الحج ۶۳۔ المؤمنون ۱۸۔ الفرقان ۴۸۔ النمل ۶۰۔ العنکبوت ۶۳۔ الروم ۲۴۔ لقمان ۱۰۔ فاطر ۲۷۔ الزمر ۲۱۔ الزخرف ۱۱ اور قٓ ۹ جبکہ « من السمآءِ مِنْ مّآء » البقرۃ ۱۶۴ میں آیا ہے علاوہ ازیں « وانزل من السمآء مآء » ضمیمہ ۸۰۹ میں ہے۔

۱۹۔ مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ (۷۱ بار) اللہ کے سوا۔ **Beside Allah.**

البقرۃ ۲۳، ۱۰۷ و ۱۶۵۔ آل عمران ۶۴ و ۷۹۔ النسآء ۱۱۹، ۱۲۳ و ۱۷۳۔ المآئدۃ ۷۶ و ۱۱۶۔ الانعام ۵۶، ۷۰، ۷۱ و ۱۰۸۔ الاعراف ۳۰، ۳۷ و ۱۹۴۔ التوبۃ ۱۶، ۳۱ و ۱۱۶۔ یونس ۱۸، ۳۷، ۳۸، ۶۶، ۱۰۴ و ۱۰۶۔ ھود ۱۳، ۲۰، ۱۰۱ و ۱۱۳۔ النحل ۲۰ و ۷۳۔ الکھف ۴۳۔ مریم ۴۸، ۴۹ و ۸۱۔ الانبیآء ۶۶، ۶۷ و ۹۸۔ الحج ۱۲، ۷۱ و ۷۳۔ الفرقان ۱۷ و ۵۵۔ الشعرآء ۹۳۔ النمل ۲۴ و ۴۳۔ القصص ۸۱۔ العنکبوت ۱۷، ۱۷، ۲۲، ۲۵ و ۴۱۔ الاحزاب ۱۷۔ سبا ۲۲۔ فاطر ۴۰۔ یٰسٓ ۷۴۔ الصّافات ۲۳۔ الزمر ۳۸ و ۴۳۔ المؤمن ۶۶ و ۷۴۔ الشوریٰ ۳۱ و ۴۶۔ الجاثیۃ ۱۰۔ الاحقاف ۴، ۵ و ۲۸۔ النّجم ۵۸۔ الممتحنۃ ۴ اور نوح ۲۵ جبکہ « من دونکم » آل عمران ۱۱۸ اور « من دوننا » الانبیآء ۴۳ میں ہے علاوہ ازیں « من دونہٖ اولیآء » ضمیمہ ۱۵۹ میں، « ومالکم من دون اللّٰہ من وّلی وّلا نصیر » ضمیمہ ۲۴۳ میں، « والذین تدعون من دونہٖ » ضمیمہ ۳۷۷ میں، « الذین تدعون من دون اللّٰہ » ضمیمہ ۳۷۸ میں، « من دون المؤمنین » ضمیمہ ۷۸۹ میں، « یعبدون من دون اللّٰہ » ضمیمہ ۷۹۰ میں اور « ما دون ذلك » ضمیمہ ۱۰۲۱ میں نیز « من کل الثّمرات » ضمیمہ ۴۲۸ میں، « من مّکان بعید » ضمیمہ ۶۳۶ میں، « من لدنْك رحمۃ » ضمیمہ ۶۴۲ میں، « من نّطفۃ » ضمیمہ ۶۸۹ میں، « من کل زوج بھیج » ۶۷۸ میں اور « من قبلہٖ » ضمیمہ ۷۹۶ میں، « من السمآء مآء » ضمیمہ ۱۸ میں، « من السمآء والارض » ضمیمہ ۲۴۲ میں، « من الجنّ والانس » ضمیمہ ۱۶۱ میں، « منَ العلم » ضمیمہ ۵۶۴ میں اور « ومن آیاتہٖ » ضمیمہ ۲۱۴ میں ہے۔

۲۰۔ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (۲۸ بار) اگر تم سچے ہو۔ **If you are truthful.**

البقرۃ ۲۳، ۳۱، ۹۴ و ۱۱۱۔ آل عمران ۹۳، ۱۶۸ و ۱۸۳۔ الانعام ۴۰ و ۱۴۳۔ الاعراف ۱۹۴۔ یونس ۳۸ و ۴۸۔ ھود ۱۳۔ الانبیآء ۳۸۔ النمل ۶۴ و ۷۱۔ القصص ۴۹۔ السجدۃ ۲۸۔ سبا ۲۹۔ یٰسٓ ۴۸۔ الصّافات ۱۵۷۔ الدخان ۳۶۔ الجاثیۃ ۲۵۔ الاحقاف ۴۔ الحجرات ۱۷۔ الواقعۃ ۸۷۔ الجمعۃ ۶ اور الملك ۲۵ جبکہ « ان کنتم کاذبین » یوسف ۷۴ میں، « اَن کنتم صٰرمین » القلم ۲۲ میں، « اَن کنتم قومًا مّسرفین » الزخرف ۵ میں، « ولو کنّا صادقین » یوسف ۱۷ میں، « ان کان من الصّادقین » النور ۹ میں، « ان کانوا صادقین » الطور ۳۴ و القلم ۴۱ میں، « وانّا لصادقون » الانعام ۱۴۶۔ یوسف ۸۲۔ الحجر ۶۴ و النمل ۴۹ میں اور « اولٰٓئك ھم الصّادقون » الحجرات ۱۵ و الحشر ۸ میں ہے علاوہ ازیں « ان کنتم مّؤمنین » ضمیمہ ۴۵ میں، « ان کنتم تَعلمون » ضمیمہ ۶۲ میں، « ان کنتم فاعلین » ضمیمہ ۵۹۷ میں، « وان کنتم » ضمیمہ ۵۹۸ میں، « ان کنتم ایّاہ تعبدون » ضمیمہ ۸۴۵ میں ، « ان کنت من الصّادقین » ضمیمہ ۱۶۶ میں اور « ویقولون متی ھذا الوعد » ضمیمہ ۱۸۳ میں ہے ۔

۲۱۔ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ (۳۴ بار) جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔

Beneath which rivers flow.

البقرة ۲۵ و ۲٦٦ ـ آل عمران ۱۵، ۱۳٦، ۱۹۵ و ۱۹۸ ـ النساء ۱۳، ۵۷ و ۱۲۲ ـ المآئدة ۱۲، ۸۵ و ۱۱۹ ـ التوبة ۷۲ و ۸۹ ـ الرعد ۳۵ ـ ابراهيم ۲۳ ـ النحل ۳۱ ـ طه ۷٦ ـ الحج ۱٤ و ۲۳ ـ الفرقان ۱۰ ـ العنكبوت ۵۸ ـ الزمر ۲۰ ـ محمد ۱۲ ـ الفتح ۵ و ۱۷ ـ الحديد ۱۲ ـ المجادلة ۲۲ ـ الصف ۱۲ ـ التغابن ۹ ـ الطلاق ۱۱ ـ التحريم ۸ ـ البروج ۱۱ اور البينة ۸ جبکہ « تجرى تَحتَهَا الاَنهارُ » التوبة ۱۰۰ میں اور « تجرى من تَحتهمُ الانهارُ » الاعراف ٤۳ ـ یونس ۹ و الكهف ۳۱ میں نیز « تجرى بأعيننَا » القمر ۱٤ میں ہے علاوہ ازیں « وجعلنا الانهار تجرى من تحتهم » الانعام ٦ میں، « وهذه الانهار تجرى من تحتى » الزخرف ۵۱ میں، « ومن تحتهم ظلل » الزمر ۱٦ میں اور « فناداها من تحتها » مريم ۲٤ میں ہے۔

۲۲۔ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا (٤ بار)

اور جس وقت ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر گئے۔

And behold, We said to the angels: "Bow down to Adam" and they bowed down .

البقرة ۳٤ ـ الاسرآء ٦۱ ـ الكهف ۵۰ اور طه ۱۱٦ جبکہ « ثم قلنا للملآئكة اسجدوا لآدم فسجدوا » الاعراف ۱۱ میں، « واذ قال ربك للملآئكة » البقرة ۳۰ و الحجر ۲۸ میں، « اذ قال ربك للملآئكة » صٓ ۷۱ میں اور « ثم يقول للملآئكة » سبا ٤۰ میں، « واذ قلنا ادخلوا » البقرة ۵۸ میں اور « واذ قلنا لك » الاسرآء ٦۰ میں ہے علاوہ ازیں « وقلنا يا آدم » البقرة ۳۵ میں اور « فقلنا يا آدم » طه ۱۱۷ میں، « قلنا يا ذا القرنين » الكهف ۸٦ میں اور « قلنا يا ناركونى بردا وّسلاما » الانبيآء ٦۹ میں، « فقلنا لهم » البقرة ٦۵ میں، « وقلنا لهم » النسآء ۱۵٤ و ۱۵٤ اور « قلنا هم » الاعراف ۱٦٦ میں، « فقلنا اضرب » البقرة ٦۰ میں اور « فلقنا اضربوهُ » البقرة ۷۳ میں، « فقلنا اذهبا » الفرقان ۳٦ میں اور « فقلنا هاتوا برهانكم » القصص ۷۵ میں، « لقلنا مثل هذا » الانفال ۳۱ میں، « قلنا احمل فيها » هود ٤٠/ میں اور « قلنا لا تخف » طه ٦۸ میں ہے نیز « واسجدى » آل عمران ٤۳ میں اور « واسجد » العلق ۱۹ میں، « يسجُدُ له » الحج ۱۸ میں اور « فاسجد له » الدهر ۲٦ میں، « اسجدوا للرحمٰن » الفرقان ٦۰ میں، « واسجدوا لله » حم السجدة ۳۷ میں اور « فاسجدوا لله » النجم ٦۲ میں، « فاذا سجدوا » النسآء ۱۰۲ میں، « يسجدون للشمس » النمل ۲٤ میں اور « لا تسجدوا للشمس » حم السجدة ۳۷ میں نیز « واذ قال موسىٰ » ضمیمہ ۳٤ میں، « واذ قال ابراهيم » ضمیمہ ۲۳۸ میں اور « اذ قال لابيه » ضمیمہ ۵٤٤ میں ہے۔

۲۳۔ اِلَّآ اِبْلِيْسَ (۷ بار) سوائے ابلیس (شیطان) کے۔

Except Iblis.

البقرة ۳٤ ـ الاعراف ۱۱ ـ الحجر ۳۱ ـ الاسرآء ٦۱ ـ الكهف ۵۰ ـ طه ۱۱٦ اور صٓ ۷٤ جبکہ « قال يا ابليس » الحجر ۳۲ اور صٓ ۷۵ میں نیز « اِلّآ ابليس ط ابى » ضمیمہ ۸۱۱ میں، « اِلّا عباد الله المخلصين » ضمیمہ ۲۱٦ میں، « اِلّا باذن الله » ضمیمہ ۳۸۰ میں اور « اِلّا بالحق » ضمیمہ ۸٤۸ میں ہے۔

۲٤۔ فَلَاخَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَاهُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ (٥ بار)

پس اُن کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

On them shall be no fear, nor shall they grieve.

البقرة ۳۸ ۔ المآئدة ٦۹ ۔ الانعام ٤۸ ۔ الاعراف ۳٥ اور الاحقاف ۱۳ جبکه « ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون » ضمیمه ۳۸ میں، « ولاهم یحزنون » ضمیمه ٤٤۳ میں اور « ولا تحزن علیهم » ضمیمه ٤٤۲ میں هے.

۲٥۔ وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا (۲۰ بار)

اور جو لوگ کفر کریں گے۔

But those who reject Faith.

البقرة ۳۹ و ۲٥۷ ۔ النسآء ۷٦ ۔ المآئدة ۱۰ و ۸٦ ۔ الانفال ۳٦ و ۷۳ ۔ یونس ٤ ۔ الحج ٥۷ ۔ النور ۳۹ ۔ العنکبوت ۲۳ ۔ فاطر ۳٦ ۔ الزمر ٦۳ ۔ الجاثیة ۱۱ ۔ الاحقاف ۳ ۔ محمد ۸ و ۱۲ ۔ الحدید ۱۹ ۔ التغابن ۱۰ اور البلد ۱۹ جبکه « یودّ الذین کفروا » البقرة ۱۰٥ ۔ النسآء ٤۲ و الحجر ۲ میں، « ومثل الذین کفروا » البقرة ۱۷۱ میں اور « مثل الذین کفروا » ابراهیم ۱۸ میں، « من الذین کفروا » آل عمران ٥٥ و ۱۲۷ ۔ الانفال ٦٥ و الحدید ۱٥ میں، « فوق الذین کفروا » آل عمران ٥٥ میں، « الیوم یئس الذین کفروا » المآئدة ۳ میں، « اَلذین کفروا » النحل ۸۸ ۔ فاطر ۷ و محمد ۱ میں، « ولو قاتلکم الذین کفروا » الفتح ۲۲ میں اور « بل الذین کفروا » صٓ ۲ ۔ الانشقاق ۲۲ و البروج ۱۹ میں هے علاوہ ازیں « والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا » ضمیمه ۲٦ میں، « انّ الذین کفروا » ضمیمه ۷ میں، « انّ الذین کفروا وصدّوا عن سبیل الله » ضمیمه ۷٥۰ میں، « وقال الذین کفروا » ضمیمه ۱۹٤ میں، « فتنة لّلذِین کفروا » ضمیمه ۸۹٤ میں اور « یکفرون بآیات الله » ضمیمه ۸۸۷ میں هے .

۲٦۔ وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَكَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَاۤ (٦ بار)

اور جو لوگ کفر کرینگے اور ہماری آیتوں کی تکذیب کریں گے۔

And those who reject faith and deny Our Sings.

البقرة ۳۹ ۔ المآئدة ۱۰ و ۸٦ ۔ الحج ٥۷ ۔ الحدید ۱۹ اور التغابن ۱۰ جبکه « والذین کفروا بآیاتنا » البلد ۱۹ میں، « والذین کفروا بآیات الله » العنکبوت ۲۳ میں، « وکذّبوا بآیاتنا » الروم ۱٦ و النبا ۲۸ میں، « ممّن یّکذ ب بآیاتنا » النمل ۸۳ میں، « کذَبوا علیٰ انفسهم » الانعام ۲٤ میں، « کَذَبوا الله ورسوله » التوبة ۹۰ میں، « کذَبوا علی ربهم » هود ۱۸ میں اور « کذَبوا علی الله » الزمر ٦۰ میں هے علاوہ ازیں « والذین کفروا » ضمیمه ۲٥ میں، « والذین کذبوا بآیاتنا » ضمیمه ۱٤٤ میں، « الذین کذبوا بآیاتنا » ضمیمه ۷۸٥ میں، « فی آیاتنا » ضمیمه ۹۷۳ میں، « انّ الذین کفروا » ضمیمه ۷ میں، « انّ الذین کفروا وصدّوا عن سبیل الله » ضمیمه ۷٥۰ میں ، « قال الذین کفروا » ضمیمه ۱۹٤ میں، « فتنة لّلذین کفروا » ضمیمه ۸۹٤ میں اور « یکفرون بآیات الله » ضمیمه ۸۸۷ میں هے.

۲۷۔ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ (۶ بار) وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔

They shall be companions of the Fire.

البقرة ۳۹ و ۲۵۷ ـ الاعراف ۳٦ ـ يونس ۲۷ ـ المجادلة ۱۷ اور التغابن ۱۰ جبکہ « فأولٓئك اصحبُ النّار » البقرة ۸۱ و ۲۷۵ میں، « وَأُولٓئك اصحب النّار » البقرة ۲۱۷ ـ آل عمران ۱۱٦ و الرعد ۵ میں ، « ونادی اصحابُ النّار » الاعراف ۵۰ میں، « الذين كفروا أنهم اصحابُ النّار » المؤمن ٦ میں، « وأنّ المسرفين هم اصحابُ النّار » المؤمن ٤٣ میں اور « لا يستوی اصحابُ النّار » الحشر ۲۰ میں ہے علاوہ ازیں « واولٓئك هم وقود النّار » آل عمران ۱۰ میں، « من اصحابِ النّار » المآئدة ۲۹ و الزمر ۸ میں، « تلقآء اصحابِ النّار » الاعراف ٤٧ میں، « اصحابَ النّار » الاعراف ٤٤ و المدثر ۳۱ میں اور « اهلِ النّار » صٓ ٦٤ میں نیز « اولٓئك اصحابُ الجنة » ضميمه ٤۳ میں، « اولٓئك اصحاب الجحيم » ضميمه ٤۳۰ میں، « فاولٓئك هم الظّالمون » ضميمه ۷۷ میں، « فاولٓئك هم الفاسقون » ضميمه ٤٦۲ میں، « اولٓئك هم الخاسرون » ضميمه ٤٦۱ میں اور « اصحاب الايكة » ضميمه ۹۳۰ میں ہے۔

۲۸۔ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ (۱٦ بار) وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔

They shall abide therein.

البقرة ۳۹، ۸۱، ۸۲، ۲۱۷، ۲۵۷ و ۲۷۵ ـ آل عمران ۱۰۷ و ۱۱٦ ـ الاعراف ۳٦ و ٤۲ ـ يونس ۲٦ و ۲۷ ـ هود ۲۳ ـ الرعد ۵ ـ المؤمنون ۱۱ اور المجادلة ۱۷ جبکہ « وهم فيها خالدُون » البقرة ۲۵ میں ، « وكُلّ فيها خالدُون » الانبيآء ۹۹ میں، « هم خالدون » المآئدة ۸۰ و التوبة ۱۷ میں، « فهم الخالدون » الانبيآء ۳٤ میں اور « وانتم فيها خالدون » الزخرف ۷۱ میں ہے علاوہ ازیں « خالدين فيها » ضميمه ۵۸ میں، « خالدين فيهآ ابدا » ضميمه ۱۲۱ میں اور « وهم يخلقون » ضميمه ۷۸۸ میں ہے۔

۲۹۔ ثَمَنًا قَلِيۡلًا (۹ بار) تھوڑی سی قیمت۔

A small price.

البقرة ٤۱، ۷۹ و ۱۷٤ ـ آل عمران ۷۷، ۱۸۷ و ۱۹۹ ـ المآئدة ٤٤ ـ التوبة ۹ اور النحل ۹۵ جبکہ « ثمنًا وّلو كان ذا قربٰی » المآئدة ۱۰٦ میں ہے۔

۳۰۔ وَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ (۶ بار) اور تم لوگ نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔

And be steadfast in prayer and give Zakat (poor-due).

البقرة ٤۳، ۸۳ و ۱۱۰ ـ النسآء ۷۷ ـ النور ۵٦ اور المزمل ۲۰ جبکہ « فا قيموا الصّلوٰة وآتوا الزّكوة » الحج ۷۸ اور المجادلة ۱۳ میں، « لئن اقمتم الصّلوٰة وآتيتُم الزّكوٰة » المآئدة ۱۲ میں اور « واقمن الصّلوة وآتين الزّكوٰة » الاحزاب ۳۳ میں ہے علاوہ ازیں « فاقيموا الصّلوة » النسآء ۱۰۳ میں، « وا قيموا الصّلوة » يونس ۸۷ و الروم ۳۱ میں، « وان اقيموا الصّلوة » الانعام ۷۲ میں، « واَقِم الصّلوة » هود ۱۱٤ ـ طه ۱٤ و العنكبوت ٤۵ میں، « اَقِم الصّلوة » الاسرآء ۷۸ و لقمان ۱۷ میں اور « اقيموا الدّين » الشورٰی ۱۳ میں ہے نیز « فاقمت لهم الصّلوة » النسآء ۱۰۲ میں، « واذا قاموا الى الصّلوٰة » النسآء ۱٤۲ میں، « اذا قمتم الى الصّلوة » المآئدة ٦ میں اور « واذا ناديتم الى الصّلوة » المآئدة ۵۸ میں ہے جبکہ « واقاموا الصّلوة وآتوُا الزّكوٰة » ضميمه ۷۷۲ میں اور « الذين يقيمون الصّلوة ويؤتون الزّكوٰة » ضميمه ۷۷۳ میں ہے۔

۳۱- اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ (۱۳ بار) کیا تم سمجھتے نہیں؟

Will you not understand?

البقرة ٤٤ و ٧٦ - آل عمران ٦٥ - الانعام ٣٢ - الاعراف ١٦٩ - يونس ١٦ - هود ٥١ - يوسف ١٠٩ - الانبيآء ١٠ و ٦٧ - المؤمنون ٨٠ - القصص ٦٠ اور الصآفات ١٣٨ جبکہ «افلم تكونوا تعقلون» يٰسٓ ٦٢ میں، «افلا يعقلون» يٰسٓ ٦٨ میں، «لا يعقلون» البقرة ١٧٠ - الانفال ٢٢ - يونس ٤٢ و ١٠٠ میں، «فهم لا يعقلون» البقرة ١٧١ میں، «قوم لا يعقلون» المآئدة ٥٨ و الحشر ١٤ میں اور «ولا يعقلون» الزمر ٤٣ میں ہے علاوہ ازیں «افلا يتدبرون القرآن» النسآء ٨٢ و محمد ٢٤ میں، «افلا يتوبون» المآئدة ٧٤ میں، «افلا تتفكرون» الانعام ٥٠ میں، «افلا يرون» طه ٨٩ و الانبيآء ٤٤ میں اور «اولا يرون» التوبة ١٢٦ میں، «افلا يؤمنون» الانبيآء ٣٠ میں، «افلا تسمعون» القصص ٧١ میں اور «افلا يسمعون» السجدة ٢٦ میں، «افلا تبصرون» القصص ٧٢ - الزخرف ٥١ و الذاريات ٢١ میں اور «افلا يبصرون» السجدة ٢٧ میں، «افلا يشكرون» يٰسٓ ٣٥ و ٧٣ میں ، «افلا ينظرون» الغاشية ١٧ میں اور «افلا يعلم» العاديات ٩ میں آیا ہے نیز «افلا تتقون» ضمیمہ ١٦٥ میں، «افلا تذكرون» ضمیمہ ١٨٠ میں، «اغير الله» ضمیمہ ٨٦٦ میں اور «لعلكم تعقلون» ضمیمہ ٤٠ میں ہے۔

۳۲- لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ (۸ بار) تا کہ تم شکر کرو۔

There was a chance for you to be grateful.

البقرة ٥٢ و ٥٦ - آل عمران ١٢٣ - المآئدة ٦ و ٨٩ - الانفال ٢٦ - النحل ٧٨ اور الحج ٣٦ جبکہ «لعلهم يشكرون» ابراهيم ٣٧ میں آیا ہے علاوہ ازیں «ولعلكم تشكرون» ضمیمہ ١٩٨ میں اور «قليلا ما تشكرون» ضمیمہ ٥٠٥ میں ، «لعلكم تهتدون» ضمیمہ ٣٣ میں، «لعلكم تعقلون» ضمیمہ ٤٠ میں، «لعلكم تفلحون» ضمیمہ ٦٥ میں، «لعلكم ترحمون» ضمیمہ ١١١ میں، «لعلكم تذكرون» ضمیمہ ١٥٧ میں اور «لعلهم يتذكرون» ضمیمہ ٧٣ میں، «لعلهم يرجعون» ضمیمہ ١٠٤ میں نیز «لعلكم تتفكرون» اور «لعلهم يرشدون» ضمیمہ ٧٨٣ میں ہے۔

۳۳- لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ (۵ بار) تا کہ تم ہدایت حاصل کرو۔

There was a chance for you to be guided aright.

البقرة ٥٣ - آل عمران ١٠٣ - الاعراف ١٥٨ - النحل ١٥ اور الزخرف ١٠ جبکہ «ولعلكم تهتدون» البقرة ١٥٠ میں، «لعلهم يهتدون» الانبيآء ٣١ - المؤمنون ٤٩ و السجدة ٣ میں اور «تهتدوا» البقرة ١٣٥ و النور ٥٤ میں ہے علاوہ ازیں «لعلكم تشكرون» ضمیمہ ٣٢ میں اور «ولعلكم تشكرون» ضمیمہ ١٩٨ میں، «لعلكم تعقلون» ضمیمہ ٤٠ میں، «لعلكم تفلحون» ضمیمہ ٦٥ میں، «لعلكم ترحمون» ضمیمہ ١١١ میں، «لعلكم تذكرون» ضمیمہ ١٥٧ میں اور «لعلهم يتذكرون» ضمیمہ ٧٣ میں، «لعلهم يرجعون» ضمیمہ ١٠٤ میں نیز «لعلكم تتفكرون» اور «لعلهم يرشدون» ضمیمہ ٧٨٣ میں ہے۔

٣٤۔ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰی (٦ بار) اور جب موسٰی نے (اپنی قوم کے لوگوں سے) کہا۔

And when Moses said.

البقرة ٥٤ و ٦٧ ۔ المآئدة ٢٠ ۔ ابراهيم ٦ ۔ الكهف ٦٠ اور الصف ٥ جبکه «اذ قال موسٰی» النمل ٧ میں، «واذ قلتم یا موسٰی» البقرة ٥٥ و ٦١ میں، «واذا قلتم فاعدلوا» الانعام ١٥٢ میں اور «اذ قلتم سمعنا واطعنا» المآئدة ٧ میں ھے علاوہ ازیں «واذ قال موسٰی لقومه» ضمیمه ٦١٦ میں، «وقال موسٰی» ضمیمه ٢٦٧ میں، «قالوا یا موسٰی» ضمیمه ٢٣٩ میں، «واذ قال ابراهيم» ضمیمه ٢٣٨ میں اور «اذ قال لابيه» ضمیمه ٥٤٤ میں ھے.

٣٥۔ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (٧ بار) بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔

But they harmed their own souls.

البقرة ٥٧ ۔ الاعراف ١٦٠ ۔ التوبة ٧٠ ۔ النحل ٣٣ و ١١٨ ۔ العنكبوت ٤٠ اور الروم ٩ جبکه «ولكن انفسهم يظلمون» آل عمران ١١٧ میں ، «ولكنّ النّاس انفسهم يظلمون» يونس ٤٤ میں، «ولكن ظلموا انفسهم» هود ١٠١ میں، «وانفسهم كانوا يظلمون» الاعراف ١٧٧ میں اور «ولكن كانوا هم الظّالمين» الزخرف ٧٦ میں ھے علاوہ ازیں «ولكن كان حنيفا مّسلما» آل عمران ٦٧ میں، «ولكن كونوا ربّا نيين» آل عمران ٧٩ میں اور «ولكن كان فى ضلالٍ بعيد» قٓ ٢٧ میں ھے نیز «ولكنّ الله» ضمیمه ٨٥١ میں، «ولكنّ اكثرهم لا يعلمون» ضمیمه ١٤٣ میں، «ولكنّ اكثر النّاس لا يعلمون» ضمیمه ١٧٢ میں ، «ولكن لّا يشعرون» ضمیمه ٩١٦ میں ، «وكانوا يتقون» ضمیمه ١٠١١ میں، «ظلموا انفسهم» ضمیمه ٢٦٢ میں اور «وما ظلمنا هم» ضمیمه ٤٨٩ میں ھے.

٣٦۔ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (٥ بار) اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔

And do no evil nor mischief on the earth.

البقرة ٦٠ ۔ الاعراف ٧٤ ۔ هود ٨٥ ۔ الشعرآء ١٨٣ اور العنكبوت ٣٦ جبکه «لا تفسدوا فى الارض» البقرة ١١ میں، «ولا تفسدوا فى الارض» الاعراف ٥٦ و ٨٥ میں اور «ان تفسدوا فى الارض» محمد ٢٢ میں آیا ھے علاوہ ازیں «ويفسدون فى الارض» ضمیمه ٥٨٦ میں ھے.

٣٧۔ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (١٩ بار) اللہ پر اور روزِ قیامت پر۔

In Allah and the Last Day.

البقرة ٦٢، ١٢٦، ١٧٧، ٢٢٨، ٢٣٢ و ٢٦٤ ۔ آل عمران ١١٤ ۔ النسآء ٣٩، ٥٩ و ١٦٢ ۔ المآئدة ٦٩ ۔ التوبة ١٨، ١٩، ٤٤، ٤٥ و ٩٩ ۔ النور ٢ ۔ المجادلة ٢٢ اور الطلاق ٢ جبکه «بالله وملآئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» البقرة ٢٨٥ و االنسآء ١٣٦ میں، «وباليوم الآخر» البقرة ٨ میں اور «ولا باليوم الآخر» النسآء ٣٨ اور التوبة ٢٩ میں ھے علاوہ ازیں «يؤمنون بالله واليوم الآخر» ضمیمه ٧٦٢ میں، «من آمن بالله واليوم الآخر» ضمیمه ٨٨٦ میں اور «ومن يؤمن بالله» ضمیمه ٨٨١ میں ھے.

۳۸۔ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (۵ بار)

اور (قیامت کے دن) ان کو نہ کسی کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

On them shall be no fear, nor shall they grieve.

البقرة ۶۲، ۱۱۲، ۲۶۲، ۲۷۴ اور ۲۷۷ جبکہ «اَلّا خوف علیھم ولا ھم یحزنون» آل عمران ۱۷۰ میں، «لاخوف علیھم ولا ھم یحزنون» یونس ۶۲ میں، «لا خوف علیکم ولآ انتم تحزنون» الاعراف ۴۹ میں اور «لا خوف علیکم الیوم ولآ انتم تحزنون» الزخرف ۶۸ میں ھے علاوہ ازیں «فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنون» ضمیمہ ۲۴ میں، «ولاھم یحزنون» ضمیمہ ۴۴۳ میں اور «ولا تحزن علیھم» ضمیمہ ۴۴۲ میں ھے.

۳۹۔ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ (۶ بار) اگر اللہ نے چاہا۔

If Allah Wills.

البقرة ۷۰۔ یوسف ۹۹۔ الکھف ۶۹۔ القصص ۲۷۔ الصافات ۱۰۲ اور الفتح ۲۷ جبکہ «ان شآءَ» الانعام ۴۱۔ التوبة ۲۸۔ ھود ۳۳۔ الفرقان ۱۰ و الاحزاب ۲۴ میں اور «انشاۤءَ» الواقعة ۳۵ میں ھے علاوہ ازیں «ولوشآء اللّٰه» ضمیمہ ۱۴ میں، «ما شآء اللّٰه» ضمیمہ ۱۵۴ میں، «اِلآ اَن یشآء اللّٰه» ضمیمہ ۲۳۷ میں، «ویھدی من یّشآء» ضمیمہ ۲۵۶ میں، «فمن شآء اتّخذَ» ضمیمہ ۷۸۴ میں اور «ان یشأ یذھبکم» ضمیمہ ۸۸۳ میں نیز «الحمد للّٰه ربّ العالمین» ضمیمہ ۲ میں، «الحمد للّٰه الذی» ضمیمہ ۱۳۵میں، «سبحان اللّٰه» ضمیمہ ۲۴۵ میں اور «واستغفروا اللّٰه» ضمیمہ ۵۸۰ میں ھے.

۴۰۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۷ بار) تاکہ تم سمجھو۔

Perchance you may understand.

البقرة ۷۳ و ۲۴۲۔ الانعام ۱۵۱۔ یوسف ۲۔ النور ۶۱۔ الزخرف ۳ اور الحدید ۱۷ جبکہ «ولعلّکم تعقلون» المؤمن ۶۷ میں اور «ان کنتم تعقلون» آل عمران ۱۱۸ و الشعرآء ۲۸ میں ھے علاوہ ازیں «لعلکم تشکرون» ضمیمہ ۳۲ میں اور «ولعلکم تشکرون» ضمیمہ ۱۹۸ میں، «لعلکم تھتدون» ضمیمہ ۳۳ میں، «لعلّکم تفلحون» ضمیمہ ۶۵ میں، «لعلکم ترحمون» ضمیمہ ۱۱۱ میں، «لعلکم تذکرون» ضمیمہ ۱۵۷ اور «لعلھم یتذکرون» ضمیمہ ۷۳ میں، «لعلّھم یرجعون» ضمیمہ ۱۰۴ میں، «لعلّھم یرشدون» اور «لعلکم تتفکرون» ضمیمہ ۷۸۳ میں نیز «افلا تعقلون» ضمیمہ ۳۱ میں ھے.

۴۱۔ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۵ بار) اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔

And Allah is not unmindful of what you do.

البقرة ۷۴، ۸۵، ۱۴۰ و ۱۴۹ اور آل عمران ۹۹ جبکہ «وما اللّٰه بغافلٍ عمّا یعملون» البقرة ۱۴۴ میں، «وما ربك بغافلٍ عمّا یعملون» الانعام ۱۳۲ میں، «وما ربك بغافلٍ عما تعملون» ھود ۱۲۳ و النمل ۹۳ میں، «ولتسئلنّ عما کنتم تعملون» النحل ۹۳ میں اور «ولا نسئل عما تعملون» سبا ۲۵ میں ھے.

٤٢۔ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ (١١ بار) اور جولوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں۔

But those who have faith and work righteousness.

البقرة ٨٢۔ النسآء ٥٧ و ١٢٢۔ الاعراف ٤٢۔ العنکبوت ٧، ٩ و ٥٨۔ فاطر ٧۔ المؤمن ٥٨۔ الشوریٰ ٢٢ اور محمد ٢ جبکه «فالذین آمنوا وعملوا الصّٰلحٰت » الحج ٥٠ و ٥٦ میں هے علاوه ازیں «وبشّر الذین آمنوا وعملوا الصالحات » البقرة ٢٥ میں، «وامّا الذین آمنوا وعملوا الصالحات » آل عمران ٥٧ میں، «فامّا الذین آمنوا وعملوا الصالحات » النسآء ١٧٣۔ الروم ١٥ و الجاثیة ٣٠ میں اور «امّا الذین آمنوا وعملوا الصالحات » السجدة ١٩ میں، «وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات » المآئدة ٩ و الفتح ٢٩ میں اور «وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات »النور ٥٥ میں، «والذین عملوا السیّئات » الاعراف ١٥٣ میں اور «فلا یجزی الذین عملوا السیّئات » القصص ٨٤ میں هے نیز « انّ الذین آمنوا وعملُوا الصّٰلحٰت » ضمیمه ٩٢ میں، «الّا الذین آمنوا وعملوا الصالحات » ضمیمه ٢١٠ میں، «الذین آمنوا وعملوا الصالحات » ضمیمه ٢٨٦ میں، «والذین آمنوا معه » ضمیمه ٢٣٣ میں، «والذین آمنوا » ضمیمه ٨٠٨ میں اور «فامّا الذین آمنوا » ضمیمه ٨١٠ میں هے۔

٤٣۔ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ (٥ بار) وہ لوگ اہل بہشت ہیں۔

They are inhabitants of the Garden.

البقرة ٨٢۔ الاعراف ٤٢۔ یونس ٢٦۔ هود ٢٣ اور الاحقاف ١٤ جبکه «اصحابُ الجنة » الاعراف ٤٤ اور الفرقان ٢٤ میں ، «واصحابُ الجنة »الحشر ٢٠ میں، «اصحابَ الجنة » الاعراف ٤٦ و ٥٠۔ یٰسٓ ٥٥ و القلم ١٧ میں اور «فی اصحابِ الجنة » الاحقاف ١٦ میں هے علاوه ازیں «اولٓئك اصحابُ النّار » ضمیمه ٢٧ میں، « اولٓئك اصحاب الجحیم »ضمیمه ٤٣٠ میں، « فاولٓئك هم الظّالمون »ضمیمه ٧٧ میں، « فاولٓئك هم الفاسقون »ضمیمه ٤٦٢ میں، « اولٓئك هم الخاسرون »ضمیمه ٤٦١ میں اور « اصحاب الایکة »ضمیمه ٩٣٠ میں هے۔

٤٤۔ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ (٧ بار) اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔

We gave Moses the Book.

البقرة ٨٧۔ هود ١١٠۔ المؤمنون ٤٩۔ الفرقان ٣٥۔ القصص ٤٣۔ السجدة ٢٣ اور حم السجدة ٤٥ جبکه «ولقد آتینا موسٰی تسع آیات م بیّنات » الاسرآء ١٠١ میں، «ولقد آتینا موسٰی وهارون الفرقان » الانبیآء ٤٨ میں اور «ولقد آتینا موسٰی الهدٰی » المؤمن ٥٣ میں هے علاوه ازیں «واذ آتینا موسٰی الکتاب » البقرة ٥٣ میں، «وآتینا موسٰی سلطانا مّبینا » النسآء ١٥٣ میں، «ثم آتینا موسٰی الکتاب » الانعام ١٥٤ میں، «وآتینا موسٰی الکتاب » الاسرآء ٢ میں اور «وآ تینٰهُمَا الکتاب المستبین » الصآفات ١١٧ میں هے نیز «فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب » النسآء ٥٤ میں، «ولقد آتیناك سبعًا من المثانی والقرآن العظیم » الحجر ٨٧ میں، «ولقد آتینا ابراهیم رشدهُ » الانبیآء ٥١ میں اور «ولقد آتینا لقمان الحکمة » لقمان ١٢ میں نیز «وآتینا داوٗد زبورا » ضمیمه ٩٤٥ میں هے۔

٤٥۔ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١٦ بار) اگر تم ایمان والے ہو۔
If you did indeed believe.

البقرة ٩١، ٩٣، ٢٤٨ و ٢٧٨ ۔ آل عمران ٤٩، ١٣٩ و ١٧٥ ۔ المآئدة ٢٣، ٥٧ و ١١٢ ۔ الاعراف ٨٥ ۔ الانفال ١ ۔ التوبة ١٣ ۔ هود ٨٦ ۔ النور ١٧ اور الحديد ٨ جبکہ «إن كنتم بآيٰتہٖ مؤمنين» الانعام ١١٨ میں، «إن كنتم مّسلمين» يونس ٨٤ میں، «إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» النسآء ٥٩ و النور ٢ میں، «إن كنتم موقنين» الشعرآء ٢٤ و الدخان ٧ میں، «ان كانوا مؤمنين» التوبة ٦٢ میں ، اور «أن كنتم قوما مّسرفين» الزخرف ٥ میں ہے علاوہ ازیں «حتى يكونوا مؤمنين» يونس ٩٩ میں اور «ألّا يكونوا مؤمنين» الشعرآء ٣ میں، «كذلك حقًا علينا ننج المؤمنين» يونس ١٠٣ میں ، «وكذلك ننجى المؤمنين» الانبيآء ٨٨ میں اور «وكان حقًا علينا نصر المؤمنين» الروم ٤٧ میں ہے نیز «إن كنتم صادقين» ضمیمہ ٢٠ میں، «إن كنتم تعلمون» ضمیمہ ٦٢ میں، «إن كنتم فاعلين» ضمیمہ ٥٩٧ میں، «وإن كنتم» ضمیمہ ٥٩٨ میں، «إن كنتم ايّاه تعبدون» ضمیمہ ٨٤٥ میں اور «ومآ اولٰئكَ بالمؤمنين» ضمیمہ ١٠٣٦ میں ہے.

٤٦۔ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (٧ بار) کاش یہ لوگ جان لیتے۔
If they but knew.

البقرة ١٠٢ و ١٠٣ ۔ النحل ٤١ ۔ العنكبوت ٤١ و ٦٤ ۔ الزمر ٢٦ اور القلم ٣٣ جبکہ «أن لّو كانوا يعلمون» سبا ١٤ میں اور «قل أولو كانوا لا يملكون شيئا» الزمر ٤٣ میں ہے علاوہ ازیں «لو كانوا عندنا ما ماتوا» آل عمران ١٥٦ میں، «لو كانوا يفقهون» التوبة ٨١ میں اور «لو كانوا مسلمين» الحجر ٢ میں، «ولو كانوا يؤمنون بالله» المآئدة ٨١ میں، «ولو كانوا اولى قربٰى» التوبة ١١٣ میں، «ولو كانوا لا يعقلون» يونس ٤٢ میں ، «ولو كانوا لا يبصرون» يونس ٤٣ میں، «ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الّا قليلا» الاحزاب ٢٠ میں اور «ولو كانوا آباء هم» المجادلة ٢٢ میں، «قل لّو كنتم» آل عمران ١٥٤ میں، «قل لّو انتم» الاسرآء ١٠٠ میں، «لو أنّكم كنتم تعلمون» المؤمنون ١١٤ میں اور «لو كنتم تعلمون» نوح ٤ میں، «لو اطاعونا» آل عمران ١٦٨ میں اور «لوانهم كانوا يهتدون» القصص ٦٤ میں آیا ہے نیز «ولو كره الكافرون» ضمیمہ ٦٢٧ میں اور «ولو كان ذا قربٰى» ضمیمہ ٩٣٤ میں، «ما كانوا يعملون» ضمیمہ ١٢٩ میں، «بما كانوا يعملون» ضمیمہ ١٥٢ میں، «وهم يعلمون» ضمیمہ ٢٥٩ میں، «وان كانوا» ضمیمہ ٩٤٧ میں اور «وكانوا يتقون» ضمیمہ ١٠١١ میں ہے.

٤٧۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (٨٩ بار) اے ایمان والو
O you of Faith!

البقرة ١٠٤، ١٥٣، ١٧٢، ١٧٨، ١٨٣، ٢٠٨، ٢٥٤، ٢٦٤، ٢٦٧، ٢٧٨ و ٢٨٢ ۔ آل عمران ١٠٠، ١٠٢، ١١٨، ١٣٠، ١٤٩، ١٥٦ و ٢٠٠ ۔ النسآء ١٩، ٢٩، ٤٣، ٥٩، ٧١، ٩٤، ١٣٥، ١٣٦ و ١٤٤ ۔ المآئدة ١، ٢، ٦، ٨، ١١، ٣٥، ٥١، ٥٤، ٥٧، ٨٧، ٩٠، ٩٤، ٩٥، ١٠١، ١٠٥ و ١٠٦ ۔ الانفال ١٥، ٢٠، ٢٤، ٢٧، ٢٩ و ٤٥ ۔ التوبة ٢٣، ٢٨، ٣٤، ٣٨، ١١٩، و ١٢٣ ۔ الحج ٧٧ ۔ النور ٢١، ٢٧ و ٥٨ ۔ الاحزاب ٩، ٤١، ٤٩، ٥٣، ٥٦، ٦٩ و ٧٠ ۔ محمّد ٧ و ٣٣ ۔ الحجرات ١، ٢، ٦، ١١ و ١٢ ۔ الحديد ٢٨ ۔ المجادلة ٩، ١١ و ١٢ ۔ الحشر ١٨ ۔ الممتحنة ١، ١٠ و ١٣ ۔ الصف ٢، ١٠ و ١٤ ۔ الجمعة ٩ ۔ المنافقون ٩ ۔ التغابن ١٤ اور التحريم ٦ و ٨ جبکہ «يا يها الذين اوتوا الكتاب» النسآء ٤٧

میں ، «یا یھا الذین ھا دوا» الجمعة ٦ میں ، «یا یھا الذین کفروا » التحریم ٧ میں اور «یایھا الکافرون» الکافرون ١ میں آیا ہے علاوہ ازیں «یایھا العزیز» یوسف ٧٨ و ٨٨ میں، «یایھا الذی نزل علیه الذکر» الحجر ٦ میں، «یایھا النّمل ادخلوا مساکنکم» النمل ١٨ میں، «یایھا المزمل» المزمل ١ میں، «یایھا المدثر» المدثر ١ میں اور «یایھا الا نسان» الانفطار ٦ و الانشقاق ٦ میں ہے نیز «یا عبادیَ الذین آمنوا» العنکبوت ٥٦ میں اور «یا عبادیَ الذین اسرفوا علیٰ انفسھم» الزمر ٥٣ میں، «یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم» الزمر ١٠ میں، «یاعباد فاتقون» الزمر ١٦ میں اور «یا عباد لا خوف علیکم الیوم» الزخرف ٦٨ میں ہے جبکہ «یایھا الذین آمنوا اتقوا اللّٰه» ضمیمہ ٩٣ میں اور «یا یھا الذین آمنوا اتقوا اللّٰه وذروا ما بقی من الربٰو» ضمیمہ ٧٧١ میں، «یایھا الذین آمنوا لا تتخذوا» ضمیمہ ٧٧٠ میں، «یایھا الناس» ضمیمہ ١٦ میں اور «یایھا الناس اتقوا ربکم» ضمیمہ ٨٠٢ میں، «یایھا النبی» ضمیمہ ١٧٦ میں اور «یایھا النبی جاھد الکفار» ضمیمہ ٨٠٣ میں، «یایھا الملأ» ضمیمہ ١٨٨ میں، «یآ ابانا» ضمیمہ ١٨٦ میں، «یآ ابت» ضمیمہ ٢٦٦ میں، «یا بنی آدم» ضمیمہ ٣٦٣ میں، «یا بنیَ اسرآئیل» ضمیمہ ٣٦٤ میں اور «یا بنیَ اسرآئیل اذکروا» ضمیمہ ٨٠٤ میں، «قال یا قوم» ضمیمہ ٣٧٤ میں، «یا قوم» ضمیمہ ١٠٤٤ میں ، «یا بُنیّ» ضمیمہ ٣٨٧ میں، «یا مریم» ضمیمہ ٦٦١ میں ، «والذین آمنوا معه» ضمیمہ ٢٣٣ میں اور «اِلّا الّذین آمنوا» ضمیمہ ٢١٠ میں ہے۔

٤٨۔ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (٦ بار) اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

For Allah is Lord of grace abounding.

البقرة ١٠٥ ۔ آل عمران ٧٤ ۔ الانفال ٢٩ ۔ الحدید ٢١ و ٢٩ اور الجمعة ٤ جبکہ «واللّٰه ذوفضل علی المؤمنین» آل عمران ١٥٢ میں، «واللّٰه ذوفضلٍ عظیم» آل عمران ١٧٤ میں، «ولکن اللّٰه ذوفضلٍ علی العالمین» البقرة ٢٥١ میں اور «انّ اللّٰه لذوفضل علی الناس» ضمیمہ ٧٥٦ میں ہے۔

٤٩۔ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (١٠ بار)

آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لئے ہے۔

To Allah belongs the dominion of the heavens and the earth.

البقرة ١٠٧ ۔ المآئدة ٤٠ ۔ الاعراف ١٥٨ ۔ التوبة ١١٦ ۔ الفرقان ٢ ۔ الزمر ٤٤ ۔ الزخرف ٨٥ ۔ الحدید ٢ و ٥ اور البروج ٩ جبکہ «ام لھم ملك السمٰوٰت والارض» صٓ ١٠ میں نیز «وللّٰه ملك السمٰوٰت والارض» ضمیمہ ١١٥ میں، «وللّٰه غیب السمٰوٰت والارض» ضمیمہ ٥٦١ میں، «له ما فی السمٰوٰت وما فی الارض» ضمیمہ ٨٥ میں ، «ذلکم اللّٰه ربکم له الملك» ضمیمہ ٦٦٥ میں اور «ربُّ السمٰوٰت والارض» ضمیمہ ٢٥٧ میں ہے۔

٥٠۔ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (٦ بار) اس میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے۔

Between them in their quarrel.

البقرة ١١٣ ۔ یونس ٩٣ ۔ النحل ١٢٤ ۔ السجدة ٢٥ ۔ الزمر ٤٦ اور الجاثیة ١٧ جبکہ « فیما فیه یختلفون» یونس ١٩ میں اور « فی ماھم فیه یختلفون» الزمر ٣ میں، «الذی ھم فیه یختلفون» النمل ٧٦ میں اور «الذی ھم فیه مختلفون» النبا ٣ میں، «الذی یختلفون فیه» النحل ٣٩ میں اور «الذی اختلفوا فیه» النحل ٦٤ و ١٢٤ میں ہے علاوہ ازیں «فیما کنتم فیه تختلفون» آل عمران ٥٥ و الحج ٦٩ میں، «بما کنتم فیه تختلفون» المآئدة ٤٨ و الانعام ١٦٤ میں، «ما کنتم فیه تختلفون» النحل ٩٢ میں اور «بعض الذی تختلفون فیه»

الزخرف ٦٣ میں ھے نیز «وما اختلف فیه» البقرة ٢١٣ میں، «وما اختلف الذین» آل عمران ١٩ میں اور «وما اختلفتم فیه» الشوریٰ ١٠ میں، «وإنّ الذین اختلفوا فی الکتاب» البقرة ١٧٦ میں اور «وإنّ الذین اختلفوا فیه» النسآء ١٥٧ میں، «فیما اختلفوا فیه» اور «لما اختلفوا فیه» البقرة ٢١٣ میں، «ولکن اختلفوا» البقرة ٢٥٣ میں، «واختلفوا» آل عمران ١٠٥ میں، «فاختلفوا» یونس ١٩ میں، «فما اختلفوا» یونس ٩٣ اور الجاثیة ١٧ میں، «فاختلف فیه» هود ١١٠ و حم السجدة ٤٥ میں اور «فاختلف الاحزاب» مریم ٣٧ و الزخرف ٦٥ میں ہے جبکہ «وما کانوا مهتدین» اور تفصیلی معلومات ضمیمہ ١٠١٠ میں ھے.

۵۱- مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (١١ بار) جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

All that is in the heavens and on earth.

البقرة ١١٦ - النسآء ١٧٠ - الانعام ١٢ - یونس ٥٥ - النحل ٥٢ - النور ٦٤ - العنکبوت ٥٢ - لقمان ٢٦ - الحدید ١ - الحشر ٢٤ اور التغابن ٤ جبکہ «له ما فی السّمٰوٰت والارض» البقرة ١١٦ و الحشر ٢٤ میں اور «وله ما فی السّمٰوٰت والارض» النحل ٥٢ میں، «وسع کرسیّه السمٰوٰت والارض» البقرة ٢٥٥ میں، «ثقلت فی السمٰوٰت والارض» الاعراف ١٨٧ میں، «وما خلق الله فی السمٰوٰت والارض» یونس ٦ میں اور «ماذا فی السمٰوٰت والارض» یونس ١٠١ میں، «ما فی السمآء و الارض» الحج ٧٠ میں اور «فی السمآء والارض» الانبیآء ٤ و النمل ٧٥ میں ہے علاوہ ازیں «له ما فی السمٰوٰت وما فی الارض» ضمیمہ ٨٥ میں، «ما فی السمٰوٰت وما فی الارض» ضمیمہ ٨٦ میں، «ولله ما فی السمٰوٰت وما فی الارض» ضمیمہ ١٠٨ میں اور «فی السمآء» ضمیمہ ٨٤٢ میں ہے.

۵۲- وَبِئْسَ الْمَصِیْرُ (٩ بار) اور وہ رہنے کی بہت بُری جگہ ہے۔

An evil destination (indeed).

البقرة ١٢٦ - آل عمران ١٦٢ - الانفال ١٦ - التوبة ٧٣ - الحج ٧٢ - الحدید ١٥ - التغابن ١٠ - التحریم ٩ اور الملك ٦ جبکہ «فبئسَ المصیر» المجادلة ٨ میں اور «وَلبئسَ المصیر» النور ٥٧ میں اور «وبئس الورد المورود» هود ٩٨ میں ھے علاوہ ازیں «وبئس المهاد» ضمیمہ ٦٦٧ میں، «والی الله المصیر» ضمیمہ ٧٦٩ میں اور «وسآءت مصیرا» ضمیمہ ٥٠٨ میں ہے.

۵۳- مِلَّةَ اِبْرٰهِمَ حَنِیْفًا (٥ بار) (ہم تو) ملّتِ ابراہیمی پر رہیں گے جس میں کجی کا نام نہیں۔

No! (I would rather) The Religion of Abraham the true.

البقرة ١٣٥ - آل عمران ٩٥ - النسآء ١٢٥ - الانعام ١٦١ اور النحل ١٢٣ جبکہ «ملّت ابیکم ابراهیم» الحج ٧٨ میں، «واتبعت ملّة آبائیؔ ابراهیم» یوسف ٣٨ میں، «ومن یرغب عن ملّةِ ابراهیم» البقرة ١٣٠ میں اور «ولکن کان حنیفا مّسلما» آل عمران ٦٧ میں ھے.

٥٤۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (٥ بار) اور وہ (ابراہیم) مشرکوں میں سے نہ تھے۔

And he (Abraham) was not of the idolaters.

البقرة ١٣٥ ۔ آل عمران ٦٧ و ٩٥ ۔ الانعام ١٦١ اور النحل ١٢٣ جبکہ « ماكان للمشركين » التوبة ١٧ میں، « ومآ انا من المشركين » الانعام ٧٩ و يوسف ١٠٨ میں، « والله ربنا ما كنّا مشركين » الانعام ٢٣ میں، « انّ الله برئ ء من المشركين » التوبة ٣ میں، « ولم يك من المشركين » النحل ١٢٠ میں، « ولاتكونن من المشركين » الانعام ١٤ ۔ يونس ١٠٥ و القصص ٨٧ میں، « ولا تكونوا من المشركين » الروم ٣١ میں اور « وكفرنا بما كنّا به مشركين » المؤمن ٨٤ میں ہے علاوہ ازیں « وما كان اكثرهم مؤمنين » ضمیمه ٢٠٥ میں، « وما كان الله » ضمیمه ٨٣٤ میں، « فما كان جواب قومه » ضمیمه ٨٩٨ میں، « ولا أُشرك بربّي احدا » ضمیمه ٥١٥ میں، « ولا نشرك به شيئا » ضمیمه ٨٩٦ میں اور « وإنّني برئ ء ممّا تشركون » ضمیمه ١٠٢٩ میں ہے۔

٥٥۔ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٦ بار) اور وہ سننے والا (اور) جاننے والا ہے۔

And He is the All-Hearing, the All-Knowing.

البقرة ١٣٧ ۔ الانعام ١٣ و ١١٥ ۔ الانبيآء ٤ اور العنكبوت ٥ و ٦٠ جبکہ صرف « هو السميع العليم » يونس ٦٥ میں اور « والله هو السميع العليم » المآئدة ٧٦ میں ہے علاوہ ازیں « والله سميع عليم » ضمیمه ٧٥ میں، « والله واسع عليم » ضمیمه ٨٣ میں ، « إنّه هو السميع العليم » ضمیمه ١٧٥ میں، « وهو العزيز الحكيم » اور مزید معلومات ضمیمه ١٩٣ میں، « وهو العليّ العظيم » ضمیمه ٥٦٩ میں، « وهو على كل شيء قدير » ضمیمه ١٣٤ میں، « وهو اللطيف الخبير » ضمیمه ٦٤٤ میں، « وهو بكل شيء عليم » ضمیمه ٧٥٤ میں، « وهو اعلم بالمهتدين » ضمیمه ٧٠١ میں، « فهو خير لكم » ضمیمه ١٠٥٢ میں، « وهو الذى انشأ جنّٰت » ضمیمه ٦٨٨ میں، « هو الذى خلقكم » ضمیمه ٤٦٦ میں، « هو الذىٓ ارسل رسوله » ضمیمه ٧٤٢ میں، « هو الذى يريكم » ضمیمه ٧٤٠ میں، « هو الحق » ضمیمه ٣٠٢ میں، « هو خير » ضمیمه ١٠٥٤ میں، « إنّه هو التوّاب الرّحيم » ضمیمه ٤٢٦ میں، « انّه هو الغفور الرحيم » ضمیمه ٣٧٢ میں، « لآ اله الّا هو ط » ضمیمه ٥٩ میں، « قل هو ط » ضمیمه ٨٥٤ میں، « انّ ربّك هو اعلم » ضمیمه ١٥٣ میں، « ان هو الّا ذكر للعالمين » ضمیمه ٤٢٠ میں، « وما هو بمزحزحه » ضمیمه ٩٢٠ میں اور « فانّ الله هو الغنىّ الحميد » ضمیمه ٥٨٢ میں ہے۔

٥٦۔ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (١٢ بار) سیدھی راہ کی طرف۔

To a Way that is straight.

البقرة ١٤٢ و ٢١٣ ۔ آل عمران ١٠١ ۔ المآئدة ١٦ ۔ الانعام ٨٧ و ١٦١ ۔ يونس ٢٥ ۔ النحل ١٢١ ۔ الحج ٥٤ ۔ المؤمنون ٧٣ ۔ النور ٤٦ اور الشورىٰ ٥٢ جبکہ « اليه صراطًا مستقيما » النسآء ١٧٥ میں، « الىٰ صراط العزيز الحميد » ابراهيم ١ و سبا ٦ میں اور « الىٰ صراط الحميد » الحج ٢٤ میں، « الىٰ صراط الجحيم » الصآفات ٢٣ میں، « الىٰ سوآء الصراط » صٓ ٢٢ میں اور « الىٰ سوآء الجحيم » الدخان ٤٧ میں، « وهدينا هما الصراط المستقيم » الصآفات ١١٨ میں اور « والىٰ طريقٍ مستقيم » الاحقاف ٣٠ میں ہے علاوہ ازیں « على صراطٍ مستقيم » ضمیمه ١٤٥ میں ، « هذا صراط مستقيم » ضمیمه ١٠٠ میں ، « الى اجلٍ مسمًّى » ضمیمه ٢٣٦ میں اور « الى فرعون وملا ئه » ضمیمه ٢٤١ میں ہے۔

۵۷۔ اِلَّا الَّذِیۡنَ تَابُوۡا (۵ بار) مگر جنہوں نے توبہ کی۔

Except those who repent.

البقرة ۱۶۰ ۔ آل عمران ۸۹ ۔ النسآء ۱٤٦ ۔ المآئدة ۳٤ اور النور ٥ جبکہ « اِلّا الذین ظلموا » البقرة ۱٥۰ و العنکبوت ٤٦ میں ، « اِلّا الذین اوتوه » البقرة ۲۱۳ میں ، « اِلّا الذین یصلون » النسآء ۹۰ میں ، « اِلّا الذین عاهدتّم » التوبة ۳ و ۷ میں ، « اِلّا الذین صبروا » هود ۱۱ و حم السجدة ۳٥ میں ، « اِلّا الذین هم اراذلنا » هود ۲۷ میں اور « اِلّا الذین کفروا » المؤمن ٤ میں آیا هے علاوه ازیں « ثم تابوا » الاعراف ۱٥۳ و النحل ۱۱۹ میں، « فان تابوا » التوبة ٥ و ۱۱ میں اور « فاغفر للذین تابوا » المؤمن ۷ میں نیز « اِلّا الذین آمنوا وعملوا الصّالحات » ضمیمه ۲۱۰ میں، « اِلّا عباد الله المخلصین » ضمیمه ۲۱٦ میں اور « ثم توبوا الیه » ضمیمه ٤۲٥ میں هے

۵۸۔ خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَا (۲۸ بار) وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

They will abide therein .

البقرة ۱٦۲ ۔ آل عمران ۱٥، ۸۸، ۱۳٦ و ۱۹۸ ۔ النسآء ۱۳ ۔ المآئدة ۸٥ ۔ الانعام ۱۲۸ ۔ التوبة ٦۸، ۷۲ و ۸۹ ۔ هود ۱۰۷ و ۱۰۸ ۔ ابراهیم ۲۳ ۔ النحل ۲۹ ۔ الکهف ۱۰۸ ۔ طه ۷٦ ۔ الفرقان ۷٦ ۔ العنکبوت ٥۸ ۔ لقمان ۹ ۔ الزمر ۷۲ ۔ المؤمن ۷٦ ۔ الاحقاف ۱٤ ۔ الفتح ٥ ۔ الحدید ۱۲ ۔ المجادلة ۲۲ ۔ التغابن ۱۰ اور البینة ٦ جبکه « خَالدین فیه » طه ۱۰۱ میں ، « خَالدَین فیهَا » الحشر ۱۷ میں اور خالدًا فیها » النسآء ۱٤ و ۹۳ اور التوبة ٦۳ میں هے علاوه ازیں « خالدین فیها ابدا » ضمیمه ۱۲۱ میں اور « هم فیها خالدون » ضمیمه ۲۸ میں هے.

۵۹۔ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط (۲۹ بار) اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں

There is no God but He.

البقرة ۱٦۳ و ۲٥٥ ۔ آل عمران ۲، ٦، ۱۸ و ۱۸ ۔ النسآء ۸۷ ۔ الانعام ۱۰۲ و ۱۰٦ ۔ الاعراف ۱٥۸ ۔ التوبة ۳۱ و ۱۲۹ ۔ الرعد ۳۰ ۔ طه ۸ و ۹۸ ۔ المؤمنون ۱۱٦ ۔ النمل ۲٦ ۔ القصص ۷۰ و ۸۸ ۔ فاطر ۳ ۔ الزمر ٦ ۔ المؤمن ۳، ٦۲ و ٦٥ ۔ الدخان ۸ ۔ الحشر ۲۲ و ۲۳ ۔ التغابن ۱۳ اور المزمل ۹ جبکه « ان لآ اِلٰه الّا هو » هود ۱٤ میں اور « لآ اله الّا الذی » یونس ۹۰ میں هے علاوه ازیں « فلا کاشف له الّا هو » الانعام ۱۷ و یونس ۱۰۷ میں، « لا یعلمها الّا هو » الانعام ٥۹ میں، « لا یجلّیها لوقتها الّا هو » الاعراف ۱۸۷ میں، « ما من دآبّة الّا هو » هود ٥٦ میں، « الّا هو رابعهم » ، « الّا هو سادسهم » اور « الّا هو معهم » المجادلة ۷ میں نیز « وما یعلم جنود ربك الّا هو » المدثر ۳۱ میں جبکه « لآ اله الّآ انا » ضمیمه ٤۰٥ میں اور « الله الذی » ضمیمه ٤٥۷ میں ، « الله لآ اله الّا هو » ضمیمه ۸٤ میں، « وهو السمیع العلیم » ضمیمه ٥٥ میں، « وهو العلیّ العظیم » ضمیمه ٥٦۹ میں، « وهو علی کل شیءٍ قدیر » ضمیمه ۱۳٤ میں، « وهو اللطیف الخبیر » ضمیمه ٦٤٤ میں، « وهو بکل شیء علیم » ضمیمه ۷٥٤ میں، « وهو اعلم بالمهتدین » ضمیمه ۷۰۱ میں، « فهو خیر لکم » ضمیمه ۱۰٥۲ میں، « وهو الذی انشأ جنّٰت » ضمیمه ٦۸۸ میں، « هو الذی خلقکم » ضمیمه ٤٦٦ میں، « هو الذی ارسل رسوله » ضمیمه ۷٤۲ میں، « هو الذی یریکم » ضمیمه ۷٤۰ میں، « هو الحق » ضمیمه ۳۰۲ میں، « هو خیر » ضمیمه ۱۰٥٤ میں، « انّه هو السمیع العلیم » ضمیمه ۱۷٥ میں، « انّه هو التوّاب الرّحیم » ضمیمه ٤۲٦ میں، « انّه هو الغفور الرحیم » ضمیمه ۳۷۲ میں، « قل هو ـ » ضمیمه ۸٥٤ میں، « انّ ربّك هو اعلم » ضمیمه ۱٥۳ میں، « ان هو الّا ذکر للعالمین » ضمیمه ٤۲۰ میں، « وما هو بمزحزحه » ضمیمه ۹۲۰ میں اور « فانّ الله هو الغنیّ الحمید » ضمیمه ٥۸۲ میں هے.

٦٠- إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٥ بار) بیشک وہ (شیطان) تمہارا صریح دشمن ہے۔
For he is to you an avowed enemy.

البقرة ١٦٨ و ٢٠٨ - الانعام ١٤٢ - یٰسٓ ٦٠ اورالزخرف ٦٢ جبکہ « انّه عدوّ مضلّ مبین » القصص ١٥ میں ہے علاوہ ازیں « انّ الشیطان لکما عدوّ مبین » الاعراف ٢٢ میں، « انّ الشیطان للا نسان عدو مبین » یوسف ٥ میں، « انّ الشیطان ینزغ بینهم ط انّ الشیطان کان للا نسان عدوّا مبینا » الاسرآء ٥٣ میں اور « انّ الکافرین کانوا لکم عدوّا مبینا » النسآء ١٠١ میں، « انّ الشیطان کان للرحمٰن عصیًا » مریم ٤٤ میں، « انّ الشیطان لکم عدوّ فاتخذوه عدوّ ا » فاطر ٦ میں ، « و کان الشیطان لربّه کفورا » الاسرآء ٢٧ میں اور « و کان الشیطان للا نسان خذولا » الفرقان ٢٩ میں نیز « عدُ وٌّ الله وعدوّکم » الانفال ٦٠ میں، « عدُوٌّ للّه » التوبة ١١٤ میں، « عدوٌ لی وعدوٌ له » طه ٣٩ میں، « انّ هذا عدوٌ لك ولزوجك » طه ١١٧ میں، « انّ من ا زواجکم واولادکم عدوًا لکم » التغابن ١٤ میں، « فانهم عدوٌ لی » الشعرآء ٧٧ میں اور « علُوّی وعدُوّکم » الممتحنة ١ میں ہے جبکہ « فان کان من قوم عدوٍّ لکم » النسآء ٩٢ میں، « ان یهلك عدوّکم » الاعراف ١٢٩ میں، « وهم لکم عدُوّ » الکهف ٥٠ میں اور « انّ الانسان لظلومٌ کفّار » ضمیمه ١٠٣٩ میں ہے۔

٦١- إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٢ بار) بے شک اللہ بڑا بخشنے والا (اور) نہایت مہربان ہے۔
For Allah is Oft-forgiving Most Merciful.

البقرة ١٧٣، ١٨٢ و ١٩٩ - المآئدة ٣٩ - الانفال ٦٩ - التوبة ٥، ٩٩ و ١٠٢ - النور ٦٢ - الحجرات ١٤ - الممتحنة ١٢ اور المزمل ٢٠ جبکه « إنّ الله هو الغفور الرحیم » الشوریٰ ٥ میں، « وهو الغفور الرحیم » یونس ١٠٧ و الاحقاف ٨ میں اور « وهو الغفور الودود » البروج ١٤ میں ہے علاوہ ازیں « واعلموا انّ الله غفور حلیم » البقرة ٢٣٥ میں، « إنّ الله غفور حلیم » آل عمران ١٥٥ میں، « فاعلموا انّ الله غفور رحیم » المآئدة ٣٤ میں، « وانّ الله غفور رحیم » المآئدة ٩٨ میں، « إنّ ربك من بعدها لغفور رحیم » الاعراف ١٥٣ اور النحل ١١٠ و ١١٩ میں، « إنّ ربّی لغفور رحیم » هود ٤١ میں، « إنّ ربّی غفور رحیم » یوسف ٥٣ میں، « إنّ الله لغفور رحیم » النحل ١٨ میں، « فانّ الله من بعد اکراههن غفور رحیم » النور ٣٣ میں، « فانّی غفور رحیم » النمل ١١ میں، « وربٌّ غفور » سبا ١٥ میں اور « نزلًا من غفورٍ رحیم » حم السجدة ٣٢ میں ہے نیز « فانّ الله غفور رحیم » ضمیمه ٦٦ میں، « والله غفور رحیم » ضمیمه ٧١ میں، « وکان الله غفورا رحیما » ضمیمه ١٢٦ میں، « إنّه هو الغفور الرحیم » ضمیمه ٣٧٢ میں اور « والله غفور حلیم » ضمیمه ٧٣٦ میں ہے۔

٦٢- إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٠ بار) اگر تم جانتے ہو۔
If you only knew.

البقرة ١٨٤ و ٢٨٠ - الانعام ٨١ - التوبة ٤١ - النحل ٩٥ - المؤمنون ٨٤ و ٨٨ - العنکبوت ١٦ - الصف ١١ اور الجمعة ٩ جبکه « ان کنتم لا تعلمون » النحل ٤٣ و الانبیآء ٧ میں اور « ولکنکم کنتم لا تعلمون » الروم ٥٦ میں، « لو انکم کنتم تعلمون » المؤمنون ١١٤ میں اور « لو کنتم تعلمون » نوح ٤ میں نیز « ان کنتم تعقلون » آل عمران ١١٨ و الشعرآء ٢٨ میں ہے علاوہ ازیں « ان کنتم صادقین » ضمیمه ٢٠ میں، « ان کنتم مؤمنین » ضمیمه ٤٥ میں، « ان کنتم فاعلین » ضمیمه ٥٩٧ میں، « وان کنتم » ضمیمه ٥٩٨ میں اور « ان کنتم ایّاه تعبدون » ضمیمه ٨٤٥ میں ، « ان کنت من الصادقین » ضمیمه ١٦٦ میں، « وا نتم تعلمون » ضمیمه ٥٥٨ میں اور « ما لا تعلمون » ضمیمه ٥٥٩ میں ہے۔

٦٣- لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ (٥ بار) تا کہ وہ پرہیزگار بنیں۔

That they may learn self-restraint.

البقرة ١٨٧ - الانعام ٥١ و ٦٩ - طه ١١٣ اور الزمر ٢٨ جبکه « ولعلّهم يتّقون » الاعراف ١٦٤ میں هے علاوہ ازیں « للذين يتقون » الانعام ٣٢ اور الاعراف ١٥٦ و ١٦٩ میں، « وهم لا يتقون » الانفال ٥٦ میں، « اَلا يتّقون » الشعرآء ١١ میں، « يبيّن لهم ما يتقون » التوبة ١١٥ میں اور « وكا نوا يتقون » يونس ٦٣ - يوسف ٥٧ - النمل ٥٣ و حم السجدة ١٨ میں هے نیز « لعلكم تتقون » ضمیمه ١٧ میں، « لعلهم يتذكرون » ضمیمه ٧٣ میں، « لعلكم تذكرون » ضمیمه ١٥٧ میں، « لعلهم يرجعون » ضمیمه ١٠٤ میں اور « لعلكم تتفكرون » و تفصیلی معلومات ضمیمه ٧٨٣ میں هے۔

٦٤- وَاتَّقُوا اللّٰهَ (٣٠ بار) اور اللہ سے ڈرتے رہو۔

And fear Allah.

البقرة ١٨٩، ١٩٤، ١٩٦، ٢٠٣، ٢٢٣، ٢٣١، ٢٣٣ و ٢٨٢ - آل عمران ١٣٠ و ٢٠٠ - النسآء ١ - المآئدة ٢، ٤، ٧، ٨، ١١، ٥٧، ٨٨، ٩٦ و ١٠٨ - الانفال ٦٩ - الحجر ٦٩ - الحجرات ١، ١٠ و ١٢ - المحادلة ٩ - الحشر ٧ و ١٨ - الممتحنة ١١ اور الطلاق ١ جبکه « اَنِ اتّقوا اللّٰه » النسآء ١٣١ میں، « قال اتقوا اللّٰه » المآئدة ١١٢ میں، « واذا قيل له اتق اللّٰه » البقرة ٢٠٦ میں، « يايها النبيّ اتق اللّٰه » الاحزاب ١ میں، « وا تق اللّٰه » الاحزاب ٣٧ میں اور « واتقين اللّٰه » الاحزاب ٥٥ میں آیا هے علاوہ ازیں « واتقوا اللّٰه واعلموا » ضمیمه ٦٧ میں، « يايها الذين آمنوا اتقوا اللّٰه » ضمیمه ٩٣ میں، « واتقوا اللّٰه الذى » ضمیمه ١١٦ و ٦٧٤ میں، « فاتقوا اللّٰه » ضمیمه ٩٨ میں، « فاتقوا اللّٰه واطيعون » ضمیمه ٩٩ میں، « وان تصبروا وتتقوا » ضمیمه ٤٣٧ میں، « ومن يتق اللّٰه » ضمیمه ٧٢١ میں اور « يايها الناس اتقوا ربكم » ضمیمه ٨٠٢ میں هے۔

٦٥- لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (١١ بار) تا کہ تم فلاح پاؤ۔

That you may prosper.

البقرة ١٨٩ - آل عمران ١٣٠ و ٢٠٠ - المآئدة ٣٥، ٩٠ و ١٠٠ - الاعراف ٦٩ - الانفال ٤٥ - الحج ٧٧ - النور ٣١ اور الجمعة ١٠ جبکه « لعلكم تتقون » ضمیمه ١٧ میں، « لعلكم تشكرون » ضمیمه ٣٢ میں اور « ولعلكم تشكرون » ضمیمه ١٩٨ میں، « لعلكم تهتدون » ضمیمه ٣٣ میں، « لعلكم تعقلون » ضمیمه ٤٠ میں، « لعلكم ترحمون » ضمیمه ١١١ میں، « لعلكم تتفكرون » و تفصیلی معلومات ضمیمه ٧٨٣ میں هے نیز « لعلهم يتذكرون » ضمیمه ٧٣ میں اور « لعلهم يرجعون » ضمیمه ١٠٤ میں هے۔

٦٦- فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٨ بار) پس بیشک اللہ بہت بخشنے والا (اور) نہایت مہربان ہے۔

Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.

البقرة ١٩٢ و ٢٢٦ - آل عمران ٨٩ - المآئدة ٣ - النحل ١١٥ - النور ٥ - المحادلة ١٢ اور التغابن ١٤ جبکه « فانه غفور رحيم » الانعام ٥٤ میں، « فان ربك غفور رحيم » الانعام ١٤٥ میں، « فانك غفور رحيم » ابرهيم ٣٦ میں اور « فانى غفور رحيم » النمل ١١ میں هے علاوہ ازیں « انّ اللّٰه غفور رحيم » ضمیمه ٦١ میں، « واللّٰه غفور رحيم » ضمیمه ٧١ میں، « وكان اللّٰه غفورا رحيما » ضمیمه ١٢٦ میں، « اِنّه هو الغفور الرحيم » ضمیمه ٣٧٢ میں اور « واللّٰه غفور حليم » ضمیمه ٧٣٦ میں هے۔

٦٧- وَاتَّقُوااللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا (٦ بار) اوراللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو۔

But fear Allah, and know.

البقرة ١٩٤، ١٩٦، ٢٠٣، ٢٢٣، ٢٣١ اور ٢٣٣ جبکہ خیال رہے کہ تمام مواقع صرف سورۃ البقرة «دوسرے پارہ» میں آئے ھیں علاوہ ازیں «واتقوا اللّٰہ» ضمیمہ ٦٤ میں، «فاتقوا اللّٰہ» ضمیمہ ٩٨ میں، «فاتقوا اللّٰہ واطیعون» ضمیمہ ٩٩ میں، «یایھا الذین آمنوا اتقوا اللّٰہ» ضمیمہ ٩٣ میں، «واتقوا اللّٰہ الذی» ضمیمہ ١١٦ و ٦٧٤ میں، «وان تصبروا وتتقوا» ضمیمہ ٤٣٧ میں، «ومن یتق اللّٰہ» ضمیمہ ٧٢١ میں اور «یایھا الناس اتقوا ربکم» ضمیمہ ٨٠٢ میں نیز «واعلموا انّ اللّٰہ» ضمیمہ ٢٦٩ میں اور «قل یاقوم اعملوا» ضمیمہ ٥٧٢ میں ھے۔

٦٨- هَلْ يَنْظُرُوْنَ (٥ بار) کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں؟

Will they wait?

البقرة ٢١٠ - الانعام ١٥٨ - الاعراف ٥٣ - النحل ٣٣ اورالزخرف ٦٦ جبکہ «فھل ینتظرون» یونس ١٠٢ میں اور «فھل ینظرون» فاطر ٤٣ و محمد ١٨ میں ھے علاوہ ازیں «ینظرون الیك» الاعراف ١٩٨ - الاحزاب ١٩ و محمد ٢٠ میں، «وھم ینظرون» الانفال ٦ و الذاریات ٤٤ میں، «ما ینظرون» یٰسٓ ٤٩ میں اور «وما ینظر» صٓ ١٥ میں، «فاذا ھم ینظرون» الصآفات ١٩ میں اور «فاذا ھم قیام ینظرون» الزمر ٦٨ میں، «علی الارآءك ینظرون» المطففین ٢٣ و ٣٥ میں اور «افلا ینظرون» الغاشیة ١٧ میں ھے نیز «ھل ینظرون الّا انّ یأتیھم اللّٰہ» ضمیمہ ٨٦٢ میں، «ھل ادلکم» ضمیمہ ٤٧٤ میں، «فھل من مدّکر» ضمیمہ ٢١٩ میں، «فھل انتم مسلمون» ضمیمہ ١٠٠٦ میں اور «ولا ھم ینظرون» ضمیمہ ٢٩٢ میں ھے۔

٦٩- وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ (٦ بار) اوراللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹیں گے۔

But to Allah do all questions go back (for decision).

البقرة ٢١٠ - آل عمران ١٠٩ - الانفال ٤٤ - الحج ٧٦ - فاطر ٤ اور الحدید ٥ جبکہ «وللّٰہ عاقبة الامور» الحج ٤١ میں، «والی اللّٰہ عاقبة الامور» لقمان ٢٢ میں اور «الی اللّٰہ تصیر الامور» الشوریٰ ٥٣ میں ھے علاوہ ازیں «فان ذلك من عزم الامور» آل عمران ١٨٦ میں، «انّ ذلك من عزم الامور» لقمان ١٧ میں اور «انّ ذلك لمن عزم الامور» الشوریٰ ٤٣ میں نیز «والی اللّٰہ المصیر» ضمیمہ ٧٦٩ میں اور «والیہ ترجعون» ضمیمہ ٨٢ میں ھے۔

٧٠- فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ (١٣ بار) دُنیا اور آخرت دونوں میں۔

In this life and in the Hereafter.

البقرة ٢١٧ و ٢٢٠ - آل عمران ٢٢، ٤٥ و ٥٦ - التوبة ٦٩ و ٧٤ - یوسف ١٠١ - الحج ١٥ - النور ١٤، ١٩ و ٢٣ اور الاحزاب ٥٧ جبکہ «فی الدّنیا ولا فی الآخرة» المؤمن ٤٣ میں ھے علاوہ ازیں «فی الحیٰوة الدنیا» ضمیمہ ٤٥٩ میں اور «فی الآخرة» ضمیمہ ٩١٥ میں ھے۔

۷۱- وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۱۳ بار) اور اللہ بخشنے والا (اور) رحم کرنے والا ہے۔

And Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.

البقرة ۲۱۸ - آل عمران ۳۱ و ۱۲۹ - النسآء ۲۵ - المآئدة ۷۴ - الانفال ۷۰ - التوبة ۲۷ و ۹۱ - النور ۲۲ - الحجرات ٥ - الحديد ۲۸ - الممتحنة ۷ اور التحريم ۱ جبکہ « واللّٰہ غفور حليم » البقرة ۲۲۵ و المآئدة ۱۰۱ میں ، « إِلّا من رّحم » هود ٤۳ میں ، « إِلّا من رّحم ربّك » هود ۱۱۹ میں، « إِلّا من رّحمَ اللّٰه » الدخان ٤۲ میں اور « إِلّا ما رحمَ ربّی » یوسف ۵۳ میں هے علاوہ ازیں « إِنّ اللّٰه غفور رحيم » ضمیمہ ٦۱ میں، « فانّ اللّٰه غفور رحيم » ضمیمہ ٦٦ میں، « و كان اللّٰه غفورا رحيما » ضمیمہ ۱۲٦ میں، « إِ نّه هو الغفور الرحيم » ضمیمہ ۳۷۲ میں اور « واللّٰه غفور حليم » ضمیمہ ۷۳٦ میں هے.

۷۲- يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ (۹ بار) اس طرح اللہ تمہارے لئے (اپنے احکام) کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔

Thus does Allah Make clear to you.

البقرة ۲۱۹، ۲٤۲ و ۲٦٦ - آل عمران ۱۰۳ - النسآء ۱۷٦ - المآئدة ۸۹ اور النور ۵۸، ۵۹ و ٦۱ جبکہ صرف « يبيّن اللّٰه » البقرة ۱۸۷ میں اور « و يبيّن اللّٰه لكم » النور ۱۸ میں هے علاوہ ازیں « يُبيّنُ لكم » المآئدة ۱۵ و ۱۹ میں اور « حتى يبينَ لهم » التوبة ۱۱۵ میں، « ليبيّنَ لكم » النسآء ۲٦ میں اور « ليبيّنَ لهم » ابراهيم ٤ و النحل ۳۹ میں نیز « و ليبيّنَنّ لكم » النحل ۹۲ میں اور « كذلك يبين اللّٰه لكم آياته » ضمیمہ ۲۷٦ میں هے.

۷۳- لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (۷ بار) تاکہ وہ لوگ نصیحت قبول کریں۔

That they may receive admonition.

البقرة ۲۲۱ - ابراهيم ۲۵ - القصص ٤۳، ٤٦ و ۵۱ - الزمر ۲۷ اور الدخان ۵۸ جبکہ « لعلهم يذكرون » الاعراف ۲٦ و ۱۳۰ اور الانفال ۵۷ میں هے علاوہ ازیں « لعلهم يتقون » ضمیمہ ٦۳ میں، « لعلهم يرجعون » ضمیمہ ۱۰٤ میں ، « لعلكم تذكرون » ضمیمہ ۱۵۷ میں، « لعلكم تشكرون » ضمیمہ ۳۲ میں، « لعلكم تهتدون » ضمیمہ ۳۳ میں اور « افلا تذكرون » ضمیمہ ۱۸۰ میں نیز « لعلّكم تتفكّرون » اور تفصیلی معلومات ضمیمہ ۷۸۳ میں هے.

۷۴- وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (۵ بار) اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔

And give (these) good tidings to those who believe.

البقرة ۲۲۳ - التوبة ۱۱۲ - يونس ۸۷ - الاحزاب ٤۷ اور الصف ۱۳ جبکہ « وبشّر الذين آمنوا » البقرة ۲۵ و يونس ۲ میں، « وبُشرىٰ للمؤمنين » البقرة ۹۷ و النمل ۲ میں، « ويُبشر المؤمنين » الاسرآء ۹ و الكهف ۲ میں، « بَشّر المنافقين » النسآء ۱۳۸ میں اور « وبشّر الذين كفروا » التوبة ۳ میں هے علاوہ ازیں « وبشّر الصابرين » البقرة ۱۵۵ میں، « وبشّر المخبتين » الحج ۳٤ میں، « وبشّر المحسنين » الحج ۳۷ میں اور « وبُشرىٰ للمحسنين » الاحقاف ۱۲ میں، « وبشرىٰ للمسلمين » النحل ۸۹ و ۱۰۲ میں، « واذا بُشّر احدهم » النحل ۵۸ و الزخرف ۱۷ میں، « لهم البشرىٰ » يونس ٦٤ و الزمر ۱۷ میں اور « فاستبشروا » التوبة ۱۱۱ میں هے نیز « فبشرهم بعذاب اليم » ضمیمہ ۷٤۳ میں، « ا نّا نبشرك » ضمیمہ ۸۹۳ میں اور « بُشرًا بين يدى رحمته » ضمیمہ ۱۰۰۲ میں هے.

۷۵۔ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۸ بار) اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔

For Allah is One Who hears and knows all things.

البقرة ۲۲٤ و ۲٥٦ ۔ آل عمران ۳٤ و ۱۲۱ ۔ التوبة ۹۸ و ۱۰۳ اور النور ۲۱ و ٦۰ جبکہ « واللّٰه هو السميع العليم » المائدة ۷٦ میں، « اِنّ اللّٰه سميعٌ عليم » البقرة ۱۸۱۔ الانفال ۱۷ و الحجرات ۱ میں، « فان اللّٰه سميع عليم » البقرة ۲۲۷ میں، « اَنّ اللّٰه سميع عليم » البقرة ۲٤٤ میں اور « واَنّ اللّٰه سميع عليم » الانفال ٥۳ میں، « واِنّ اللّٰه لسميع عليم » الانفال ٤۲ میں اور « وكان اللّٰه سميعا عليما » النسآء ۱٤۸ میں نیز « والسّميع » هود ۲٤ میں ہے علاوہ ازیں « واللّٰه واسع عليم » ضمیمه ۸۳ میں، « وهو السميع العليم » ضمیمه ٥٥ میں اور « انه هو السميع العليم » ضمیمه ۱۷٥ میں ہے۔

۷٦۔ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٥ بار) اور اللہ غالب (اور) حکمت والا ہے۔

And Allah is Exalted in Power, Wise.

البقرة ۲۲۸ و ۲٤۰ ۔ المائدة ۳۸ ۔ الانفال ٦۷ اور التوبة ٤۰ جبکہ « اَنّ اللّٰه عزيز حكيم » البقرة ۲۰۹ و ۲٦۰ میں، « اِنّ اللّٰه عزيز حكيم » البقرة ۲۲۰ ۔ الانفال ۱۰ ۔ التوبة ۷۱ اور لقمان ۲۷ میں اور « انه عزيز حكيم » الانفال ٦۳ میں آیا ہے علاوہ ازیں « واللّٰه عزيز ذو انتقام » آل عمران ٤ و المائدة ۹٥ میں اور « اِنّ اللّٰه عزيز ذوانتقام » ابراهيم ٤۷ میں، « وما النّصر الّا من عند اللّٰه العزيز الحكيم » آل عمران ۱۲٦ میں، « فانّ اللّٰه عزيز حكيم » الانفال ٤۹ میں، « عزيز عليه » التوبة ۱۲۸ میں اور « اِنّه هو العزيز الحكيم » العنكبوت ۲٦ میں، « تنزيل الكتاب من اللّٰه العزيز الحكيم » الزمر ۱ ۔ الجاثية ۲ اور الاحقاف ۲ میں، « من قبلك اللّٰه العزيز الحكيم » الشورىٰ ۳ میں اور « والشهادة العزيز الحكيم » التغابن ۱۸ میں ہے نیز « واللّٰه عليم حكيم » ضمیمه ۱۱۹ میں، « وهو العزيز الحكيم » ضمیمه ۱۹۳ میں اور « انك انت العزيز الحكيم » ضمیمه ۷۳۱ میں ہے۔

۷۷۔ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (٦ بار) پس ایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔

Such persons wrong doers (Themselves as well as others).

البقرة ۲۲۹ ۔ آل عمران ۹٤ ۔ المائدة ٤٥ ۔ التوبة ۲۳ ۔ الحجرات ۱۱ اور الممتحنة ۹ جبکہ « اُولٰٓئك هم الظّٰلمون » النور ٥۰ میں ہے علاوہ ازیں « واولٰٓئك هم الضّآلون » آل عمران ۹۰ میں، « اولٰٓئك هم الكافرون » النسآء ۱٥۱ میں اور « فاولٰٓئك هم الكافرون » المائدة ٤٤ میں، « اولٰٓئك هم الغافلون » الاعراف ۱۷۹ میں اور « واولٰٓئك هم الغافلون » النحل ۱۰۸ میں، « فاولٰٓئك هم العادون » المؤمنون ۷ و المعارج ۳۱ میں اور « ومآ اولٰٓئك بالمؤمنين » المائدة ٤۳ و النور ٤۷ میں ہے نیز « وانتم ظالمون » البقرة ٥۱ و ۹۲ میں اور « انتم الظّٰلمون » الانبيآء ٦٤ میں، « والكافرون هم الظّٰلمون » البقرة ۲٥٤ میں اور « وهم ظالمون » النحل ۱۱۳ و العنكبوت ۱٤ میں، « فانهم ظالمون » آل عمران ۱۲۸ میں، « فانّا ظالمون » المؤمنون ۱۰۷ میں اور « ولكن كانوا هم الظّٰلمين » الزخرف ۷٦ میں آیا ہے جبکہ « فاولٰٓئك هم الفاسقون » ضمیمه ٤٦۲ میں، « واولٰٓئك هم المفلحون » ضمیمه ٦ میں، « اولٰٓئك اصحاب النار » ضمیمه ۲۷ میں، « اولٰٓئك اصحاب الجنة » ضمیمه ٤۳ میں، « اولٰٓئك اصحابُ الجحيم » ضمیمه ٤۳۰ میں، « اولٰٓئك هم الخاسرون » ضمیمه ٤٦۱ میں،

«وھم یخلقون» ضمیمه ۷۸۸ میں، «واللّٰه لا یھدی القوم الظّٰلمین» ضمیمه ۹۰ میں، «الّذین ظلموا» ضمیمه ۵۳۶ میں اور «اذًا لّمن الظّٰلمین» ضمیمه ۷۶۰ میں ھے.

۷۸۔ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ (۳ بار) اور اللہ نے تم کو جو نعمتیں بخشیں ہیں ان کو یاد کرو۔

And but solemnly rehearse Allah's favours on you.

البقرة ۲۳۱ ۔ آل عمران ۱۰۳ اور المآئدة ۷ جبکه «اذکروا نعمت اللّٰه علیکم» المآئدة ۱۱ و ۲۰ ۔ ابراهیم ۶ ۔ الاحزاب ۹ اور فاطر ۳ میں، «اذکروا نعمتیَ التی انعمت علیکم» البقرة ۴۰ و ۴۷ و ۱۲۲ میں، «اذکر نعمتی علیك وعلیٰ والدتك» المآئدة ۱۱۰ میں اور «ثم تذکروا نعمة ربکم» الزخرف ۱۳ میں ھے علاوہ ازیں «ولا تمّ نعمتی علیکم» البقرة ۱۵۰ میں، «وا تممت علیکم نعمتی» المآئدة ۳ میں، «ولیتمّ نعمته علیکم» المآئدة ۶ میں اور «کذلك یتمّ نعمته علیکم» النحل ۸۱ میں، «ویتمّ نعمته علیك» یوسف ۶ و الفتح ۲ میں اور «واشکروا نعمت اللّٰه» النحل ۱۱۴ میں ھے نیز «واذکر فی الکتاب» ضمیمه ۲۰۱ میں، «واذکروا» ضمیمه ۴۷۷ میں، «فذکّر» ضمیمه ۴۷۸ میں، «وذکریٰ للمؤمنین» ضمیمه ۴۸۰ میں اور «عن ذکرِ اللّٰه» ضمیمه ۴۷۹ میں، «بنعمت ربك» ضمیمه ۲۷۰ میں، «انعمت علیکم» ضمیمه ۶۹۰ میں اور «وان تعدّوا نعمت اللّٰه» ضمیمه ۸۶۴ میں ھے.

۷۹۔ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (۷ بار) اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

And Allah is well acquainted with what you do.

البقرة ۲۳۴ و ۲۷۱ ۔ آل عمران ۱۸۰ ۔ الحدید ۱۰ ۔ المجادلة ۳ و ۱۱ اور التغابن ۸ جبکه «واَنّ اللّٰه بما تعملون خبیر» لقمان ۲۹ میں، «واللّٰه خبیر بما تعملون» آل عمران ۱۵۳ ۔ التوبة ۱۶ ۔ المجادلة ۱۳ اور المنافقون ۱۱ میں اور «انه بما یعملون خبیر» هود ۱۱۱ میں ھے خیال رھے که «اِنّ اللّٰه بما تعملون خبیر» کهیں نهیں آیا ھے علاوہ ازیں «انّ اللّٰه خبیر بما تعلمون» المآئدة ۸ ۔ النور ۵۳ اور الحشر ۱۸ میں، «وھو اللّطیف الخبیر» الانعام ۱۰۳ و الملك ۱۴ میں، «انّ اللّٰه خبیر بما یصنعون» النور ۳۰ میں، «انّه خبیر بما تفعلون» النمل ۸۸ میں اور «اِنّ اللّٰه علیم خبیر» لقمان ۳۴ و الحجرات ۱۳ میں ھے نیز «واللّٰه بما تعملون بصیر» ضمیمه ۹۱ میں، «انّ اللّٰه کان بما تعملون خبیرا» ضمیمه ۵۷۰ میں اور «وھو اللّطیف الخبیر» ضمیمه ۶۴۴ میں ھے.

۸۰۔ اَلَمْ تَرَ (۳۱ بار) بھلا تم نے نہیں دیکھا؟

Did you not Turn by vision?

البقرة ۲۴۳، ۲۴۶ و ۲۵۸ ۔ آل عمران ۲۳ ۔ النسآء ۴۴، ۴۹، ۵۱، ۶۰ و ۷۷ ۔ ابرهیم ۱۹، ۲۴ و ۲۸ ۔ مریم ۸۳ ۔ الحج ۱۸، ۶۳ و ۶۵ ۔ النور ۴۱ و ۴۳ ۔ الفرقان ۴۵ ۔ الشعرآء ۲۲۵ ۔ لقمان ۲۹ و ۳۱ ۔ فاطر ۲۷ ۔ الزمر ۲۱ ۔ المؤمن ۶۹ ۔ المجادلة ۷، ۸ و ۱۴ ۔ الحشر ۱۱ ۔ الفجر ۶ اور الفیل ۱ جبکه «الم تروا» لقمان ۲۰ و نوح ۱۵ میں ھے علاوہ ازیں «الم تر الی الذین» ضمیمه ۸۱ میں اور «الم تر انّ اللّٰه» ضمیمه ۱۹۵ میں، «الم یروا» ضمیمه ۱۳۶ میں، «ولوتریٰ» ضمیمه ۱۴۲ میں اور «فتر الودق» ضمیمه ۹۷۸ میں ھے.

۸۱۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ (۱۲ بار) بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟

Did you not Turn by vision to those?

البقرۃ ۲٤۳ ۔ آل عمران ۲۳ ۔ النساء ٤٤، ٤۹، ٥۱، ٦۰ و ۷۷ ۔ ابراهیم ۲۸ ۔ المؤمن ٦۹ ۔ المجادلة ۸ و ۱٤ اور الحشر ۱۱ جبکه « الم تر الى الذى » البقرۃ ۲٥۸ میں اور « الم تر الى الملا » البقرۃ ۲٤٦ میں هے علاوہ ازیں « الم تر » ضمیمه ۸۰ میں، « الم تر انّ الله » ضمیمه ۱۹٥ میں، « الم یروا » ضمیمه ۱۳٦ میں ، « ولو ترٰی » ضمیمه ۱٤۲ میں اور « فتر الودق » ضمیمه ۹۷۸ میں هے.

۸۲۔ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (۹ بار) اور اُسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

And to Him shall be your return.

البقرۃ ۲٤٥ ۔ یونس ٥٦ ۔ هود ۳٤ ۔ القصص ۷۰ و ۸۸ ۔ یٰسٓ ۲۲ و ۸۳ ۔ حم السجدۃ ۲۱ اور الزخرف ۸٥ جبکه « وَالیه یرجعون » آل عمران ۸۳ میں اور « اِلیه ترجعون » العنکبوت ۱۷ میں هے علاوہ ازیں « ثم الیه ترجعون » البقرۃ ۲۸ ۔ الروم ۱۱ و الزمر ٤٤ میں، « ثم الیه یرجعون » الانعام ۳٦ میں، « ثم الینا ترجعون » العنکبوت ٥۷ میں اور « ثم الى ربكم ترجعون » السجدۃ ۱۱ و الجاثیة ۱٥ میں، « فالینا یرجعون » المؤمن ۷۷ میں، « والینا یرجعون » مریم ٤۰ میں، « والینا ترجعون » الانبیآء ۳٥ میں، « وأنكم الینا لا ترجعون » المؤمنون ۱۱٥ میں، « أنّهم الینا لا یُرجعون » القصص ۳۹ میں، « أنّهم لا يَرجعون » الانبیآء ۹٥ میں، « أنّهم الیهم لا يَرجعون » یٰسٓ ۳۱ میں اور « ترجعون فیه الى الله » البقرۃ ۲۸۱ میں نیز « والى الله ترجع الامور » ضمیمه ٦۹ میں هے.

۸۳۔ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٦ بار) اور اللہ کشائش والا (اور) جاننے والا ہے۔

Allah cares for all, and He knows all things.

البقرۃ ۲٤۷، ۲٦۱ و ۲٦۸ ۔ آل عمران ۷۳ ۔ المآئدۃ ٥٤ اور النور ۳۲ جبکه « اِن الله واسع علیم » البقرۃ ۱۱٥ میں اور « انّ ربك واسع المغفرۃ » النجم ۳۲ میں هے علاوہ ازیں « وسع كرسیّه السمٰوٰت والارض » البقرۃ ۲٥٥ میں، « وسع ربّی كل شیء علما » الانعام ۸۰ میں، « وسع ربنا كل شیء علما » الاعراف ۸۹ میں، « وسع كل شیء علما » طه ۹۸ میں، « ربنا وسعت كل شیء رّحمة وعلما » المؤمن ۷ میں اور « ورحمتی وسعت كل شیء » الاعراف ۱٥٦ میں، « الم تكن ارض الله واسعة » النسآء ۹۷ میں، « انّ ارضی واسعة » العنکبوت ٥٦ میں اور « وارض الله واسعة » الزمر ۱۰ میں، « وكان الله واسعا حكیما » النسآء ۱۳۰ میں اور « فقل رّبكم ذورحمة وّاسعة » الانعام ۱٤۷ میں نیز « والله سمیع علیم » ضمیمه ۷٥ میں اور « والله بكل شیء علیم » ضمیمه ۹٤ میں هے.

۸٤۔ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (٦ بار) اللہ (وہ معبود برحق ہے کہ) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

Allah. There is no God but He.

البقرۃ ۲٥٥ ۔ آل عمران ۲ ۔ النسآء ۸۷ ۔ طه ۸ ۔ النمل ۲٦ اور التغابن ۱۳ جبکه « وهُو الله لآ اله الّا هُوَ » القصص ۷۰ میں اور « هو الله الذی لآ اله الّا هو » الحشر ۲۲ و ۲۳ میں هے علاوہ ازیں « لآ اله اِلّا هو »

ضمیمہ ۵۹ میں، «لآ الٰه الّآ انا» ضمیمہ ۴۰۵ میں اور «اللّٰه الذی» ضمیمہ ۴۵۷ میں ، «وھو السّمیع العلیم» ضمیمہ ۵۵ میں، «وھو العلیّ العظیم» ضمیمہ ۵۶۹ میں، «وھو علی کل شیءٍ قدیر» ضمیمہ ۱۳۴ میں، «وھو اللّطیف الخبیر» ضمیمہ ۶۴۴ میں، «وھو بکل شیء علیم» ضمیمہ ۷۵۴ میں، «وھو اعلم بالمھتدین» ضمیمہ ۷۰۱ میں، «فھو خیر لکم» ضمیمہ ۱۰۵۲ میں، «وھو الذیٓ انشاَ جنّٰت» ضمیمہ ۶۸۸ میں، «ھو الذی خلقکم» ضمیمہ ۴۶۶ میں، «ھو الذیٓ ارسل رسوله» ضمیمہ ۷۴۲ میں، «ھو الذی یریکم» ضمیمہ ۷۴۰ میں، «ھو الحق» ضمیمہ ۳۰۲ میں، «ھو خیر» ضمیمہ ۱۰۵۴ میں، «انّه ھو السّمیع العلیم» ضمیمہ ۱۷۵ میں، «انّه ھو التّواب الرّحیم» ضمیمہ ۴۲۶ میں، «انّه ھو الغفور الرّحیم» ضمیمہ ۳۷۲ میں، «قل ھو ط» ضمیمہ ۸۵۴ میں، «انّ ربّك ھو اعلم» ضمیمہ ۱۵۳ میں، «ان ھو الا ذکر لّلعالمین» ضمیمہ ۴۲۰ میں، «وما ھو بمزحزحه» ضمیمہ ۹۲۰ میں اور «فانّ اللّٰه ھو الغنیّ الحمید» ضمیمہ ۵۸۲ میں ھے.

۸۵- لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ (۹ بار)

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کی مِلک ہے۔

His are all things in the heavens and on earth·

البقرة ۲۵۵ ـ النسآء ۱۷۱ ـ یونس ۶۸ ـ ابراھیم ۲ ـ طه ۶ ـ الحج ۶۴ ـ سبا ۱ اور الشوریٰ ۴ و ۵۳ جبکه «له ما فی السمٰوٰت والارض» البقرة ۱۱۶ و الحشر ۲۴ میں اور «وله ما فی السمٰوٰت والارض» النحل ۵۲ میں ھے علاوہ ازیں «ما فی السمٰوٰت وما فی الارض» ضمیمہ ۸۶ میں، «ما فی السمٰوٰت والارض» ضمیمہ ۵۱ میں، «للّٰه ما فی السمٰوٰت وما فی الارض» ضمیمہ ۹۵ میں، «وللّٰه ما فی السمٰوٰت وما فی الارض» ضمیمہ ۱۰۸ میں ، «وللّٰه ملك السمٰوٰت والارض» ضمیمہ ۱۱۵ میں، «ما فی الارض جمیعا» ضمیمہ ۴۳۸ میں ، «وللّٰه غیب السمٰوٰت والارض» ضمیمہ ۵۶۱ میں، «ذلکم اللّٰه ربکم له الملك» ضمیمہ ۶۶۵ میں اور «ربُّ السمٰوٰت والارض» ضمیمہ ۲۵۷ میں ھے.

۸۶- مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ (۲۸ بار) *جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔*

All things in the heavens and on earth.

البقرة ۲۵۵ و ۲۸۴ ـ آل عمران ۲۹، ۱۰۹ و ۱۲۹ ـ النسآء ۱۲۶، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۷۱ ـ المآئدة ۹۷ ـ یونس ۶۸ ـ ابراھیم ۲ ـ النحل ۴۹ ـ طه ۶ ـ الحج ۶۴ ـ لقمان ۲۰ ـ سبا ۱ ـ الشوریٰ ۴ و ۵۳ ـ الجاثیة ۱۳ ـ الحجرات ۱۶ ـ النجم ۳۱ ـ المجادلة ۷ ـ الحشر ۱ ـ الصف ۱ ـ الجمعة ۱ اور التغابن ۱ جبکه «من فی السمٰوٰت ومن فی الارض» یونس ۶۶ ـ الحج ۱۸ ـ النمل ۸۷ و الزمر ۶۸ میں، «فی السمٰوٰت ولا فی الارض» یونس ۱۸ ـ سبا ۳ و ۲۲ و فاطر ۴۴ میں اور «فی الارض ولا فی السمآء» آل عمران ۵ ـ یونس ۶۱ ـ ابراھیم ۳۸ و العنکبوت ۲۲ میں ھے علاوہ ازیں «له ما فی السمٰوٰت وما فی الارض» ضمیمہ ۸۵ میں، «ما فی السمٰوٰت والارض» ضمیمہ ۵۱ میں، «للّٰه ما فی السمٰوٰت وما فی الارض» ضمیمہ ۹۵ میں، «وللّٰه ما فی السمٰوٰت وما فی الارض» ضمیمہ ۱۰۸ میں اور «ما فی الارض جمیعا» ضمیمہ ۴۳۸ میں ھے.

۸۷۔ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ (٦ بار)

جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے۔

What (appears to his creatures as) Befor or after or behind them.

البقرة ٢٥٥ ۔ طه ١١٠ ۔ الانبیآء ٢٨ ۔ الحج ٧٦ ۔ سبا ٩ اور حم السجدة ٢٥ جبکه « نکالا لّما بین یدیها وما خلفها » البقرة ٦٦ میں، « ما بین ایدینا وما خلفنا » مریم ٦٤ میں اور « ما بین ایدیکم وما خلفکم » یٰسٓ ٤٥ میں هے علاوه ازیں « من بین ایدیهم ومن خلفهم » الاعراف ١٧ و حم السجدة ١٤ میں اور « من بین ایدیهم سدًا وّمن خلفهم سدًا » یٰسٓ ٩ میں، « من بین یدیه ومن خلفه » الرعد ١١ ۔ الاحقاف ٢١ و الحن ٢٧ میں، « من بین یدیه ولا من خلفه » حم السجدة ٤٢ میں، « بین ایدیهم وباَ یمانهم » الحدید ١٢ و التحریم ٨ میں، « مِن خلفهم » آل عمران ١٧٠ و النسآء ٩ میں اور « مَن خلفَهم » الانفال ٥٧ میں نیز « بما قدمت ایدیهم » ضمیمه ٢٣١ میں، « مصدقا لما بین یدیه » ضمیمه ٢٣٢ میں ، « بین النّاس » ضمیمه ٨١٨ میں اور « فهم یوزعون » ضمیمه ١٠٤٨ میں هے.

۸۸۔ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ (٧ بار) تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔

From the depths of darkness into light.

البقرة ٢٥٧ ۔ المآئدة ١٦ ۔ ابراهیم ١ و ٥ ۔ الاحزاب ٤٣ ۔ الحدید ٩ اور الطلاق ١١ جبکه « من النّور الی الظّلمات » البقرة ٢٥٧ کے دوسرے موقع میں ، « من ظلمٰت البرّ والبحر » الانعام ٦٣ میں، « فی ظلمٰت البرّ والبحر » الانعام ٩٧ و النمل ٦٣ میں، « وجعل الظّلمٰت والنّور » الانعام ١ میں، « ام هل تستوی الظّلمٰت والنّور » الرعد ١٦ میں اور « ولا الظّلمٰت ولا النّور » فاطر ٢٠ میں هے علاوه ازیں « فی ظلمٰتٍ لّا یبصرون » البقرة ١٧ میں، « فی ظلمٰت الارض » الانعام ٥٩ میں، « فی ظلمٰتٍ ثلاث » الزمر ٦ میں، « فیه ظلمٰت » البقرة ١٩ میں اور « فی الظّلمٰت » الانعام ٣٩ و ١٢٢ اور الانبیآء ٨٧ میں هے.

۸۹۔ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ (٩ بار) زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔

Gives life and death.

البقرة ٢٥٨ ۔ آل عمران ١٥٦ ۔ الاعراف ١٥٨ ۔ التوبة ١١٦ ۔ یونس ٥٦ ۔ المؤمنون ٨٠ ۔ المؤمن ٦٨ ۔ الدخان ٨ اور الحدید ٢ جبکه « اُحی واُمیتُ » البقرة ٢٥٨ کے دوسرے موقع میں ، « نحی ونمیت » الحجر ٢٣ و قٓ ٤٣ میں ، « واَنّهٗ هو امات واحیا » النجم ٤٤ میں، « الذی خلق الموت والحیٰوة » الملك ٢ میں اور « یحیِ الموتی » ضمیمه ٦٦٩ میں هے.

۹۰۔ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (٦ بار) اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ۔

Nor does Allah give guidance to a people unjust.

البقرة ٢٥٨ ۔ آل عمران ٨٦ ۔ التوبة ١٩ و ١٠٩ ۔ الصف ٧ اور الجمعة ٥ جبکه « انّ اللّٰه لایهدی القومَ الظّٰلمین » المآئدة ٥١ ۔ الانعام ١٤٤ ۔ القصص ٥٠ اور الاحقاف ١٠ میں، « ولکنّ الظّٰلمین » الانعام ٣٣ میں، « فلا تقعد بعد الذّکرٰی مع القوم الظّٰلمین » الانعام ٦٨ میں، « ربنا لا تجعلنا مع القوم الظّٰلمین » الاعراف ٤٧ میں،

« ولا تجعلنی مع القوم الظّٰلمین » الاعراف ۱۵۰ میں، « ربّ فلا تجعلنی فی القوم الظّٰلمین » المؤمنون ۹۴ میں اور « ربنا لا تجعلنا فتنةً لّلقوم الظّٰلمین » یونس ۸۵ میں، « وقیل بعداً لّلقوم الظّٰلمین » ھود ٤٤ میں اور « فبعداً لّلقوم الظّٰلمین » المؤمنون ٤١ میں، « نجّانا من القوم الظّٰلمین » المؤمنون ۲۸ میں، « ربّ نجّنی من القوم الظّٰلمین » القصص ۲۱ میں، « ونجّنی من القوم الظّٰلمین » التحریم ۱۱ میں اور « نجوت من القوم الظّٰلمین » القصص ۲۵ میں، « اَن ائت القوم الظّٰلمین » الشعرآء ۱۰ میں اور « اِلّا القوم الظّٰلمون » الانعام ٤۷ میں ھے علاوہ ازیں « واللّٰہ لا یھدی القوم الکافرین » ضمیمہ ۵۸۷ میں، « واللّٰہ لا یھدی القوم الفاسقین » ضمیمہ ۵۸۹ میں، « فاولٓئك ھم الظّٰلمون » ضمیمہ ۷۷ میں، « اَلذین ظلموا » ضمیمہ ۵۳٦ میں، « اذًا لّمن الظّٰلمین » ضمیمہ ۷٦۰ میں، « کذلك نجزی القوم المجرمین » ضمیمہ ٤۳۳ میں، « وکانوا قومًا مّجرمین » ضمیمہ ٤۳٤ میں اور « اِنّھم کانوا قومًا فاسقین » ضمیمہ ۵۸۸ میں ھے۔

۹۱۔ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ (٦ بار)

اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔

And Allah sees well whatever you do.

البقرة ۲٦۵ ۔ آل عمران ۱۵٦ ۔ الانفال ۷۲ ۔ الحدید ٤ ۔ الممتحنة ۳ اور التغابن ۲ جبکہ « اِنّ اللّٰہ بما تعملون بصیر » البقرة ۱۱۰ و ۲۳۷ میں، « اَنّ اللّٰہ بما تعملون بصیر » البقرة ۲۳۳ میں، « انّہ بما تعملون بصیر » ھود ۱۱۲ و حم السجدة ٤۰ میں، « اِنّی بما تعملون بصیر » سبا ۱۱ میں، « اِنّی بما تعملون علیم » المؤمنون ۵۱ میں اور « وکان اللّٰہ بما تعملون بصیرا » الاحزاب ۹ و الفتح ۲٤ میں ھے علاوہ ازیں « واللّٰہ بما تعملون علیم » البقرة ۲۸۳ و النور ۲۸ میں، « واللّٰہ بصیر بما تعملون » الحجرات ۱۸ میں، « واللّٰہ بصیر بما یعملون » البقرة ۹٦ ۔ آل عمران ۱٦۳ و المآئدة ۷۱ میں، « فان اللّٰہ بما یعملون بصیر » الانفال ۳۹ میں، « واللّٰہ بصیر بالعباد » آل عمران ۱۵ و ۲۰ میں اور « اِنّ اللّٰہ بصیر بالعباد » المؤمن ٤٤ میں نیز « واللّٰہ بما تعملون خبیر » ضمیمہ ۷۹ میں اور « اِنّہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا » ضمیمہ ۵٤۷ میں ھے۔

۹۲۔ اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ (۱۰ بار)

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے۔

Those who believe, and do deeds of righteousness.

البقرة ۲۷۷ ۔ یونس ۹ ۔ ھود ۲۳ ۔ الکھف ۳۰ و ۱۰۷ ۔ مریم ۹٦ ۔ لقمان ۸ ۔ حم السجدة ۸ ۔ البروج ۱۱ اور البینة ۷ جبکہ « انّ الذین آمنوا والذین ھادوا » البقرة ٦۲ ۔ المآئدة ٦۹ و الحج ۱۷ میں، « انّ الذین آمنوا والذین ھاجروا » البقرة ۲۱۸ میں اور « انّ الذین آمنوا وھاجروا » الانفال ۷۲ میں، « انّ الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا » النسآء ۱۳۷ میں، « واَنّ الذین آمنوا اتبعوا الحق من رّبھم » محمد ۳ میں اور « ثم کان من الذین آمنوا » البلد ۱۷ میں ھے علاوہ ازیں « والذین آمنوا وعملوا الصّلحت » ضمیمہ ٤۲ میں، « اِلّا الذین آمنوا وعملوا الصالحات » ضمیمہ ۲۱۰ میں، « اَلّذین آمنوا وعملوا الصالحات » ضمیمہ ۲۸٦ میں، « والذین آمنوا » ضمیمہ ۸۰۸ میں اور « یایھا الذین آمنوا » ضمیمہ ٤۷ میں ھے۔

۹۳- یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ (۷ بار) اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔

O you who believe! Fear Allah.

البقرة ۲۷۸۔ آل عمران ۱۰۲۔ المآئدة ۳۵۔ التوبة ۱۱۹۔ الاحزاب ۷۰۔ الحديد ۲۸ اور الحشر ۱۸ جبکہ « يا يها الذين آمنوا ان تتقوا الله » الانفال ۲۹ میں، « يا يها النبى اتق الله » الاحزاب ۱ میں، « قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم » الزمر ۱۰ میں اور « يا عباد فاتقون » الزمر ۱٦ میں هے علاوہ ازیں « يٰٓاَيُّهَا الَّذِين آمنوا » ضمیمہ ٤۷ میں، « واتقوا الله » ضمیمہ ٦٤ میں، « واتقوا الله واعلموا » ضمیمہ ٦۷ میں، « واتقوا الله الذى » ضمیمہ ۱۱٦ و ٦۷٤ میں، « فاتقوا الله » ضمیمہ ۹۸ میں، « فاتقوا الله واطيعون » ضمیمہ ۹۹ میں، « وان تصبروا وتتقوا » ضمیمہ ٤۳۷ میں، « ومن يتق الله » ضمیمہ ۷۲۱ میں اور « يٰٓاَيُّهَا النّاس اتقوا ربكم » ضمیمہ ۸۰۲ میں هے۔

۹٤- وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ (٦ بار) اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

And Allah is well acquainted with all things.

البقرة ۲۸۲۔ النسآء ۱۷٦۔ النور ۳۵ و ٦٤۔ الحجرات ۱٦ اور التغابن ۱۱ جبکہ « وسع ربّى كل شىء علما » الانعام ۸۰ میں، « وسع ربنا كلّ شىء علما » الاعراف ۸۹ میں اور « وسع كل شىء علما » طه ۹۸ میں هے علاوہ ازیں « اِنّ الله بكلّ شىءٍ عليم » ضمیمہ ۷۵۵ میں، « وهو بكلّ شىء عليم » ضمیمہ ۷٥٤ میں، « والله سميع عليم » ضمیمہ ۷٥ میں، « والله واسع عليم » ضمیمہ ۸۳ میں اور « خالق كلّ شىء » ضمیمہ ۷۱۷ میں۔

۹٥- لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ (٦ بار)

جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کی مِلک ہے۔

To Allah belongs all that is in the heavens and on earth.

البقرة ۲۸٤۔ النسآء ۱۳۱۔ الحشر ۱۔ الصف ۱۔ الجمعة ۱ اور التغابن ۱ جبکہ « اِنّ الارض لله يورثها من يّشاء » الاعراف ۱۲۸ میں اور « اَنّ الارض يرثها عبادى الصّالحون » الا نبيآء ۱۰٥ میں هے علاوہ ازیں « وَلله ما فى السّموات وما فى الارض » ضمیمہ ۱۰۸ میں، « ولله ملك السمٰوٰت والارض » ضمیمہ ۱۱٥ میں، « ولله غيب السمٰوٰت والارض » ضمیمہ ٥٦۱ میں، « له ما فى السمٰوٰت وما فى الارض » ضمیمہ ۸٥ میں، « ما فى السمٰوٰت وما فى الارض » ضمیمہ ۸٦ میں، « ما فى السمٰوٰت والارض » ضمیمہ ٥۱ میں اور « ما فى الارض جميعا » ضمیمہ ٤۳۸ میں هے۔

۹٦- وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۹ بار) اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔

For Allah has power over all things.

البقرة ۲۸٤۔ آل عمران ۲۹ و ۱۸۹۔ المآئدة ۱۷، ۱۹ و ٤۰۔ الانفال ٤۱۔ التوبة ۳۹ اور الحشر ٦ جبکہ « انّ الله علىٰ كلّ شىءٍ قدير » ضمیمہ ۱٥ میں، « وهو علىٰ كلّ شىءٍ قدير » ضمیمہ ۱۳٤ میں، « والله علىٰ كلّ شىءٍ شهيد » ضمیمہ ۳۲۱ میں، « وكان الله علىٰ كلّ شىء قديرا » ضمیمہ ٤۹۱ میں اور « خالق كلّ شىء » ضمیمہ ۷۱۷ میں هے۔

۹۷۔ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ (۵ بار) اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔
Nor will they have anyone to help.

آل عمران ۲۲، ۵۶ و ۹۱۔ النحل ۳۷ اور الروم ۲۹ جبکہ « وما لکم من نّٰصرین » العنکبوت ۲۵ و الجاثیۃ ۳۴ میں، « وهو خير النّاصرين » آل عمران ۱۵۰ میں اور « مالكم لا تنا صرون » الصافات ۲۵ میں ہے علاوہ ازیں « ما لهم بہ من علم » النسآء ۱۵۷ و الکهف ۵ میں اور « وما لهم بہ من علم » النجم ۲۸ میں، « مالهم بذلك من علم » الزخرف ۲۰ میں اور « وما لهم بذلك من علم » الجاثیۃ ۲۴ میں، « وما لهم اَ لّا يعذبهم الله » الانفال ۳۴ میں، « وما لهم في الارض من ولي وّلا نصير » التوبة ۷۴ میں اور « ما لهم من ولي وّلا نصير » الشوریٰ ۸ میں، « ما لهم من الله من عاصم » یونس ۲۷ میں، « وما لهم من دونہٖ من وّال » الرعد ۱۱ میں اور « ما لهم من دونه من ولي » الکهف ۲٦ میں، « وما لهم فيهما من شرك » سبا ۲۲ میں اور « ما لهم من مّحيص » حم السجدة ۴۸ و الشوریٰ ۳۵ میں ہے علاوہ ازیں « وما لکم من نّٰصرین » ضمیمہ ۹۳٦ میں، « وما لكم من دون الله من ولي وّلا نصير » ضمیمہ ۲۴۳ میں، « ما لكم من اله غيره » ضمیمہ ۱٦۳ میں اور « وما لنا الّا نقاتل في سبيل الله » ضمیمہ ۹۴۸ میں ہے۔

۹۸۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ (۱٦ بار) پس اللہ سے ڈرو۔
So fear Allah.

آل عمران ۵۰ و ۱۲۳۔ المآئدة ۱۰۰۔ الانفال ۱۔ هود ۷۸۔ الشعرآء ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۲٦، ۱۳۱، ۱۴۴، ۱۵۰، ۱٦۳ و ۱۷۹۔ الزخرف ٦۳۔ التغابن ۱٦ اور الطلاق ۱۰ جبکہ « فليتقوا الله » النسآء ۹ میں ہے علاوہ ازیں « فاتقوا الله واطيعون » ضمیمہ ۹۹ میں، « واتقوا الله » ضمیمہ ٦۴ میں، « واتقوا الله واعلموا » ضمیمہ ٦۷ میں، « يايها الذين آمنوا اتقوا الله » ضمیمہ ۹۳ میں، « واتقوا الله الذي » ضمیمہ ۱۱٦ و ٦۷۴ میں، « وان تصبروا وتتقوا » ضمیمہ ۴۳۷ میں، « ومن يتق الله ضمیمہ ۷۲۱ میں اور « يايها الناس اتقوا ربكم » ضمیمہ ۸۰۲ میں ہے۔

۹۹۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ (۱۰ بار) پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
So fear Allah, and obey me.

آل عمران ۵۰۔ الشعرآء ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۲٦، ۱۳۱، ۱۴۴، ۱۵۰، ۱٦۳ و ۱۷۹ اور الزخرف ٦۳ جبکہ « واتقوه واطيعون » نوح ۳ میں ہے علاوہ ازیں « فاتّقوا الله » ضمیمہ ۹۸ میں، « واتقوا الله » ضمیمہ ٦۴ میں، « واتقوا الله واعلموا » ضمیمہ ٦۷ میں، « يايها الذين آمنوا اتقوا الله » ضمیمہ ۹۳ میں، « واتقوا الله الذي » ضمیمہ ۱۱٦ و ٦۷۴ میں، « وان تصبروا وتتقوا » ضمیمہ ۴۳۷ میں، « ومن يتق الله » ضمیمہ ۷۲۱ میں اور « يايها الناس اتقوا ربكم » ضمیمہ ۸۰۲ میں ہے۔

۱۰۰۔ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (۵ بار) یہی سیدھا راستہ ہے۔
This is a Way that is straight.

آل عمران ۵۱۔ مریم ۳٦۔ یسٓ ٦۱ اور الزخرف ٦۱ و ٦۴ جبکہ « وهذا صراط ربك مستقيما » الانعام ۱۲٦ میں، « وانّ هذا صراطي مستقيما » الانعام ۱۵۳ میں اور « قال هذا صراط عليّ مستقيم » الحجر ۴۱ میں ہے۔

علاوہ ازیں «اھدنا الصراط المستقیم» الفاتحة ٥ میں اور «وھدینا ھما الصراط المستقیم» الصآفات ١١٨ میں، «صراط الذین» الفاتحة ٦ میں، «صراطًا مستقیما» النسآء ١٧٥ - الفتح ٢ و ٢٠ میں، «صراطك المستقیم» الاعراف ١٦ میں، «اَھدك صراطًا سویًا» مریم ٤٣ میں اور «قل ھذہٖ سبیلی» یوسف ١٠٨ میں نیز «الیٰ صراط مستقیم» ضمیمه ٥٦ میں اور «علیٰ صراط مستقیم» ضمیمه ١٤٥ میں ھے۔

١٠١- عَذَابًا شَدِيْدًا

(٧ بار) سخت عذاب۔

Severe Chastisement.

آل عمران ٥٦ - الاعراف ١٦٤ - الاسرآء ٥٨ - النمل ٢١ - حم السجدة ٢٧ - المجادلة ١٥ اور الطلاق ١٠ جبکه «بأسًا شدیدا» الکھف ٢ میں، «زلزالًا شدیدا» الاحزاب ١١ میں، «حرسًا شدیدا» الجن ٨ میں اور «حساباشدیدا» الطلاق ٨ میں آیا ھے علاوہ ازیں «عذابًا الیما» ضمیمه ٢٩٠ میں، «لھم عذاب شدید» ضمیمه ٢٤٦ میں اور «عذاب مّھین» ضمیمه ٩١٨ میں ھے۔

١٠٢- قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ

(٦ بار) کہہ دو کہ اے اہلِ کتاب۔

Say: "O People of the Book!

آل عمران ٦٤ ، ٩٨ و ٩٩ اور المآئدة ٥٩، ٦٨ و ٧٧ جبکه «یا اھلَ الکتاب» ضمیمه ١٠٣ میں اور «من اھل الکتاب» ضمیمه ٤١٢ میں ھے۔

١٠٣- يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ

(١٢ بار) اے اہلِ کتاب۔

O People of the Book!

آل عمران ٦٤، ٦٥، ٧٠ ، ٧١ ، ٩٨ و ٩٩ - النسآء ١٧١ اور المآئدة ١٥ ، ١٩، ٥٩، ٦٨ و ٧٧ جبکه «یآ اھل یثرب» الاحزاب ١٣ میں اور «اھلُ المدینة» الحجر ٦٧ میں ھے علاوہ ازیں «اَھلُ الکتاب» آل عمران ١١٠ - النسآء ١٥٣ و الحدید ٢٩ میں، «اھلِ الکتاب» النسآء ١٢٣ میں اور «اھلَ الکتاب» المآئدة ٦٥ و العنکبوت ٤٦ میں، «اھلُ الانجیل» المآئدة ٤٧ میں، «اھلَ القریٰ» الاعراف ٩٦ میں اور «اھلُ القریٰ» الاعراف ٩٧ و ٩٨ میں، «اھلَ البیتِ» ھود ٧٣ و الاحزاب ٣٣ میں اور «اَھلِ بیتٍ» القصص ١٢ میں، «اھلَ الذکر» النحل ٤٣ و الانبیآء ٧ میں، «اھلَ قریة» الکھف ٧٧ میں ، «اَھلِ ھذہ القریة» العنکبوت ٣١ و ٣٤ میں اور «اھلُ التقویٰ و اھلُ المغفرة» المدثر ٥٦ میں آیا ھے نیز «قل یٓا ھل الکتٰب» ضمیمه ١٠٢ میں اور «من اھلِ الکتاب» ضمیمه ٤١٢ میں ھے۔

١٠٤- لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

(٨ بار) تاکہ وہ (اسلام سے) برگشتہ ہو جائیں۔

Perchance they may (themselves) Turn back.

آل عمران ٧٢ - الاعراف ١٦٨ - یوسف ٦٢ - الروم ٤١ - السجدة ٢١ - الزخرف ٢٨ و ٤٨ اور الحقاف ٢٧ جبکه «لعلّھم الیه یرجعُون» الانبیآء ٥٨ میں اور «ولعلھُم یرجعُون» الاعراف ١٧٤ میں ھے علاوہ ازیں «فھم لا یرجعون» البقرة ١٨ میں، «ماذا یرجعون» النمل ٢٨ میں اور «ولا الیٰ اھلھم یرجعون» یٰسٓ ٥٠ میں آیا ھے نیز «لعلکم تتقون» ضمیمه ١٧ میں، «لعلھم یتقون» ضمیمه ٦٣ میں، «لعلھم یتذکرون» ضمیمه ٧٣ میں اور «لعلکم تتفکّرون» و تفصیلی معلومات ضمیمه ٧٨٣ میں ھے۔

۱۰۵- يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ (۵ بار) وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔

He grants them to whom he pleases.

آل عمران ۷۳ - المائدة ۵۴ - الحدید ۲۱ و ۲۹ اور الجمعة ٤ جبکه « والله يؤتى ملكه من يشآء » البقرة ۲۴۷ میں، « يؤتى الحكمة من يشآء » البقرة ۲۶۹ میں، « والله يؤيّد بنصره من يشآء » آل عمران ۱۳ میں اور « تؤتى الملك من تشآء وتنزع الملك ممّن تشآء » آل عمران ۲۶ میں هے علاوه ازیں « اَن يؤتى » آل عمران ۷۳ و المدثر ۵۲ میں، « اَن يُؤتِيَهُ الله » آل عمران ۷۹ میں اور « اَن يُّؤتِيَن » الكهف ۴۰ میں نیز « يخلق ما يشآء » ضمیمه ۲۲۹ میں، « ويهدى من يشآء » ضمیمه ۲۵۶ میں، « والله يرزق من يّشآء بغير حساب » ضمیمه ۳۰۹ میں، « يدخل من يشآء فى رحمته » ضمیمه ۴۸۸ میں اور « من يشآء من عباده » ضمیمه ۵۴۶ میں هے۔

۱۰۶- مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۸ بار) جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔

All creatures in the heavens and on earth.

آل عمران ۸۳ - الرعد ۱۵ - مریم ۹۳ - الانبیآء ۱۹ - النور ۴۱ - النمل ۶۵ - الروم ۲۶ اور الرحمٰن ۲۹ جبکه « من فى السمٰوٰت ومن فى الارض » یونس ۶۶ - الحج ۱۸ - النمل ۸۷ و الزمر ۶۸ میں اور « بمن فى السّمٰوٰت والارض » الاسرآء ۵۵ میں آیا هے علاوه ازیں « ومن فى الارض جميعا » المآئدة ۱۷ - ابراهیم ۸ و المعارج ۱۶ میں، « من فى الارض » الانعام ۱۱۶ و یونس ۹۹ میں، « لمن فى الارض » الشورٰى ۵ میں اور « بمن فى الارض » الجن ۱۰ میں هے۔

۱۰۷- لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (۷ بار) ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔

For such is (in store) a penalty grievous.

آل عمران ۹۱ - التوبة ۶۱ - ابراهیم ۲۲ - النور ۱۹ - العنكبوت ۲۳ اور الشورٰى ۲۱ و ۴۲ جبکه « هو العذاب الا ليم » الحجر ۵۰ میں هے علاوه ازیں « ولهُم عذابٌ اليم » ضمیمه ۱۰ میں، « ولهم عذاب عظيم » ضمیمه ۸ میں، « ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » ضمیمه ۹۱۵ میں اور « ولهم عذاب مّقيم » ضمیمه ۶۱۲ میں، « لهم عذاب شديد » ضمیمه ۲۴۶ میں، « انّیٓ اخاف عليكم عذاب يومٍ عظيم » ضمیمه ۳۴۵ میں، « عذاب مّهين » ضمیمه ۹۱۸ میں، « عذابِ السّعير » ضمیمه ۵۰۰ میں، « عذابا شديدا » ضمیمه ۱۰۱ میں ، « عذابا اليما » ضمیمه ۲۹۰ میں اور « بعذابٍ اليم » ضمیمه ۷۴۳ میں هے۔

۱۰۸- وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (۶ بار) اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔

To Allah belongs all that is in the heavens and on earth.

آل عمران ۱۰۹ و ۱۲۹ - النسآء ۱۲۶، ۱۳۱ و ۱۳۲ اور النجم ۳۱ جبکه « وهو الله فى السمٰوٰت وفى الارض » الانعام ۳ میں اور « وهو الذى فى السمآء اله وفى الارض اله » الزخرف ۸۴ میں هے علاوه ازیں « لله ما فى السّموات وما فى الارض » ضمیمه ۹۵ میں، « ولله ملك السمٰوٰت والارض » ضمیمه ۱۱۵ میں، « ولله غيب السمٰوٰت والارض » ضمیمه ۵۶۱ میں، « له ما فى السمٰوٰت وما فى الارض » ضمیمه ۸۵ میں، « ما فى السمٰوٰت وما فى الارض » ضمیمه ۸۶ میں، « ما فى السمٰوٰت والارض » ضمیمه ۵۱ میں اور « ما فى الارض جميعا » ضمیمه ۴۳۸ میں هے۔

۱۰۹۔ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (۵ بار) تو ان کے لئے بہت اچھا ہوتا۔
It were best for them.

آل عمران ۱۱۰ ۔ النسآء ٤٦ و ٦٦ ۔ محمد ۲۱ اور الحجرات ۵ جبکہ « خيرلكم » ضمیمہ ۲۸٤ میں، « خير الرّا زقين » ضمیمہ ۱۳۲ میں اور « خير الرّاحمين » ضمیمہ ۲۸۱ میں ہے۔

۱۱۰۔ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (۷ بار) اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیئے۔
And in Allah should the faithful (Ever) put their trust.

آل عمران ۱۲۲ و ۱٦۰ ۔ المآئدة ۱۱ ۔ التوبة ۵۱ ۔ ابراهيم ۱۱ ۔ المجادلة ۱۰ اور التغابن ۱۳ جبکہ « وعلى الله فلْيتوكّل المتوكّلون » ابراهيم ۱۲ میں، « وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين » المآئدة ۲۳ میں ، « فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين » يونس ۸٤ میں، « فعلى الله توكلت » يونس ۷۱ میں، « وعليه فليتوكل المتوكلون » يوسف ٦۷ میں اور « عليه يتوكل المتوكلون » الزمر ۳۸ میں آیا ہے علاوہ ازیں « إنّ الله يحبّ المتوكلين » آل عمران ۱۵۹ میں، « على الله توكلنا » الاعراف ۸۹ و يونس ۸۵ میں، « ربنا عليك توكلنا » الممتحنة ٤ میں اور « وعليه توكلنا » الملك ۲۹ میں نیز « وما لنآ ألّا نتوكل على الله » ابراهيم ۱۲ میں اور « والمؤمنون » البقرة ۲۸۵ ۔ النسآء ۱٦۲ و ۱٦۲ ۔ التوبة ۷۱ و ۱۰۵ ۔ الفتح ۱۲ و المدثر ۳۱ میں ہے جبکہ « عليه توكلت » ضمیمہ ۱۷۸ میں، « وعلى ربهم يتوكلون » ضمیمہ ۵۵۳ میں اور « وتوكل على الله » ضمیمہ ۵۵٤ میں ہے۔

۱۱۱۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (۷ بار) تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
That you may obtain mercy.

آل عمران ۱۳۲ ۔ الانعام ۱۵۵ ۔ الاعراف ۲۰٤ ۔ النور ۵٦ ۔ النمل ٤٦ ۔ يٰسٓ ٤۵ اور الحجرات ۱۰ جبکہ « ولعلّكم تُرحمون » الاعراف ٦۳ میں آیا ہے علاوہ ازیں « لعلكم تتقون » ضمیمہ ۱۷ میں، « لعلكم تشكرون » ضمیمہ ۳۲ میں اور « ولعلكم تشكرون » ضمیمہ ۱۹۸ میں، « لعلكم تهتدون » ضمیمہ ۳۳ میں، « لعلكم تعقلون » ضمیمہ ٤۰ میں، « لعلكم تفلحون » ضمیمہ ٦۵ میں، « لعلكم تتفكرون » و تفصیلی معلومات ضمیمہ ۷۸۳ میں ہے نیز « لعلّهم يتقون » ضمیمہ ٦۳ میں، « لعلهم يتذكرون » ضمیمہ ۷۳ میں اور « لعلهم يرجعون » ضمیمہ ۱۰٤ میں ہے۔

۱۱۲۔ وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ (۳ بار) اور بہت سی بستیاں۔
And to how many populations.

الحج ٤۸ ۔ محمد ۱۳ اور الطلاق ۸ جبکہ « فكأيّن مّن قرية » الحج ٤۵ میں ہے علاوہ ازیں « وكايّن من نبيّ » آل عمران ۱٤٦ میں، « وكايّن من آية » يوسف ۱۰۵ میں اور « وكايّن مّن دآبّة » العنكبوت ٦۰ میں، « من قرية » الاعراف ٤ ۔ الحجر ٤ ۔ الاسرآء ۵۸ ۔ الانبيآء ٦ و ۱۱ اور الشعرآء ۲۰۸ میں، « علىٰ قرية » البقرة ۲۵۹ و الانبيآء ۹۵ میں، « فى كلّ قرية » الانعام ۱۲۳ و الفرقان ۵۱ میں، « فى قرية » الاعراف ۹٤ ۔ سبا ۳٤ و الزخرف ۲۳ میں ، « من قريتكم » الاعراف ۸۲ و النمل ۵٦ میں، « من قريتنا » الاعراف ۸۸ میں اور « من قريتك التى » محمد ۱۳ میں نیز « وكم اهلكنا قبلهم من قرن » ضمیمہ ۲۰۲ میں ہے۔

۱۱۳۔ لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ (۵ بار) صریح گمراہی میں تھے۔

In manifest error.

آل عمران ۱٦٤ ۔ یوسف ۸ ۔ الشعرآء ۹۷ ۔ یٰسٓ ۲٤ اور الجمعة ۲ جبکہ « فی ضلال مبین » ضمیمہ ۱۵۰ میں اور « فی کتاب مبین » ضمیمہ ۱٤۸ میں ہے۔

۱۱٤۔ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ (۳ بار) اور اللہ تو بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔

For Allah never harms those who serve Him.

آل عمران ۱۸۲ ۔ الانفال ۵۱ ۔ الحج ۱۰ جبکہ « وما ربك بظلام للعبید » حم السجدة ٤٦ میں اور « ومآ انا بظلّام للعبید » قٓ ۲۹ میں ہے۔

۱۱۵۔ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (٦ بار) اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے۔

To Allah belongeth the dominion of the heavens and the earth.

آل عمران ۱۸۹ ۔ المآئدة ۱۷ و ۱۸ ۔ النور ٤۲ ۔ الجاثیة ۲۷ اور الفتح ۱٤ جبکہ « لله ملك السمٰوٰت والارض » المآئدة ۱۲۰ و الشوریٰ ٤۹ میں، « ولله میراث السمٰوٰت » آل عمران ۱۸۰ و الحدید ۱۰ میں اور « ولله جنود السمٰوٰت والارض » الفتح ٤ و ۷ میں آیا ہے علاوہ ازیں « الملك یومئذٍ لله » الحج ٥٦ میں، « الملك یومئذ الحق للرحمٰن » الفرقان ۲٦ میں، « لمن الملك الیوم ط لله الواحد القهار » المومن ۱٦ میں اور « یا قوم لکم الملك الیوم ظاهرین فی الارض » المومن ۲۹ میں آیا ہے نیز « ولله ما فی السمٰوٰت وما فی الارض » ضمیمہ ۱۰۸ میں، « لله ما فی السمٰوٰت والارض » ضمیمہ ۱۲۷ میں، « له ملك السمٰوٰت والارض » ضمیمہ ٤۹ میں، « ولله غیب السمٰوٰت والارض » ضمیمہ ٥٦۱ میں، « له ما فی السمٰوٰت ومافی والارض » ضمیمہ ۸۵ میں، « ذلکم الله ربکم له الملك » ضمیمہ ٦٦۵ میں اور « ربُّ السمٰوٰت والارض » ضمیمہ ۲۵۷ میں ہے۔

۱۱٦۔ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْٓ (۵ بار) اور اللہ سے ڈرو جس کے۔

And fear Allah in whom.

النسآء ۱ ۔ المآئدة ۸۸ و ۹٦ ۔ المجادلة ۹ اور الممتحنة ۱۱ جبکہ تفصیلی معلومات ضمیمہ ٦۷٤ میں، « واتقوا الله » ضمیمہ ٦٤ میں، « واتقوا الله واعلموا » ضمیمہ ٦۷ میں، « یایها الذین آمنوا اتقوا الله » ضمیمہ ۹۳ میں، « فاتقوا الله » ضمیمہ ۹۸ میں، « فاتقوا الله واطیعون » ضمیمہ ۹۹ میں، « وان تصبروا وتتقوا » ضمیمہ ٤۳۷ میں، « ومن یتق الله » ضمیمہ ۷۲۱ میں اور « یایها الناس اتقوا ربکم » ضمیمہ ۸۰۲ میں ہے۔

۱۱۷۔ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ (۷ بار) جس کے تم مالک ہو۔

(A captive) that your right hands possess.

النسآء ۳ ، ۲٤ ، ۲۵ و ۳٦ ۔ النور ۳۳ و ۵۸ اور الروم ۲۸ جبکہ « ملکت ایمانهم » النحل ۷۱ ۔ المومنون ٦ ۔ الاحزاب ۵۰ و المعارج ۳۰ میں، « ملکت ایما نهنّ » النور ۳۱ و الاحزاب ۵۵ میں اور « ملکت یمینك » الاحزاب ۵۰ و ۵۲ میں نیز « والذین عقدت ایمانکم » النسآء ۳۳ میں آیا ہے۔

۱۱۸۔ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٦ بار) اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔
For Allah is full of knowledge and wisdom.

النسآء ۱۷، ۹۲، ۱۰٤، ۱۱۱ و ۱۷۰ اور الفتح ٤ جبکہ « وكان الله عليمًا حليمًا » الاحزاب ٥۱ میں هے علاوہ ازیں « وكان الله بهم عليما » النسآء ۳۹ میں اور « فانّ الله كان به عليما » النسآء ۱۲۷ میں، « وكان الله بكل شيء مّحيطا » النسآء ۱۲٦ میں اور « وكان الله بكل شيءٍ عليما » الاحزاب ٤۰ و الفتح ۲٦ میں، « وكان الله واسعًا حكيما » النسآء ۱۳۰ میں، « وكان الله شاكرًا عليما » النسآء ۱٤۷ میں اور « وكان الله سميعا عليما » النسآء ۱٤۸ میں آیا هے نیز « إنّ الله كان عليمًا حكيما » ضمیمه ۳۳۳ میں، « وكان الله غفورًا رّحيما » ضمیمه ۱۲٦ میں، « وكان الله على كلّ شيءٍ قديرا » ضمیمه ٤۹۱ میں، « وكان الله عزيزًا حكيما » ضمیمه ٥٥٥ میں، « والله عليم حكيم » ضمیمه ۱۱۹ میں اور « ان كان » ضمیمه ۹٤٦ میں هے.

۱۱۹۔ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۱۳ بار) اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔
And Allah is All-knowing, All-wise.

النسآء ۲٦۔ الانفال ۷۱۔ التوبة ۱٥، ٦۰، ۹۷، ۱۰٦ و ۱۱۰۔ الحج ٥۲۔ النور ۱۸، ٥۸ و ٥۹۔ الحجرات ۸ اور الممتحنة ۱۰ جبکه « إن الله عليم حكيم » التوبة ۲۸ میں اور « والله عليم حليم » النسآء ۱۲ میں هے علاوہ ازیں « انك انت العليم الحكيم » البقرة ۳۲ میں، « انّ ربك عليم حكيم » يوسف ٦ میں، « إنّ ربك حكيم عليم » الانعام ۸۳ و ۱۲۸ میں، « إنّه حكيم عليم » الانعام ۱۳۹ و الحجر ۲٥ میں، « انّه هو العليم الحكيم » يوسف ۸۳ و ۱۰۰ میں اور « انّه هو الحكيم العليم » الذاريات ۳۰ میں، « وهو العليم القدير » الروم ٥٤ میں، « وهو الحكيم العليم » الزخرف ۸٤ میں اور « وهو العليم الحكيم » التحريم ۲ میں نیز « وإنّ الله لعليم حليم » الحج ٥۹ میں اور « من لدن حكيم عليم » النمل ٦ میں آیا هے جبکه « والله عليم با لظّٰلمين » ضمیمه ۳۲۷ میں، « والله عزيز حكيم » ضمیمه ۷٦ میں، « وهو العزيز الحكيم » ضمیمه ۱۹۳ میں اور « إنّك انت العزيز الحكيم » ضمیمه ۷۳۱ میں، « وكان الله عليماحكيما » ضمیمه ۱۱۸ میں، « إنّ الله كان عليما حكيما » ضمیمه ۳۳۳ میں اور « إنّه عليم بذات الصّدور » ضمیمه ۱۷٤ میں هے.

۱۲۰۔ اُنْظُرْ كَيْفَ (۸ بار) دیکھو کیسے!
Behold! how.

النسآء ٥۰۔ المآئدة ۷٥۔ الانعام ۲٤، ٤٦ و ٦٥۔ الاسرآء ۲۱ و ٤۸ اور الفرقان ۹ جبکه « ثم انظر » المآئدة ۷٥ میں اور « ثم انظروا » الانعام ۱۱ میں، « أنظر اليك » اور « ولكن انظر » الاعراف ۱٤۳ میں، « ينظرُ اليك » يونس ٤۳ میں اور « ينظرون اليك » الاعراف ۱۹۸۔ الاحزاب ۱۹ و محمد ۲۰ میں آیا هے علاوہ ازیں « فانظر كيف » ضمیمه ۱٦۷ میں، « فينظروا كيف كان » ضمیمه ۲۲۸ میں، « فا نظروا كيف كان » ضمیمه ۹۰۳ میں، « كيف كان عاقبة المكذبين » ضمیمه ۳۰۱ میں، « فكيف كان » ضمیمه ۱۹۱ میں، « فكيف كان نكير » ضمیمه ۷۸۰ میں، « فكيف كان عذابي ونذر » ضمیمه ۱۰۱٤ میں اور « كيف يشآء » ضمیمه ۷۸۱ میں هے.

۱۲۱۔ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا (۱۱ بار) وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔
Their eternal home.

النسآء ۵۷، ۱۲۲ و ۱۶۹ ۔ المآئدة ۱۱۹ ۔ التوبة ۲۲ و ۱۰۰ ۔ الاحزاب ٦۵ ۔ التغابن ۹ ۔ الطلاق ۱۱ ۔ الجن ۲۳ اور البینة ۸ جبکہ « خالدین فیھا » ضمیمہ ۵۸ میں اور « ھم فیھا خالدون » ضمیمہ ۲۸ میں ہے۔

۱۲۲۔ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا (۵ بار) اور کارساز (ہونے کے لئے) اللہ کافی ہے۔
And enough is Allah as a disposer of affairs.

النسآء ۸۱، ۱۳۲ و ۱۷۱ اور الاحزاب ۳ و ٤۸ جبکہ « و کفٰی باللّٰہ حسیبا » النسآء ٦ و الاحزاب ۳۹ میں، « و کفٰی باللّٰہ ولیًا و کفٰی باللّٰہ نصیرا » النسآء ٤۵ میں اور « و کفٰی باللّٰہ علیما » النسآء ۷۰ میں آیا ہے علاوہ ازیں « و کفٰی بہٖ اثما مبینا » النسآء ۵۰ میں، « و کفٰی بجھنّم سعیرا » النسآء ۵۵ میں، « و کفٰی بہٖ بذنوب عبادہٖ خبیرا » الفرقان ۵۸ میں، « و کفٰی بربك بذنوب عبادہٖ خبیرا بصیرا » الاسرآء ۱۷ میں، « و کفٰی بربك وکیلا » الاسرآء ٦۵ میں اور « و کفٰی بربك ھادیًا وّنصیرا » الفرقان ۳۱ میں، « و کفٰی بنا حاسبین » الانبیآء ٤۷ میں، « و کفی اللّٰہ المؤمنین القتال » الاحزاب ۲۵ میں اور « کفٰی بنفسك الیوم علیك حسیبا » الاسرآء ۱٤ میں آیا ہے نیز « علیھم وکیلا » النسآء ۱۰۹ و الاسرآء ۵٤ میں، « علینا وکیلا » الاسرآء ۸٦ میں، « علیه وکیلا » الفرقان ٤۳ میں اور « و کفٰی باللّٰہ شھیدا » ضمیمہ ۷۷۷ میں ہے۔

۱۲۳۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ (۵ بار) اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔
Were it not for the Grace and Mercy of Allah unto you.

النسآء ۸۳ اور النور ۱۰، ۱٤، ۲۰ و ۲۱ جبکہ « فلولا فضلُ اللّٰہ علیکم ورحمتُہ » البقرة ٦٤ میں، « ولولا فضلُ اللّٰہ علیكَ ورحمتُہ » النسآء ۱۱۳ میں، « ذلك فضل اللّٰہ » المآئدة ۵٤ ۔ الحدید ۲۱ و الجمعة ٤ میں، « ذلك الفضل من اللّٰہ » النسآء ۷۰ میں، « فضل من اللّٰہ » النسآء ۷۳ میں، « و کان فضل اللّٰہ علیك عظیما » النسآء ۱۱۳ میں، « انّ فضله کان علیك کبیرا » الاسرآء ۸۷ میں، « اِنّ ھذا لھو الفضل المبین » النمل ۱٦ میں اور « ذلك ھو الفضل الکبیر » فاطر ۳۲ و الشورٰی ۲۲ میں آیا ہے علاوہ ازیں « علینا من فضل » الاعراف ۳۹ و ھود ۲۷ میں، « ذلك من فضل اللّٰہ علینا » یوسف ۳۸ میں، « ھذا من فضل ربّی » النمل ٤۰ میں اور « من فضل اللّٰہ » الحدید ۲۹ ۔ الجمعة ۱۰ و المزمل ۲۰ میں نیز « قل انّ الفضل بید اللّٰہ » آل عمران ۷۳ میں، « وانّ الفضل بید اللّٰہ » الحدید ۲۹ میں اور « قل بفضل اللّٰہ وبرحمته » یونس ۵۸ میں ہے جبکہ « فلولا فضل اللّٰہ علیکم » ضمیمہ ۹٦۹ میں، « ولولا کلمت سبقت من رّبك » ضمیمہ ۱۸۱ میں، « ولو کرہ الکافرون » ضمیمہ ٦۲۷ میں اور « ولولا دفع اللّٰہ الناس » ضمیمہ ۹۷۲ میں، « لولا انزل علیه » ضمیمہ ۱۳۷ میں، « لولا انزل علیه آیة من ربه » ضمیمہ ۸۸۰ میں اور « لولا ارسلت الینا رسولا » ضمیمہ ۹۷۱ میں، « ولتبتغوا من فضله » ضمیمہ ۱۹۸ میں اور « یبتغون فضلا من اللّٰہ » ضمیمہ ۵۹۲ میں ہے۔

۱۲٤۔ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ (۸ بار) اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے۔
For those whom Allah hath thrown out of the Way.

النسآء ۸۸ و ۱٤۳ ۔ الرعد ۳۳ ۔ الزمر ۲۳ و ۳٦ ۔ المؤمن ۳۳ اور الشورٰی ٤٤ و ٤٦ جبکہ « من یضلل اللّٰہ » الاعراف ۱۸٦ میں اور « ومن یضلل اللّٰہ فما له من ھاد » ضمیمہ ۱۰٤۳ میں ہے۔

۱۲۵- وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا (۲ بار)

اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو اپنا دوست پائیں گے نہ مددگار۔

Nor will they find, besides Allah, any to protect or help them .

النسآء ۱۷۳ اور الاحزاب ۱۷ جبکہ « ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا » النسآء ۱۲۳ میں، « ثم لا یجدون ولیّا ولانصیرا » الفتح ۲۲ میں، « فلن تجد له نصیرا » النسآء ۵۲ میں اور « ولن تجد لهم نصیرا » النسآء ۱۴۵ میں ھے علاوہ ازیں « ولا یجدون » ضمیمه ۷۰۵ میں، « من دون الله » ضمیمه ۱۹ میں اور « ما لکم من دون الله من وّلیّ وّلا نصیر » ضمیمه ۲۴۳ میں ھے۔

۱۲۶- وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (۹ بار) اور اللہ بخشنے والا (اور) مہربان ہے۔

For Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.

النسآء ۹۶، ۱۰۰ و ۱۵۲ ـ الفرقان ۷۰ ـ الاحزاب ۵، ۵۰، ۵۹ و ۷۳ اور الفتح ۱۴ جبکه « انّ الله کان غفورا رّحیما » النسآء ۲۳ و ۱۰۶ اور الاحزاب ۲۴ میں، « فانّ الله کان غفُورًا رّحیما » النسآء ۱۲۹ میں اور « انّه کان غفورا رحیما » الفرقان ۶ میں آیا ھے علاوہ ازیں « ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما » النسآء ۱۱۰ میں، « ان الله کان بکم رحیما » النسآء ۲۹ میں، « انّه کان بکم رحیما » الاسرآء ۶۶ میں اور « وکان بالمؤمنین رحیما » الاحزاب ۴۳ میں، « انّ الله کان عفوّا غفورا » النسآء ۴۳ میں، « وکان الله عفوّا غفورا » النسآء ۹۹ میں، « فانّ الله کان عفوّا قدیرا » النسآء ۱۴۹ میں، « انّ الله لعفوّ غفور » الحج ۶۰ میں، « وانّ الله لعفوّ غفور » المجادلة ۲ میں نیز « وکان الله غنیّا حمیدا » النسآء ۱۳۱ میں اور « وانّی لغفار » طه ۸۲ میں آیا ھے جبکه « وکان الله علیما حکیما » ضمیمه ۱۱۸ میں، « إنّ الله کان علیمًا حکیما » ضمیمه ۳۳۳ میں، « وکان الله علی کلّ شیءٍ قدیرا » ضمیمه ۴۹۱ میں، « وکان الله عزیز حکیما » ضمیمه ۵۵۵ میں، « ان کان » ضمیمه ۹۴۶ میں ، « انّ الله غفور رحیم » ضمیمه ۶۱ میں، « فانّ الله غفور رحیم » ضمیمه ۶۶ میں، « والله غفور رحیم » ضمیمه ۷۱ میں، « إنّه هو الغفور الرحیم » ضمیمه ۳۷۲ میں اور « والله غفور حلیم » ضمیمه ۷۳۶ میں ھے۔

۱۲۷- لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۵ بار) جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اللہ ہی کی مِلک ہے۔

To Allah belong all things in the heavens and on earth.

النسآء ۱۷۰ ـ یونس ۵۵ ـ النور ۶۴ ـ لقمان ۲۶ اور الحدید ۱ جبکه « لله ما فی السّمٰوٰت وما فی الْارض » ضمیمه ۹۵ میں، « ولله ما فی السّمٰوٰت وما فی الْارض » ضمیمه ۱۰۸ میں، « ولله ملك السمٰوٰت والارض » ضمیمه ۱۱۵ میں اور « ولله غیب السمٰوٰت والارض » ضمیمه ۵۶۱ میں، « ما فی السمٰوٰت والارض » ضمیمه ۵۱ میں، « له ما فی السمٰوٰت وما فی الارض » ضمیمه ۸۵ میں، « ما فی السمٰوٰت وما فی الارض » ضمیمه ۸۶ میں اور « ما فی الارض جمیعا » ضمیمه ۴۳۸ میں ھے۔

۱۲۸- بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ (۵ بار) وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔

They are but friends and protectors to each other.

المآئدة ۵۱ ـ الانفال ۷۲ و ۷۳ ـ التوبة ۷۱ اور الجاثیة ۱۹ جبکه « بعضهم اولی ببعض » الانفال ۷۵ و

الاحزاب ٦ میں، «بعضهم لبعض ظهیرا » الاسرآء ۸۸ میں، «بعضهم لبعضٍ عدوّ » الزخرف ٦٧ میں، «بعضکم لبعض عدوّ » البقرة ٣٦ ـ الاعراف ٢٤ و طه ١٢٣ میں، «بعضکم لبعض نفعًا ولا ضرًا » سبا ٤٢ میں، «بعضَکم لبعض فتنة » الفرقان ٢٠ میں اور «بعضِکم لبعض » الحجرات ٢ میں آیا هے علاوه ازیں «بعضهم علیٰ بعض » ضمیمه ٢٠٤ میں، «بعضکم بعضا » ضمیمه ٧٣٩ میں اور «بعض الذی » ضمیمه ٧١٣ میں هے.

۱۲۹۔ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ (١٨ بار)

یہ جو کچھ کرتے ہیں۔

The things that they do.

المآئدة ٦٢ ـ الانعام ٤٣، ٨٨ و ١٢٢ ـ الاعراف ١١٨، ١٣٩، ١٤٧ و ١٨٠ ـ التوبة ٩ و ١٢١ ـ یونس ١٢ ـ هود ١٦ ـ النحل ٩٦ و ٩٧ ـ القصص ٨٤ ـ سبا ٣٣ ـ المجادلة ١٥ اور المنافقون ٢ جبکه «عمّا کانوا یعملون » البقرة ١٣٤ و ١٤١ و الحجر ٩٣ میں اور «الذی کانوا یعملون » العنکبوت ٧ ـ الزمر ٣٥ و حم السجدة ٢٧ میں هے علاوه ازیں «ما کانوا یصنعون » المآئدة ٦٣ میں، «ما کانوا یفعلون » المآئدة ٧٩ و المطففین ٣٦ میں اور «وما کادوا یفعلون » البقرة ٧١ میں، «ما کانوا لیؤمنوا » الانعام ١١١ میں، «فما کانوا لیؤمنوا » الاعراف ١٠١ و یونس ٧٤ میں اور «وما کانوا لیؤمنوا » یونس ١٣ میں، «ما کانوا یستطیعون السمع » هود ٢٠ میں، «ما کانوا یوعدون » الشعرآء ٢٠٦ میں، «ما کانوا یمتّعون » الشعرآء ٢٠٧ میں، «ما کانوا یحذ رون » القصص ٦ میں، «ما کانوا ایّانا یعبدون » القصص ٦٣ میں، «ما کانوا یدعون من قبل » حم السجدة ٤٨ میں اور «این ما کانوا » المجادلة ٧ میں آیا هے نیز « بما کانوا یعملُون » ضمیمه ١٥٢ میں، «لو کانوا یعلمون » ضمیمه ٤٦ میں، «عمّا کانوا یعملون » ضمیمه ٤٩٤ میں، «ما کانوا یفترون » ضمیمه ١٣٩ میں، «ما کانوا به یستهزء ون » ضمیمه ١٨٥ میں، «ما کانوا یکسبون » ضمیمه ٥٥١ میں، «بما کانوا یکسبون » ضمیمه ١٥٥ میں، «بما کانوا یفسقون » ضمیمه ٢٢٧ میں اور «وما کانوا مهتدین » ضمیمه ١٠١٠ میں هے.

۱۳۰۔ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (١٦ بار)

جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

The truth of all that you do.

المآئدة ١٠٥ ـ الانعام ٦٠ ـ الاعراف ٤٣ ـ التوبة ٩٤ و ١٠٥ ـ یونس ٢٣ ـ النحل ٢٨ و ٣٢ ـ العنکبوت ٨ ـ لقمان ١٥ ـ السجدة ١٤ ـ الزمر ٧ ـ الزخرف ٧٢ ـ الطور ١٩ ـ الجمعة ٨ اور المرسلات ٤٣ جبکه «ما کنتم تعمَلون » ضمیمه ٢١٢ میں، «فینبئکم بما کنتم تعملون » ضمیمه ٦٧٥ میں اور «بما کنتم تکفرون » ضمیمه ٧٤٨ میں هے.

۱۳۱۔ إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (٥ بار)

کہ یہ بجز صریح جادو کے اور کچھ نہیں ہے۔

This is nothing but evident magic.

المآئدة ١١٠ ـ الانعام ٧ ـ هود ٧ ـ سبا ٤٣ اور الصافآت ١٥ جبکه «انّ هذا لساحر مبین » یونس ٢ میں، «انّ هذا لسحر مبین » یونس ٧٦ میں، «هذا سحر مبین » النمل ١٣ ـ الاحقاف ٧ و الصف ٦ میں، «قالوا هذا سحر » الزخرف ٣٠ میں، «أ سحرٌ هذا » یونس ٧٧ میں، «افسحرٌ هذا » الطور ١٥ میں، «ما هذا الّا سحر مفتریٰ » القصص ٣٦ میں، «ما هذا الّا افك مّفتریٰ » سبا ٤٣ میں اور «ویقولوا سحرمّستمر » القمر ٢ میں نیز «ما هذا بشرا » یوسف ٣١ میں، «ما هذا الّا بشر مّثلکم » المؤمنون ٢٤ و ٣٣ میں، «بشرًا مّثلکم » المؤمنون ٣٤ میں ، «ما هذا الّا رجل » سبا ٤٣ میں اور «ما هذا الّا اساطیر الاولین » الاحقاف ١٧ میں هے علاوه ازیں

«ان هذا الّا ملك كريم» يوسف ۳۱ میں، «ان هذان لساحران» طه ۶۳ میں، «ان هذا الّا افك إفتراه» الفرقان ۴ میں، «ان هذا الّا خلق الاوّلين» الشعرآء ۱۳۷ میں، «ان هذا الّا اختلاق» صٓ ۷ میں، «ان هذا الّا سحر يؤثر» المدثر ۲۴ میں اور «ان هذا الّا قول البشر» المدثر ۲۵ میں نیز «ان هذا الّا اساطير الاولين» ضمیمہ ۱۴۱ میں «انّ هذا لساحر عليم» ضمیمہ ۹۲۱ میں اور «اِلا بشرٌ مّثلنا» ضمیمہ ۳۷۳ میں ہے۔

۱۳۲۔ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ (۵ بار) سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

The best Sustainer (of our needs).

المآئدة ۱۱۴ ۔ الحج ۵۸ ۔ المؤمنون ۷۲ ۔ سبا ۳۹ اور الجمعة ۱۱ جبکہ «خير الراحمين» ضمیمہ ۲۸۱ میں، «خير لكم» ضمیمہ ۲۸۴ میں اور «خيرا لّهم» ضمیمہ ۱۰۹ میں ہے۔

۱۳۳۔ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (۵ بار) یہی بڑی کامیابی ہے۔

That is the great success, (the fulfilment of all desires).

المآئدة ۱۱۹ ۔ التوبة ۸۹ و ۱۰۰ ۔ الصف ۱۲ اور التغابن ۹ جبکہ «وذلك الْفوزُ العظيم» النسآء ۱۳ میں، «ذلك هو الفوز العظيم» التوبة ۷۲ ۔ يونس ۶۴ ۔ الدخان ۵۷ و الحديد ۱۲ میں، «وذلك هو الفوز العظيم» التوبة ۱۱۱ و المؤمن ۹ میں اور «انّ هذا لهو الفوز العظيم» الصآفات ۶۰ میں آیا ہے علاوہ ازیں «وذلك الفوز المبين» الانعام ۱۶ میں، «ذلك هو الفوز المبين» الجاثية ۳۰ میں، «ذلك هو الفضل الكبير» فاطر ۳۲ و الشورى ۲۲ میں، «ذلك الفوز الكبير» البروج ۱۱ میں اور «ذلك لمن خشىَ ربّه» البينة ۸ میں نیز «ذلك الخزى العظيم» التوبة ۶۳ میں، «ذلك هو الضّلال البعيد» ابراهيم ۱۸ و الحج ۱۲ میں، «ذلك هو الخسران المبين» الحج ۱۱ و الزمر ۱۵ میں اور «فوزًا عظيما» النسآء ۷۳ ۔ الاحزاب ۷۱ و الفتح ۵ میں ہے۔

۱۳۴۔ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (۷ بار) اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔

And it is He Who has power over all things.

المآئدة ۱۲۰ ۔ هود ۴ ۔ الروم ۵۰ ۔ الشورىٰ ۹ ۔ الحديد ۲ ۔ التغابن ۱ اور الملك ۱ جبکہ «فهو علىٰ كلّ شىءٍ قدير» الانعام ۱۷ میں ، «وهو على كلّ شىء شهيد» سبا ۴۷ میں اور «وهو العليم القدير» الروم ۵۴ میں آیا ہے علاوہ ازیں «اِنّ اللّٰه على كلّ شىءٍ قدير» ضمیمہ ۱۵ میں، «واللّٰه على كلّ شىءٍ قدير» ضمیمہ ۹۶ میں، «واللّٰه علىٰ كلّ شىءٍ شهيد» ضمیمہ ۳۲۱ میں، «وكان اللّٰه علىٰ كلّ شىء قديرا» ضمیمہ ۴۹۱ میں، «خالق كلّ شىء» ضمیمہ ۷۱۷ میں ، «وهو السميع العليم» ضمیمہ ۵۵ میں، «وهو العلىّ العظيم» ضمیمہ ۵۶۹ میں، «وهو اللّطيف الخبير» ضمیمہ ۶۴۴ میں، «وهو بكل شىء عليم» ضمیمہ ۷۵۴ میں، «وهو اعلم بالمهتدين» ضمیمہ ۷۰۱ میں، «فهو خير لّكم» ضمیمہ ۱۰۵۲ میں، «وهو الذى انشأ جنّٰت» ضمیمہ ۶۸۸ میں، «هو الذى خلقكم» ضمیمہ ۴۶۶ میں، «هو الذى ارسل رسوله» ضمیمہ ۷۴۲ میں، «هو الذى يريكم» ضمیمہ ۷۴۰ میں، «هو الحق» ضمیمہ ۳۰۲ میں، «هو خير» ضمیمہ ۱۰۵۴ میں،

«إِنّه هو السمیع العلیم» ضمیمه ۱۷۵ میں، «إنّه هو التوّاب الرّحیم» ضمیمه ٤٢٦ میں، «انّه هو الغفور الرحیم» ضمیمه ۳۷۲ میں، «لآ اله الّا هو ط» ضمیمه ٥٩ میں، «قل هو ط» ضمیمه ٨٥٤ میں، «انّ ربّك هو اعلم» ضمیمه ۱۵۳ میں، «ان هو الّا ذكر لّلعالمین» ضمیمه ٤٢٠ میں، «وما هو بمزحزحهٖ» ضمیمه ۹۲۰ میں، «فانّ الله هو الغنیّ الحمید» ضمیمه ٥٨٢ میں اور «وهو مؤمن» ضمیمه ٤١٠ میں هے.

۱۳۵- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ (٤ بار)

تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں جس نے۔

Praise be to Allah, Who.

الانعام ۱ - ابراهیم ۳۹ - الکهف ۱ اور سبا ۱ جبکه «وقالوا الحمد لله الذی» الاعراف ٤٣ - فاطر ٣٤ و الزمر ٧٤ میں اور «وقال الحمد لله الذی» النمل ۱۵ میں، «وقل الحمد لله الذی» الاسرآء ۱۱۱ میں اور «فقل الحمد لله الذی» المؤمنون ٢٨ میں آیا هے علاوه ازیں «الحمدُ لله» ضمیمه ۱ میں، «الحمد للّٰه ربّ العٰلمین» ضمیمه ۲ میں اور «الله الذی» ضمیمه ٤٥٧ میں هے.

۱۳٦- اَلَمْ یَرَوْا (٥ بار)

کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟

Do they not See?

الانعام ٦ - الاعراف ١٤٨ - النحل ٧٩ - النمل ٨٦ اور یٰسٓ ۳۱ جبکه «الم تروا» لقمان ۲۰ و نوح ۱۵ میں اور «الم یعلموا» التوبة ٦٣، ٧٨ و ١٠٤ میں آیا هے علاوه ازیں «الم تر» ضمیمه ٨٠ میں، «وان یروا» ضمیمه ١٤٠ میں، «اولم یروا» ضمیمه ۱۹۲ میں، «افلم یسیروا» ضمیمه ۱۰۳۲ میں، «فلم یستحیبوا لهم» ضمیمه ۱۰۵۷ میں اور «فان لّم تفعلوا» ضمیمه ۱۰۵۸ میں هے.

۱۳۷- لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَیْهِ (٦ بار)

ان پیغمبر پر (فرشتہ) کیوں نہ نازل ہوا۔

Why is not (an angel) sent down to him.

الانعام ٨ - یونس ۲۰ - هود ١٢ - الرعد ٧ و ٢٧ اور العنکبوت ٥٠ جبکه «لولآ انزل الیه» الفرقان ٧ میں اور «لولآ انزل علینا» الفرقان ۲۱ میں آیا هے علاوه ازیں «لولا نزل علیه آیة من ربه» الانعام ۳۷ میں، «لولا نزل علیه القرآن جملة وّاحدة» الفرقان ۳۲ میں، «لولا نزل هذا القرآن» الزخرف ۳۱ میں اور «لولا نزلت سورة» محمد ۲۰ میں هے نیز «لولا انزل علیه آیة من ربه» ضمیمه ۸۸۰ میں، «لولا ارسلت الینا رسولا» ضمیمه ۹۷۱ میں، «فلولا فضل الله علیکم» ضمیمه ۹٦۹ میں، «ولولا دفع الله الناس» ضمیمه ۹۷۲ میں اور «بما انزل الیك ومآ انزل من قبلك» ضمیمه ٦٨٥ میں هے.

۱۳۸- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا (٤ بار)

اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے۔

Who does more wrong than he who invents a lie against Allah.

الانعام ۲۱ و ۹۳ - هود ۱۸ اور العنکبوت ٦٨ جبکه «ومن اظلم ممّن افتری علی الله الکذب» الصف ٧ میں، «ومن اظلم ممّن مّنع مساجد الله» البقرة ١١٤ میں، «ومن اظلم ممّن کتم شهادة» البقرة ١٤٠ میں اور «ومن اظلم ممّن ذکّر بآیات ربّه» الکهف ٥٧ و السجدة ۲۲ میں آیا هے علاوه ازیں «فمنْ اظْلم ممّن افْترٰی علی الله کذبا» الانعام ١٤٤ - الاعراف ۳۷ - یونس ۱۷ اور الکهف ۱۵ میں، «فمن اظلم ممّن کذّب بآیات الله» الانعام ۱۵۷ میں اور «فمن اظلم ممّن کذّب علی الله» الزمر ۳۲ میں نیز «فمن افترٰی علی الله الکذب»

آل عمران ۹۴ میں، «فقد افتری اثما عظیما» النسآء ۴۸ میں اور «وقد خاب من افتری» طه ۶۱ میں ھے جبکه «ام یقولون افتراہ» ضمیمه ۱۸۲ میں، «یفترون علی اللّٰه الکذب» ضمیمه ۲۴۷ میں، «علی اللّٰه کذبا» ضمیمه ۲۵۸ میں اور «علی اللّٰه الکذب» ضمیمه ۲۶۰ میں ھے۔

۱۳۹- وَضَلَّ عَنۡهُمۡ مَّا كَانُوۡا يَفۡتَرُوۡنَ (۶ بار)

اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے، وہ سب غائب ہوگئیں۔

And the (lie) which they invented will leave them in the lunch.

الانعام ۲۴ - الاعراف ۵۳ - یونس ۳۰ - ھود ۲۱ - النحل ۸۷ اور القصص ۷۵ جبکه «وضلّ عنهم ما کانوا یدعون من قبل» حم السجدة ۴۸ میں اور «وضلّ عنکم ما کنتم تزعمون» الانعام ۹۴ میں آیا ھے علاوہ ازیں «ما کانوا یفترون» آل عمران ۲۴ میں، «وما کانوا یفترون» الاحقاف ۲۸ میں، «سیجزون بما کانوا یقترفون» الانعام ۱۲۰ میں ، «سیجزیهم بما کانوا یفترون» الانعام ۱۳۸ میں اور «وما یفترون» الانعام ۱۱۲ و ۱۳۷ میں، «ام علی اللّٰه تفترون» یونس ۵۹ میں، «تاللّٰه لتسئلن عما کنتم تفترون» النحل ۵۶ میں اور «ولیسئلن یوم القیامة عمّا کانوا یفترون» العنکبوت ۱۳ میں آیا ھے نیز «ما کانوا یعملون» ضمیمه ۱۲۹ میں، «بما کانوا یعملُون» ضمیمه ۱۵۲ میں، «لو کانوا یعلمون» ضمیمه ۴۶ میں، «ما کانوا بہٖ یستهزء ون» ضمیمه ۱۸۵ میں، «ما کانوا یکسبون» ضمیمه ۵۸۱ میں، «بما کانوا یکسبون» ضمیمه ۱۵۵ میں، «بما کانوا یفسقون» ضمیمه ۲۲۷ میں ، «وما کانوا مهتدین» ضمیمه ۱۰۱۰ میں، «ام یقولون افتراہ» ضمیمه ۱۸۲ میں اور «یفترون علی اللّٰه الکذب» ضمیمه ۲۴۷ میں ھے۔

۱۴۰- وَاِنۡ يَّرَوۡا (۶ بار)

اور اگر یہ (تمام نشانیاں بھی) دیکھ لیں۔

If they saw.

الانعام ۲۵ - الاعراف ۱۴۶، ۱۴۶ و ۱۴۶ - الطور ۴۴ اور القمر ۲ جبکه «الم یروا» ضمیمه ۱۳۶ میں، «اولم یروا» ضمیمه ۱۹۲ میں، «الم تر» ضمیمه ۸۰ میں اور «افلم یسیروا» ضمیمه ۱۰۳۲ میں ھے۔

۱۴۱- اِنۡ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيۡرُ الۡاَوَّلِيۡنَ (۴ بار)

کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔

These are nothing but tales of the ancients.

الانعام ۲۵ - الانفال ۳۱ - المؤمنون ۸۳ - اور النمل ۶۸ جبکه «فیقول ما هذا الّا اساطیر الاوّلین» الاحقاف ۱۷ میں، «قالوا اساطیر الاوّلین» النحل ۲۴ میں، «وقالوا اساطیر الاوّلین» الفرقان ۵ میں اور «قال اساطیر الاوّلین» القلم ۱۵ و المطففین ۱۳ میں آیا ھے علاوہ ازیں «ان هذا اِلّا سحر مّبین» ضمیمه ۱۳۱ میں اور «انّ هذا لساحر علیم» ضمیمه ۹۲۱ میں ھے۔

۱۴۲- وَلَوۡ تَرٰۤى اِذۡ وُقِفُوۡا (۲ بار)

کاش تم (ان کو اس وقت) دیکھو جب یہ کھڑے کیے جائیں گے۔

If you could but see when they are confronted.

الانعام ۲۷ اور ۳۰ جبکه «ولو تریٰ اذ الظّٰلمون» الانعام ۹۳ و سبا ۳۱ میں اور «ولو تریٰ اذ المجرمون» السجدة ۱۲ میں، «ولو تریٰ اذ یتوفّی الذین کفروا» الانفال ۵۰ میں، «ولو تری اذ فزعوا» سبا ۵۱ میں،

«لا ترٰی فیها عوجا» طه ۱۰۷ میں اور «لا ترونهم» الاعراف ۲۷ میں ہے علاوہ ازیں «ولوشآء الله» ضمیمه ۱۴ میں، «ولولا فضل الله علیکم ورحمته» ضمیمه ۱۲۳ میں، «ولولا کلمة سبقت من ربك» ضمیمه ۱۸۱ میں، «ولو کره الکافرون» ضمیمه ۶۲۷ میں، «ولوانّهم آمنوا» ضمیمه ۹۳۲ میں، «ولو کان ذا قربٰی» ضمیمه ۹۳۴ میں اور «فترى الودق» ضمیمه ۹۷۸ میں ہے.

۱۴۳۔ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (۹ بار) اور لیکن ان لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔

But most of them know not.

الانعام ۳۷۔ الاعراف ۱۳۱۔ الانفال ۳۴۔ یونس ۵۵۔ القصص ۱۳ و ۵۷۔ الزمر ۴۹۔ الدخان ۳۹ اور الطور ۴۷ جبکه «ولکنّ اکثرهم لا یشکرون» یونس ۶۰ و النمل ۷۳ میں اور «ولا تجد اکثرهم شاکرین» الاعراف ۱۷ میں، «ولکنّ اکثرهم یجهلون» الانعام ۱۱۱ میں اور «ولکنّ اکثرکم للحق کارهون» الزخرف ۷۸ میں ہے خیال رہے که «ولکنّ اکثرهم لا یؤمنون» کہیں نہیں آیا ہے علاوہ ازیں «ولکنّ اکثر النّاس لا یعلمون» ضمیمه ۱۷۲ میں، «بل اکثرهم لا یعلمون» ضمیمه ۱۹۹ میں، «ولکنّ الله» ضمیمه ۸۵۱ میں، «ولکن لّا یشعرون» ضمیمه ۹۱۶ میں، «ولکن کانوا انفسهم یظلمون» ضمیمه ۳۵ میں، «وما کان اکثرهم مؤمنین» ضمیمه ۲۰۵ میں اور «لا یعلمون» ضمیمه ۸۲۸ میں ہے.

۱۴۴۔ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا (۵ بار) اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔

Those who reject our signs.

الانعام ۳۹ و ۴۹ اور الاعراف ۳۶، ۱۴۷ و ۱۸۲ جبکه «والذین من قبلهم کذّبوا بآیاتنا» آل عمران ۱۱ میں اور «کذّبوا بآیاتنا» الاعراف ۱۳۶ و ۱۴۶ و القمر ۴۲ میں آیا ہے علاوہ ازیں «والذین کفروا وکذّبوا بآیاتنا» ضمیمه ۲۶ میں، «الذین کذّ بوا بآیاتنا» ضمیمه ۷۸۵ میں اور «فی آیاتنا» ضمیمه ۹۷۳ میں ہے.

۱۴۵۔ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (۶ بار) سیدھے راستے پر

On the way that is straight.

الانعام ۳۹۔ هود ۵۶۔ النحل ۷۶۔ یٰسٓ ۴۔ الزخرف ۴۳ اور الملك ۲۲ جبکه «الی صراطٍ مستقیم» ضمیمه ۵۶ میں اور «هذا صراط مستقیم» ضمیمه ۱۰۰ میں ہے.

۱۴۶۔ قُلْ اَرَءَيْتُمْ (۱۱ بار) کہو کہ بھلا دیکھو۔

Say, :" Do you imagined.

الانعام ۴۶۔ یونس ۵۰ و ۵۹۔ القصص ۷۱ و ۷۲۔ فاطر ۴۰۔ حم السجدة ۵۲۔ الاحقاف ۴ و ۱۰ اور الملك ۲۸ و ۳۰ جبکه «قل اریٔتکم» الانعام ۴۰ و ۴۷ میں، «قال یا قوم اریٔتم» هود ۲۸، ۶۳ و ۸۸ میں، «قال اریٔتك» الاسرآء ۶۲ میں، «قال افریٔتم» الشعرآء ۷۵ میں، «قل اَفَرَءَیتُم» الزمر ۳۸ میں، «افریٔتم» النجم ۱۹ اور الواقعة ۵۸، ۶۳، ۶۸ و ۷۱ میں، «افریٔت الذی» مریم ۷۷ و النجم ۳۳ میں اور «افریٔت» الشعرآء ۲۰۵ و الجاثیة ۲۳ میں آیا ہے علاوہ ازیں «حتی اذا راَوا ما یوعدون» ضمیمه ۴۸۳ میں اور «فلما رءا» ضمیمه ۹۳۳ میں ہے.

۱۴۷۔ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ (۶ بار) تم پر سلامتی ہو۔
Peace be on you.

الا نعام ۵۴ ۔ الاعراف ۴۶ ۔ الرعد ۲۴ ۔ النحل ۳۲ ۔ القصص ۵۵ اور الزمر ۷۳ جبکہ «فقل سلام علیکم» الانعام ۵۴ میں، «قال سلام علیك» مریم ۴۷ میں، «قال سلامٌ» ھود ۶۹ و الذاریات ۲۵ میں، «وقل سلام» الزخرف ۸۹ میں، «قالوا سلاما» ھود ۶۹ و الفرقان ۶۳ میں، «فقالوا سلاما» الحجر ۵۲ و الذاریات ۲۵ میں، «اِلّا سلامًا» مریم ۶۲ میں اور «اِلّا قیلا سلامًا سلامًا» الوا قعة ۲۶ میں آیا ھے علاوہ ازیں «وسلامٌ علیٰ عبادہ الذین اصطفٰی» النمل ۵۹ میں اور «وسلام علی المرسلین» الصآفات ۱۸۱ میں، «سلامٌ علی نوح فی العالمین» الصآفات ۷۹ میں، «سلام علیٰ ابراھیم» الصآفات ۱۰۹ میں اور «وسلا مًا علی ابراھیم» الا نبیآء ۶۹ میں، «سلام علی موسٰی وھارون» الصآفات ۱۲۰ میں اور «سلام علیٰ ال یاسین» الصآفات ۱۳۰ میں، «سلامٌ قولًا من رّبّ رّحیم» یٰسٓ ۵۸ میں، «فسلام لّك من اصحاب الیمین» الوا قعة ۹۱ میں اور «سلامٌ ھِیَ حتّٰی مطلع الفجر» القد ر ۵ میں، «وتحیّتھم فیھا سلام» یونس ۱۰ میں، «تحیّتھم فیھا سلام» ابراھیم ۲۳ میں، «تحیّتھم یوم یلقونه سلام» الاحزاب ۴۴ میں اور «ویلقّون فیھا تحیّةً وّسلا مًا» الفرقان ۷۵ میں، «وسلام علیه» مریم ۱۵ میں، «والسّلام علیّ» مریم ۳۳ میں اور «والسّلام علیٰ من اتّبع الھدٰی» طه ۴۷ میں ھے۔

۱۴۸۔ فِیْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (۵ بار) کتاب روشن میں۔ (Inscribed) In a clear Record.

الانعام ۵۹ ۔ یونس ۶۱ ۔ ھود ۶ ۔ النمل ۷۵ اور سبا ۳ جبکہ «فی کتابٍ مکنون» الواقعة ۷۸ میں اور «الّا فی کتاب» فاطر ۱۱ و الحدید ۲۲ میں ھے علاوہ ازیں «وَکتابٌ مّبین» المآئدة ۱۵ میں، «وَکتابٍ مّبین» النمل ۱ میں ، «وکتاب مّسطور» الطور ۲ میں، «وقرآنٍ مّبین» الحجر ۱ میں اور «وقرآنٌ مّبین» یٰسٓ ۶۹ میں آیا ھے نیز «فی کتاب اللّٰه» ضمیمہ ۸۲۷ میں، «فی ھذا القرآن» ضمیمہ ۸۳۸ میں، «لفی ضلالٍ مّبین» ضمیمہ ۱۱۳ میں اور «فی ضلالٍ مّبین» ضمیمہ ۱۵۰ میں ھے۔

۱۴۹۔ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (۵ بار) وہ جاننے والا ہے، پوشیدہ باتوں کا اور ظاہر چیزوں کا۔
He knows the unseen as well as that which is open.

الانعام ۷۳ ۔ الرعد ۹ ۔ السجدة ۶ ۔ الحشر ۲۲ اور التغابن ۱۸ جبکہ «عالمِ الغیب والشّھادة» التوبة ۹۴ و ۱۰۵ ۔ المؤمنون ۹۲ و الجمعة ۸ میں، «عالمَ الغیب والشّھَادة» الزمر ۴۶ میں، «عالمِ الغیب» سبا ۳ میں اور «عالمُ الغیبِ» الجن ۲۶ میں اور «علی الغیب» آل عمران ۱۷۹ و التکویر ۲۴ میں نیز «واقوم للشھادة» البقرة ۲۸۲ میں اور «ان یأتوا بالشھادة» المآئدة ۱۰۸ میں آیا ھے علاوہ ازیں «وللّٰه غیب السمٰوٰت والارض» ضمیمہ ۵۶۱ میں ھے۔

۱۵۰۔ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (۱۳ بار) صریح گمراہی میں۔ In manifest error.

الانعام ۷۴ ۔ الاعراف ۶۰ ۔ یوسف ۳۰ ۔ مریم ۳۸ ۔ الانبیآء ۵۴ ۔ القصص ۸۵ ۔ لقمان ۱۱ ۔ سبا ۲۴ ۔ یٰسٓ ۴۷ ۔ الزمر ۲۲ ۔ الزخرف ۴۰ ۔ الاحقاف ۳۲ اور الملك ۲۹ جبکہ «فی ضلال بعید» ابراھیم ۳ و قٓ ۲۷ میں، «لفی ضلال بعید» الشورٰی ۱۸ میں، «فی ضلال وّسعر» القمر ۴۷ میں، «فی ضلال کبیر» الملك ۹ میں، «الّا فی ضلال» الرعد ۱۴ ۔ المؤمن ۲۵ و ۵۰ اور یٰسٓ ۴۷ میں، «الّا الضلال» یونس ۳۲ میں اور

«فقد ضلّ ضلا لا مّبینا» الاحزاب ۳٦ میں آیا ہے علاوہ ازیں «لفی ضلالٍ مّبین» ضمیمه ۱۱۳ میں اور «فی کتاب مّبین» ضمیمه ۱٤۸ میں ہے۔

۱۵۱۔ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ (٦ بار) یہ ہے اللہ تمہارا رب۔

That is Allah, your Lord.

الانعام ۱۰۲۔ یونس ۳۔ فاطر ۱۳۔ الزمر ٦ اور المؤمن ٦۲ و ٦٤ جبکه «ذلکم الله» الانعام ۹۵ میں، «ذلکم الله ربّی» الشوریٰ ۱۰ میں، «فذلکم الله ربکم الحق» یونس ۳۲ میں، «قال هذا ربّی» الانعام ۷٦، ۷۷ و ۷۸ میں، «وهو ربنا وربّکم» البقرة ۱۳۹ میں، «هو ربّکم» هود ۳٤ میں، «هو ربّی وربّکم» الزخرف ٦٤ میں اور «ذلکم الله ربکم لهُ الملك» ضمیمه ٦٦۵ میں ہے۔

۱۵۲۔ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۱۰ بار) جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔

The truth of all that they did.

الانعام ۱۰۸ و ۱۲۷۔ یوسف ٦۹۔ النور ۲٤۔ الشعرآء ۱۱۲۔ السجدة ۱۷ و ۱۹۔ حم السجدة ۲۰۔ الاحقاف ۱٤ اور الواقعة ۲٤ جبکه «بما کانوا یفعلون» الانعام ۱۵۹ و هود ۳٦ میں اور «ما کانوا یفعلون» المآئدة ۷۹ و المطففین ۳٦ میں آیا ہے نیز «ما کانوا یعملون» ضمیمه ۱۲۹ میں، «لو کانوا یعلمون» ضمیمه ٤٦ میں، «ما کانوا یفترون» ضمیمه ۱۳۹ میں، «ما کانوا به یستهزء ون» ضمیمه ۱۸۵ میں، «ما کانوا یکسبون» ضمیمه ۵۸۱ میں، «بما کانوا یکسبون» ضمیمه ۱۵۵ میں، «بما کانوا یفسقون» ضمیمه ۲۲۷ میں اور «وما کانوا مهتدین» ضمیمه ۱۰۱۰ میں ہے۔

۱۵۳۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ (۵ بار) بیشک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے۔

Your Lord knows best.

الانعام ۱۱۷ و ۱۱۹۔ النحل ۱۲۵۔ النجم ۳۰ اور القلم ۷ جبکه «وربك اعلم» یونس ٤۰ و الاسرآء ۵۵ میں، «ربکم اعلم» الاسرآء ۲۵ و ۵٤ اور الکهف ۱۹ میں، «فربکم اعلم» الاسرآء ۸٤ میں، «ربهم اعلم» الکهف ۲۱ میں، «ربّی اعلم» الکهف ۲۲۔ الشعرآء ۱۸۸۔ القصص ۳۷ و ۸۵ میں، «هو اعلم» الاحقاف ۸ و النجم ۳۲ و ۳۲ میں اور «وانا اعلم» الممتحنة ۱ میں آیا ہے علاوہ ازیں «اِنّ ربك» ضمیمه ٤۵۱ میں، «وانّ ربك لهو العزیز الرحیم» ضمیمه ۲۰٦ میں، «وربّك» ضمیمه ٤۵۲ میں، «اِنّ ربّی» ضمیمه ٤۵۰ میں، «والله اعلم» ضمیمه ۳۲۰ میں، «والله یعلم» ضمیمه ۲۵۰ میں، «اِنّ الله یعلم» ضمیمه ۸۵٦ میں، «اَنّ الله یعلم» ضمیمه ۲٤۹ میں، «وهو السّمیع العلیم» ضمیمه ۵۵ میں، «وهو العلیّ العظیم» ضمیمه ۵٦۹ میں، «وهو علی کل شیءٍ قدیر» ضمیمه ۱۳٤ میں، «وهو اللّطیف الخبیر» ضمیمه ٦٤٤ میں، «وهو بکل شیء علیم» ضمیمه ۷۵٤ میں، «وهو اعلم بالمهتدین» ضمیمه ۷۰۱ میں، «فهو خیر لکم» ضمیمه ۱۰۵۲ میں، «وهو الذی انشأ جنّٰت» ضمیمه ٦۸۸ میں، «هو الذی خلقکم» ضمیمه ٤٦٦ میں، «هو الذی ارسل رسوله» ضمیمه ۷٤۲ میں، «هو الذی یریکم» ضمیمه ۷٤۰ میں، «الله الذی» ضمیمه ٤۵۷ میں، «ان ربکم الله الذی» ضمیمه ۱۰٤٦ میں، «هو الحق» ضمیمه ۳۰۲ میں، «اِنّه هو السّمیع العلیم» ضمیمه ۱۷۵ میں، «اِنّه هو التوّاب الرّحیم» ضمیمه ٤۲٦ میں، «انّه هو الغفور الرحیم» ضمیمه ۳۷۲ میں، «لآ اله الّا هو ط» ضمیمه ۵۹ میں، «قل هو ط» ضمیمه ۸۵٤ میں، «ان هو الّا ذکر للعالمین» ضمیمه ٤۲۰ میں، «وما هو بمزحزحه» ضمیمه ۹۲۰ میں اور «فانّ الله هو الغنیّ الحمید» ضمیمه ۵۸۲ میں نیز «وهو مؤمن» ضمیمه ٤۱۰ میں ہے۔

۱۵٤۔ مَاشَآءَ اللّٰهُ (۵ بار)

جو اللہ چاہے۔
As Allah wills.

الانعام ۱۲۸۔ الاعراف ۱۸۸۔ یونس ٤۹۔ الکهف ۳۹ اور الاعلی ۷ جبکہ «ما شآء ربك» هود ۱۰۷ و ۱۰۸ میں، «ما شآ رکّبك» الانفطار ۸ میں اور «ما نشآء» هود ۸۷۔ الاسرآء ۱۸ و الحج ۵ میں آیا هے علاوہ ازیں «ان شآء اللّٰه» ضمیمه ۳۹ میں، «ولوشآء اللّٰه» ضمیمه ۱٤ میں، «الّا ان یشآء اللّٰه» ضمیمه ۲۳۷ میں، «ویهدی من یشآء» ضمیمه ۲۵٦ میں، «فمن شآء اتخذ» ضمیمه ۷۸٤ میں اور «ان یشأ یذهبکم» ضمیمه ۸۸۳ میں نیز «الحمد للّٰه» ضمیمه ۱ میں، «الحمد للّٰه ربّ العالمین» ضمیمه ۲ میں، «الحمد للّٰه الذی» ضمیمه ۱۳۵ میں، «سبحان اللّٰه» ضمیمه ۲٤۵ میں اور «واستغفروا اللّٰه» ضمیمه ۵۸۰ میں هے۔

۱۵۵۔ بِمَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ (۸ بار)

جو کچھ انہوں نے کمایا۔
Because of what they earn.

الانعام ۱۲۹۔ الاعراف ۹٦۔ التوبة ۸۲ و ۹۵۔ یونس ۸۔ یٰسٓ ٦۵۔ حم السجدة ۱۷ اور الجاثیة ۱٤ جبکه «ومن یکسب اثمًا» النسآء ۱۱۱ میں اور «ومن یکسب خطیٓئة» النسآء ۱۱۲ میں، «ممّا یکسبون» البقرة ۷۹ میں اور «یکسبون الا ثم» الانعام ۱۲۰ میں، «ولا تکسب کل نفس الا علیها» الانعام ۱٦٤ میں، «یعلم ما تکسب کل نفس» الرعد ٤۲ میں اور «وما تدری نفس مّاذا تکسب غدا» لقمان ۳٤ میں آیا هے علاوہ ازیں «ما کانوا یکسبون» ضمیمه ۵۸۱ میں، «بما کانوا یفسقون» ضمیمه ۲۲۷ میں، «بما کانوا یعملُون» ضمیمه ۱۵۲ میں، «ما کانوا یعملون» ضمیمه ۱۲۹ میں، «لوکانوا یعلمون» ضمیمه ٤٦ میں، «ما کانوا یفترون» ضمیمه ۱۳۹ میں، «ما کانوا بهٖ یستهزء ون» ضمیمه ۱۸۵ میں، «وما کانوا مهتدین» ضمیمه ۱۰۱۰ میں اور «ما کسبوا» ضمیمه ٦۲۸ میں هے۔

۱۵٦۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (٦ بار)

سو تم عنقریب جان لو گے۔
Soon will you know.

الانعام ۱۳۵۔ الاعراف ۱۲۳۔ هود ۳۹۔ النحل ۵۵۔ الروم ۳٤ اور الزمر ۳۹ جبکه «وسوف تعلَمون» الانعام ٦۷ میں، «سوف تعلَمون» هود ۹۳ و التکاثر ۳ و ٤ میں اور «فلسوف تعلَمون» الشعرآء ٤۹ میں آیا هے علاوہ ازیں «فسوف یعلمون» ضمیمه ۱۹٦ میں اور «فسوف نؤتیه اجرًا عظیما» ضمیمه ۹٤۳ میں هے۔

۱۵۷۔ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُوْنَ (٦ بار)

تا کہ تم یاد رکھو۔
That you may remember.

الانعام ۱۵۲۔ الاعراف ۵۷۔ النحل ۹۰۔ النور ۱ و ۲۷ اور الذاریات ٤۹ جبکه «الّا تذکرة لّمن یّخشی» طه ۳ میں اور «وانه لتذکرة لّلمتقین» الحآقة ٤۸ میں، «نحن جعلناها تذکرة» الواقعة ۷۳ میں اور «لنجعلها لکم تذکرة» الحآقة ۱۲ میں، «انّ هذهٖ تذکرة» المزمل ۱۹ و الدهر ۲۹ میں، «کلّآ انّه تذکرة» المدثر ۵٤ میں اور «کلّآ انّها تذکرة» عبس ۱۱ میں، «تذکّروا» الاعراف ۲۰۱ میں، «فستذکرون» المؤمن ٤٤ میں اور «ثم تذکروا» الزخرف ۱۳ میں آیا هے علاوہ ازیں «لعلهم یتذکرون» ضمیمه ۷۳ میں اور «افلا تذکرون» ضمیمه ۱۸۰ میں، «لعلکم تشکرون» ضمیمه ۳۲ میں، «لعلکم تهتدون» ضمیمه ۳۳ میں، «لعلهم یتقون» ضمیمه ٦۳ میں، «لعلهم یرجعون» ضمیمه ۱۰٤ میں اور «لعلّکم تتفکرون» و تفصیلی معلومات ضمیمه ۷۸۳ میں.

۱۵۸۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى (٤ بار) اور کوئی شخص کسی (کے گناہ) کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

No bearer of burdens can bear the burden of another.

الانعام ١٦٤۔ الاسرآء ١٥۔ فاطر ١٨۔ الزمر ٧ جبکہ «الّا تزروازرة وّزراخرٰى» النجم ٣٨ میں ھے۔

۱۵۹۔ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ (٥ بار) سوائے اسکے دوستوں کی۔

As friends or protectors, other than Him.

الاعراف ٣۔ الرعد ١٦۔ الزمر ٣ اور الشورٰى ٦ و ٩ جبکہ «من دُونهٖ اولیآءَ» «ءَ» کے پیش کیساتھ الاحقاف ٣٢ میں، «من دُونی اولیآءَ» الکهف ١٠٢ میں، «من دونی وکیلا» الاسرآء ٢ میں، «اولیآء من دونی» الکهف ٥٠ میں اور «اولیآء من دونهٖ» الاسرآء ٩٧ میں، «من دونهٖ اِلٰهًا» الکهف ١٤ میں، «من دونهٖ آلهة» الکهف ١٥۔ الانبیآء ٢٤۔ الفرقان ٣ و یٰسٓ ٢٣ میں، «من دون الله آلهة» مریم ٨١ و یٰسٓ ٧٤ میں، «من دون الله من اولیآء» هود ٢٠ و ١١٣ میں، «من دون الله اولیآء» العنکبوت ٤١ و الجاثیة ١٠ میں، «وما کان لهم من اولیآء» الشورٰى ٤٦ میں، «من دونك من اولیآء» الفرقان ١٨ میں، «من دونك» النحل ٨٦ میں، «من دونهٖ ولیّ ولا شفیع» الانعام ٥١ میں، «من دونهٖ من ولیّ ولا شفیع» السجدة ٤ میں اور «من دونهٖ من وّلیّ» الکهف ٢٦ میں، «من دونها» الکهف ٩٠ میں، «من دونهما» الکهف ٩٣ میں، «ومن دونهما» الرحمٰن ٦٢ میں اور «من دونهم» الانفال ٦٠۔ مریم ١٧۔ القصص ٢٣ و سبا ٤١ میں آیا ھے علاوہ ازیں «من دون الله» ضمیمه ١٩ میں، «ومالکم من دون الله من وّلیّ وّلا نصیر» ضمیمه ٢٤٣ میں، «والذین تدعون من دونهٖ» ضمیمه ٣٧٧ میں، «الذین تدعون من دون الله» ضمیمه ٣٧٨ میں، «من دون المؤمنین» ضمیمه ٧٨٩ میں، «ویعبدون من دون الله» ضمیمه ٧٩٠ میں اور «ما دون ذلك» ضمیمه ١٠٢١ میں ھے۔

۱۶۰۔ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (٧ بار) خالص اسکے فرماں بردار ہوکر۔

Making your devotion sincere.

الاعراف ٢٩۔ یونس ٢٢۔ العنکبوت ٦٥۔ لقمان ٣٢۔ المؤمن ١٤ و ٦٥ اور البینة ٥ جبکہ «مخلصا لّهُ الدّینَ» الزمر ٢ و ١١ میں، «مخلصا لّه دینی» الزمر ١٤ میں، «واَخلصوا دینهم لله» النسآء ١٤٦ میں، «وله الدّین واصبا» النحل ٥٢ میں، «اِنّ الله اصطفٰى لکمُ الدّین» البقرة ١٣٢ میں، «انّ الدّین عند الله الاسلام» آل عمران ١٩ میں، «وانّ الدّین لواقع» الذاریات ٦ میں اور «ان کنتم فی شكّ مّن دینی» یونس ١٠٤ میں آیا ھے۔

۱۶۱۔ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ (٦ بار) جنّات میں سے اور انسانوں میں سے۔

Of the jinns and humankind.

الاعراف ٣٨ و ١٧٩۔ النمل ١٧۔ حم السجدة ٢٥ و ٢٩ اور الاحقاف ١٨ جبکہ «من الجِنّة والنّاس» هود ١١٩۔ السجدة ١٣ اور النّاس ٦ میں، «یا معشر الجنّ والانس» الانعام ١٣٠ و الرحمٰن ٣٣ میں، «یا معشر الجنّ قد استکثرتم من الانس» الانعام ١٢٨ میں، «من الانس یعوذون برجالٍ من الجنّ» الجن ٦ میں، «وما خلقت الجنّ والانس» الذاریات ٥٦ میں، «شیاطین الجنّ والانس» الانعام ١١٢ میں اور «الانسُ والجنُّ» الاسرآء ٨٨ و الجن ٥ میں آیا ھے علاوہ ازیں «من الجنّ» الکهف ٥٠۔ النمل ٣٩۔ الاحقاف ٢٩ اور الجن ١ و ٦ میں نیز «ومن الجنّ» سبا ١٢ میں ھے۔

۱٦٢- ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ (٦ بار) پھر عرش پر قائم ہوا۔

Then He settled Himsef on the Throne (of authority).

الاعراف ٥٤ ۔ یونس ٣ ۔ الرعد ٢ ۔ الفرقان ٥٩ ۔ السجدۃ ٤ اور الحدید ٤ جبکہ « ثم استوٰی الی السمآء » البقرۃ ٢٩ و حم السجدۃ ١١ میں، « الرّحمٰن علی العرش استوٰی » طٰه ٥ میں اور « ورفع ابویه علی العرش » یوسف ١٠٠ میں آیا نیز « واستوت علی الجودیّ » ھود ٤٤ میں، « واستوٰی » القصص ١٤ میں اور « فاستوٰی » الفتح ٢٩ و النجم ٦ میں ھے۔

۱٦٣- مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ (٩ بار) اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔

You have no other god but Him.

الاعراف ٥٩، ٦٥، ٧٣ و ٨٥ ۔ ھود ٥٠، ٦١ و ٨٤ اور المؤمنون ٢٣ و ٣٢ جبکہ « مالکم من وّلایتهم من شیء » الانفال ٧٢ میں، « مالکم اذا قیل لکم انفروا » التوبة ٣٨ میں، « مالکم من زوال » ابراھیم ٤٤ میں، « مالکم من دونهٖ من وّلیّ ولا شفیع » السجدۃ ٤ میں، « مالکم لا تناصرون » الصآفات ٢٥ میں، « مالکم لا تنطقون » الصآفات ٩٢ میں، « مالکم کیف تحکمون » الصآفات ١٥٤ و القلم ٣٦ میں، « ما لکم مّن اللّٰه من عاصم » المؤمن ٣٣ میں، « مالکم من مّلجاٍ یّومئذٍ » الشورٰی ٤٧ میں اور « مالکم لا ترجون للّٰه وقارا » نوح ١٣ میں آیا ھے علاوہ ازیں « وما لکم من دون اللّٰه من وّلیّ وّلا نصیر » ضمیمہ ٢٤٣ میں، « وما لکم من ناصرین » ضمیمہ ٩٣٦ میں، « وما لھم من ناصرین » ضمیمہ ٩٧ میں، « وما لنا الّا نقاتل فی سبیل اللّٰه » ضمیمہ ٩٤٨ میں، « ءَاله مّع اللّٰه » ضمیمہ ٢١١ میں اور « من اله غیر اللّٰه » ضمیمہ ٩٣٧ میں ھے۔

۱٦٤- قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ (٦ بار) انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو۔

He said: O my people! Worship Allah.

الاعراف ٦٥، ٧٣ و ٨٥ اور ھود ٥٠، ٦١ و ٨٤ جبکہ « فقال یا قوم اعبدوا اللّٰه » الاعراف ٥٩ ۔ المؤمنون ٢٣ و العنکبوت ٣٦ میں، « واعبدوا اللّٰه » النسآء ٣٦ میں، « اُعبدوا اللّٰه » المآئدۃ ٧٢ و العنکبوت ١٦ میں، « اَنِ اعبُدوا اللّٰه » المآئدۃ ١١٧ ۔ النحل ٣٦ ۔ المؤمنون ٣٢ ۔ النمل ٤٥ و نوح ٣ میں، « ولکن اَعبدُ اللّٰه الذی » یونس ١٠٤ میں، « ان اَعبدَ اللّٰه » الرعد ٣٦ و الزمر ١١ میں، « اَن اَعبدَ الذین » الانعام ٥٦ و المؤمن ٦٦ میں اور « فلا اَعبدُ الذین » یونس ١٠٤ میں ھے علاوہ ازیں « قال یاقوم » ضمیمہ ٣٧٤ میں اور « یا قوم » ضمیمہ ١٠٤٤ میں، « ما تعبدون » ضمیمہ ٥٤٢ میں، « فاعبدوہ » ضمیمہ ٥٤٣ میں اور « اِن کنتم ایّاہ تعبدون » ضمیمہ ٨٤٥ میں ھے۔

۱٦٥- اَفَلَا تَتَّقُوْنَ (٥ بار) سو کیا تم ڈرتے نہیں؟

Will you not fear (Allah) ?

الاعراف ٦٥ ۔ یونس ٣١ اور المؤمنون ٢٣، ٣٢ و ٨٧ جبکہ « افغیر اللّٰه تتقون » النحل ٥٢ میں، « افمن یّتقی » الزمر ٢٤ میں اور « فکیف تتقون » المزمل ١٧ میں آیا ھے علاوہ ازیں « افلا تعقلون » ضمیمہ ٣١ میں، « افلا تذکرون » ضمیمہ ١٨٠ میں، « الا تتّقون » ضمیمہ ٢٠٧ میں اور « اَغیر اللّٰه » ضمیمہ ٨٦٦ میں ھے۔

۱٦٦۔ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (۹ بار) تم اگر سچے ہو۔

If so be that you tell the truth.

الاعراف ۷۰ و ۱۰٦ ۔ ھود ۳۲ ۔ الحجر ۷ ۔ الشعرآء ۳۱، ۱۵٤ و ۱۸۷ ۔ العنکبوت ۲۹ اور الاحقاف ۲۲ جبکہ « اِن کان من الصّٰدقین » النور ۹ میں، « ان کان من الکاذبین » النور ۷ میں، « ان کانوا صادقین » الطور ۳٤ و القلم ٤۱ میں، « ان کنت من المرسلین » الاعراف ۷۷ میں، « ان کنت جئت بآیة » الاعراف ۱۰٦ میں، « وان کنت من قبلہٖ لمن الغافلین » یوسف ۳ میں، « ان کنت تقیًا » مریم ۱۸ میں، « ام کنت من الکاذبین » النمل ۲۷ میں اور « ام کنت من العالین » صٓ ۷۵ میں آیا ہے علاوہ ازیں « وھو من الکاذبین » یوسف ۲٦ میں، « وھو من الصّادقین » یوسف ۲۷ میں، « وا نّہ لمن الصّادقین » یوسف ۵۱ میں اور « ا نّہ لمن الصّادقین » النور ٦ میں نیز « ان کنتم صادقین » ضمیمہ ۲۰ میں ، « ان کنتم مؤمنین » ضمیمہ ٤۵ میں، « ان کنتم تعلمون » ضمیمہ ٦۲ میں، « ان کنتم فاعلین » ضمیمہ ۵۹۷ میں، « وإن کنتم » ضمیمہ ۵۹۸ میں، « إن کنتُ » ضمیمہ ۷۹۵ میں، « وما کنتَ » ضمیمہ ۷۹٤ میں، « وان کنتم مرضی » ضمیمہ ۸۸۵ میں اور « این ما کنتم » ضمیمہ ۸۳۵ میں ہے۔

۱٦۷۔ فَانْظُرْ كَيْفَ (۹ بار) پس دیکھ لو کہ کیسا۔

Then see what.

الاعراف ۸٤ و ۱۰۳ ۔ یونس ۳۹ و ۷۳ ۔ النمل ۱٤ و ۵۱ ۔ القصص ٤۰ ۔ الصآفات ۷۳ اور الزخرف ۲۵ جبکہ « فینظرَ کیف تعملون » الاعراف ۱۲۹ میں اور « لننظر کیف تعملون » یونس ۱٤ میں، « فانظر الیٰ طعامك » البقرة ۲۵۹ میں، « فانظر الیٰ آثار رحمت اللّٰہ » الروم ۵۰ میں اور « فلیَنظر الانسان الیٰ طعامه » عبس ۲٤ میں، « وانظر الی حمارك » اور « وانظر الی العظام » البقرة ۲۵۹ میں، « وانظر الیٰ الٰھك » طه ۹۷ میں اور « ولکن انظر الی الجبل » الاعراف ۱٤۳ میں، « اُنظروا الی ثمرہٖ » الانعام ۹۹ میں اور « اُنظرونا نقتبس من نورکم » الحدید ۱۳ میں، « قال اَنظرنی الیٰ یومِ یبعثون » الاعراف ۱٤ میں، « قال ربِّ فاَنظرنی الی یوم یبعثون » الحجر ۳٦ و صٓ ۷۹ میں، « قل انظروا ماذا فی السمٰوٰت والارض » یونس ۱۰۱ میں، « فانظر ماذا یرجعون » النمل ۲۸ میں، « فانظر ماذا ترٰی » الصآفات ۱۰۲ میں اور « فانظری ماذا تأمرین » النمل ۳۳ میں آیا ہے علاوہ ازیں « انظر کیف » ضمیمہ ۱۲۰ میں، « فانظروا کیف کان » ضمیمہ ۹۰۳ میں، « فینظروا کیف کان » ضمیمہ ۲۲۷ میں، « کیف کان عاقبة المکذّبین » ضمیمہ ۳۰۱ میں، « فکیف کان » ضمیمہ ۱۹۱ میں، « فکیف کان عذابی ونذر » ضمیمہ ۱۰۱٤ میں، « فکیف کان نکیر » ضمیمہ ۷۸۰ میں اور « کیف یشآء » ضمیمہ ۷۸۱ میں ہے۔

۱٦۸۔ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (۵ بار) ناگہاں (اچانک پکڑ لیا) اور انہیں خبر بھی نہ تھی۔

A sudden, while they realised not (their peril).

الاعراف ۹۵ ۔ یوسف ۱۰۷ ۔ الشعرآء ۲۰۲ ۔ العنکبوت ۵۳ اور الزخرف ٦٦ جبکہ « بغتة وّانتم لا تشعرون » الزمر ۵۵ میں اور « وانتم لا تشعرون » الحجرات ۲ میں ہے علاوہ ازیں « وھُم لا یشعرُون » ضمیمہ ۱٦۹ میں، « وھم یخلقون » ضمیمہ ۷۸۸ میں اور « وما یشعرون » ضمیمہ ۱۰٤۲ میں ہے۔

۱۶۹- وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (۱۰ بار) اوران کوخبر بھی نہ تھی ۔
While they realised not (their peril) .

الاعراف ۹۵ - یوسف ۱۵ و ۱۰۷ - الشعرآء ۲۰۲ - النمل ۱۸ و ۵۰ - القصص ۹ و ۱۱ - العنکبوت ۵۳ اور الزخرف ٦٦ جبکه « ولکن لّا یشعرون » البقرة ۱۲ میں، « ولکن لّا تشعرون » البقرة ۱۵٤ میں، « من حیث لا یشعرون » النحل ٢٦ و ٤٥ و الزمر ٢٥ میں، « بل لا یشعرون » المؤمنون ٥٦ میں اور « وانتم لا تشعرون » الزمر ٥٥ و الحجرات ٢ میں آیا ھے علاوہ ازیں « بغتة وهم لا یشعرون » ضمیمه ١٦٨ میں، « وما یشعرون » ضمیمه ١٠٤٢ میں، « وهم لا یظلمون » ضمیمه ٢٦١ میں، « فهم لا یؤمنون » ضمیمه ٧٥١ میں، « وهم یخلقون » ضمیمه ٧٨٨ میں ، « ولا هم ینصرون » ضمیمه ٢٩١ میں، « ولا هم ینظرون » ضمیمه ٢٩٢ میں ، « ولا هم یحزنون » ضمیمه ٤٤٣ میں ، « وهم یعلمون» ضمیمه ٢٥٩ میں ، « وهم بالآخرة هم کافرون» ضمیمه ٢٨٠ میں ، « وهم معرضون» ضمیمه ٣٨٤ میں ، « وهم کفّار» ضمیمه ٦٦٨ میں ، « وهم مهتدون» ضمیمه ٧٠٠ میں ، « والذین هم علیٰ صلوتهم یحافظون» ضمیمه ٥٢٦ میں ، « فهم یوزعون » ضمیمه ١٠٤٨ میں ، « وان هم الّا یخرصون» ضمیمه ٩٨٠ میں ، « اذا هم ینکثون» ضمیمه ١٠٢٠ میں ، « وما هم بمؤمنین » ضمیمه ١٠٤٧ میں ، « واولّٰئك هم المفلحون» ضمیمه ٦ میں ، « فاولّٰئك هم الظّٰلمون» ضمیمه ٧٧ میں ، « اولّٰئك هم الخسرون » ضمیمه ٤٦١ میں اور « فاولّٰئك هم الفاسقون» ضمیمه ٤٦٢ میں آیا ھے۔

۱۷۰- فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ (٥ بار) پھر ہم نے ان پر بھیجا۔ So We sent on them.

الاعراف ۱۳۳ و ۱٦۲ - الاحزاب ۹ - سبا ۱٦ اور حم السحدة ١٦ جبکه « انّآ ارسلنا علیهم » القمر ١٩ ، ٣١ و ٣٤ میں، « فارسلنآ الیها روحنا » مریم ١٧ میں، « فارسلنا فیهم رسولا منهم » المؤمنون ٣٢ میں اور « ومآ أُرسلوا علیهم حافظین » المطففین ٣٣ میں آیا ھے علاوہ ازیں « ولقد ارسلنا » ضمیمه ٢٨٧ میں، « انّآ ارسلناك » ضمیمه ٤١٦ میں اور « ومآ ارسلنا » ضمیمه ٥٩١ میں ھے۔

۱۷۱- فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (٧ بار) زمین میں ناحق ۔
On the earth in defiance of right .

الاعراف ١٤٦ - یونس ٢٣ - القصص ٣٩ - المؤمن ٧٥ - حم السحدة ١٥ - الشوریٰ ٤٢ اور الاحقاف ٢٠ جبکه « بغیر الحق » البقرة ٦١ و الاعراف ٣٣ میں، « بغیر حق » آل عمران ٢١ ، ١١٢ و ١٨١ - النسآء ١٥٥ و الحج ٤٠ میں اور « غیر الحق » آل عمران ١٥٤ - المآئدة ٧٧ و الانعام ٩٣ میں ھے علاوہ ازیں « ویقتلون النبیّن بغیر الحق » ضمیمه ٦٧٦ میں اور « الّا با لحق » ضمیمه ٨٤٨ میں ھے۔

۱۷۲- وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١١ بار) اور لیکن اکثر لوگ (یہ بات) نہیں جانتے۔
But most men know not.

الاعراف ١٨٧ - یوسف ٢١ ، ٤٠ و ٦٨ - النحل ٣٨ - الروم ٦ و ٣٠ - سبا ٢٨ و ٣٦ - المؤمن ٥٧ اور الجاثیة ٢٦ جبکه « ولکنّ اکثرَ النّاس لا یشکرون » البقرة ٢٤٣ - یوسف ٣٨ و المؤمن ٦١ میں اور « ولکنّ اکثرَهم لا یشکرون » یونس ٦٠ و النمل ٧٣ میں، « ولکنّ اکثرَ النّاس لا یؤمنون » هود ١٧ - الرعد ١ اور المؤمن ٥٩ میں، « ولکنّ النّاس انفسهم یظلمون » یونس ٤٤ میں، « ولکن لّا یعلمون » البقرة ١٣ میں، « ولکنّ المنافقین لا یعلمون » المنافقون ٨ میں اور « ولکنّ المنافقین لا یفقهون » المنافقون ٧ میں آیا ھے علاوہ ازیں « ولکنّ اللّٰه »

ضمیمه ۸۵۱ میں، «ولکنّ اکثرھم لا یعلمون» ضمیمه ۱۴۳ میں، «بل اکثرھم لا یعلمون» ضمیمه ۱۹۹ میں، «ولکن کانوا انفسھم یظلمون» ضمیمه ۳۵ میں، «ولکن لّا یشعرون» ضمیمه ۹۱۶ میں، «وما کان اکثرھم مؤمنین» ضمیمه ۲۰۵ میں اور «لا یعلمون» ضمیمه ۸۲۸ میں ھے۔

۱۷۳۔ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ (۶ بار) اور جب انکے سامنے ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔

When Our Clear Signs are rehearsed to them.

یونس ۱۵ ۔ مریم ۷۳ ۔ الحج ۷۲ ۔ سبا ۴۳ ۔ الجاثیة ۲۵ اور الاحقاف ۷ جبکه «واذا تتلیٰ علیهم آیاتنا» الانفال ۳۱ میں، «واذا تُلیت علیهم آیاته» الانفال ۲ میں، «واذا تُتلیٰ علیه آیاتنا» لقمان ۷ میں ، «اذا تُتلیٰ علیهم آیات الرحمٰن» مریم ۵۸ میں اور «اذا تُتلیٰ علیه ایٰتُنا» القلم ۱۵ و المطففین ۱۳ میں ھے علاوہ ازیں «اذا یتلی علیهم» الاسرآء ۱۰۷ میں، «واذا یتلی علیهم» القصص ۵۳ میں اور «یتلی علیهم» العنکبوت ۵۱ میں، «تتلی علیکم آیات الله» آل عمران ۱۰۱ میں، «آیاتی تتلی علیکم» المؤمنون ۶۶ و ۱۰۵ اور الجاثیة ۳۱ میں، «وما یتلی علیکم فی الکتاب» النسآء ۱۲۷ میں، «اِلّا ما یتلی علیکم» المائدة ۱ و الحج ۳۰ میں اور «وانتم تتلون الکتاب» البقرة ۴۴ میں آیا ھے نیز «یتلوا علیهم آیاته» ضمیمه ۷۶۵ میں، «وجآء تهم رسلهم بالبینات» ضمیمه ۴۱۹ میں اور «من بعد ماجآء تهم البیّنات» ضمیمه ۷۴۷ میں ھے۔

۱۷۴۔ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (۶ بار) بیشک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔

For He knows well the (secrets) of (all) hearts.

الانفال ۴۳ ۔ هود ۵ ۔ فاطر ۳۸ ۔ الزمر ۷ ۔ الشوریٰ ۲۴ اور الملك ۱۳ جبکه «اِنّ الله علیم بذات الصّدور» آل عمران ۱۱۹ ۔ المائدة ۷ و لقمان ۲۳ میں، «والله علیم بذات الصّدور» آل عمران ۱۵۴ و التغابن ۴ میں اور «وَهُوَ علیمٌ بذات الصُّدور» الحدید ۶ میں ھے علاوہ ازیں «اِنّ الله علیم بما یفعلون» یونس ۳۶ میں، «والله علیم بما یفعلون» النور ۴۱ میں، «وهو اعلم بما یفعلون» الزمر ۷۰ میں اور «والله علیم بما یعملون» یوسف ۱۹ میں ھے نیز «والله علیم حکیم» ضمیمه ۱۱۹ میں ، «والله علیم بالظّٰلمین» ضمیمه ۳۲۷ میں اور «ونزعنا ما فی صدورهم» ضمیمه ۵۲۴ میں ھے۔

۱۷۵۔ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (۵ بار) بلاشبہ وہ خوب سُننے والا، خوب جاننے والا ہے۔

For He is One that hears and knows (all things).

الانفال ۶۱ ۔ یوسف ۳۴ ۔ الشعرآء ۲۲۰ ۔ حم السجدة ۳۶ اور الدخان ۶ جبکه «انّه سمیع علیم» الاعراف ۲۰۰ میں ، «اِنّك انت السمیع العلیم» البقرة ۱۲۷ و آل عمران ۳۵ میں اور «اِنّك سمیع الدّعآء» آل عمران ۳۸ میں نیز «واَنّهٗ هو اضحك وابکی» النجم ۴۳ میں، «واَنّهٗ هو امات واَحیا» النجم ۴۴ میں، «واَنّهٗ هو اَغنٰی واقنٰی» النجم ۴۸ میں اور «واَنّهٗ هو رَبّ الشّعرٰی» النجم ۴۹ میں ھے علاوہ ازیں «وهو السّمیع العلیم» ضمیمه ۵۵ میں ، «والله سمیع علیم» ضمیمه ۷۵ میں، «اِنّه هو الغفور الرحیم» ضمیمه ۳۷۲ میں ، «انّه هو التوّاب الرحیم» ضمیمه ۴۲۶ میں ، «وهو العلیّ العظیم» ضمیمه ۵۶۹ میں، «وهو علی کل شیءٍ قدیر» ضمیمه ۱۳۴ میں، «وهو اللّطیف الخبیر» ضمیمه ۶۴۴ میں، «وهو بکل شیء علیم» ضمیمه ۷۵۴ میں، «وهو اعلم بالمهتدین» ضمیمه ۷۰۱ میں، «فهو خیر لّکم» ضمیمه ۱۰۵۲ میں، «وهو الذی انشاَ جنّٰت» ضمیمه ۶۸۸ میں، «هو الذی خلقکم» ضمیمه ۴۶۶ میں، «هو الذی ارسل رسوله» ضمیمه

۷۴۲ میں، «هو الذی یریکم» ضمیمه ۷۴۰ میں، «ان ربکم اللّٰه الذی» ضمیمه ۱۰۴۶ میں، «هو الحق» ضمیمه ۳۰۲ میں، «لآ اله الّا هو ط» ضمیمه ۵۹ میں، «قل هو ط» ضمیمه ۸۵۴ میں، «انّ ربّك هو اعلم» ضمیمه ۱۵۳ میں، «ان هو الّا ذکر للعالمین» ضمیمه ۴۲۰ میں، «وما هو بمزحزحه» ضمیمه ۹۲۰ میں اور «فانّ اللّٰه هو الغنیّ الحمید» ضمیمه ۵۸۲ میں ہے۔

۱۷۶۔ یٰاَیُّهَا النَّبِیُّ (۱۳بار) اے نبی!
O Prophet!

الانفال ۶۴، ۶۵ و ۷۰۔ التوبة ۷۳۔ الاحزاب ۱، ۲۸، ۴۵، ۵۰ و ۵۹۔ الممتحنة ۱۲۔ الطلاق ۱ اور التحریم ۱ و ۹ جبکه «یٰاَیّها الرّسولُ» المآئدة ۴۱ و ۶۷ میں اور «یٰاَیّها الرُّسُلُ» المومنون ۵۱ میں آیا ہے علاوہ ازیں «یاایها النبی جاهد الکفار والمنافقین» ضمیمه ۸۰۳ میں، «یاایها النّاس» ضمیمه ۱۶ میں، «یاایها النّاس اتقوا ربکم» ضمیمه ۸۰۲ میں، «یاایها الذین آمنوا» ضمیمه ۴۷ میں، «یاایها الذین آمنوا لا تتخذوا» ضمیمه ۷۷۰ میں اور «یاایها الذین آمنوا اتقوا اللّٰه» ضمیمه ۷۷۱ میں ہے۔

۱۷۷۔ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ (۷بار) اور اگر آپ اُن سے دریافت کریں۔
If you do question them.

التوبة ۶۵۔ العنکبوت ۶۱ و ۶۳۔ لقمان ۲۵۔ الزمر ۳۸ اور الزخرف ۹ و ۸۷ جبکه «واذا سألك» البقرة ۱۸۶ میں اور «واذا سأ لتموهنّ» الاحزاب ۵۳ میں، «فقد سألوا» النسآء ۱۵۳ میں اور «قد سألها» المآئدة ۱۰۲ میں، «ما سألتم» البقرة ۶۱ میں اور «ما سأ لتموه» ابراهیم ۳۴ میں، «قال اِن سألتُك» الکهف ۷۶ میں، «سَلهُم» القلم ۴۰ میں، «سألَ سآئل» المعارج ۱ میں اور «فسئل الذین» یونس ۹۴ میں آیا ہے علاوہ ازیں «ومآ اَسئلکم» ضمیمه ۲۰۹ میں اور «یسئلونك» ضمیمه ۳۱۰ میں ہے۔

۱۷۸۔ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ (۵بار) میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔
On Him is my trust.

التوبة ۱۲۹۔ هود ۸۸۔ یوسف ۶۷۔ الرعد ۳۰ اور الشوریٰ ۱۰ جبکه «فعلی اللّٰه توکّلت» یونس ۷۱ میں اور «اِنّی توکلت علی اللّٰه» هود ۵۶ میں آیا ہے علاوہ ازیں «وعلی اللّٰه فلیتوکّل المتوکّلون» ضمیمه ۱۱۰ میں، «وعلی ربهم یتوکلون» ضمیمه ۵۵۳ میں اور «وتوکل علی اللّٰه» ضمیمه ۵۵۴ میں ہے۔

۱۷۹۔ الٓرٰ (۵بار) الف۔لام۔را۔
Alif.Lam.Ra.

یونس ۱۔ هود ۱۔ یوسف ۱۔ ابراهیم ۱ اور الحجر ۱ جبکه «الٓمّٓصٓ» الاعراف ۱ میں اور «الٓمّٓرٰ» الرعد ۱ میں نیز «کٓهٰیٰعٓصٓ» مریم ۱ میں، «طٰهٰ» طٰه ۱ میں، «طٰسٓمّٓ» الشعرآء ۱ و القصص ۱ میں، «طٰسٓ» النمل ۱ میں، «یٰسٓ» یٰسٓ ۱ میں، «صٓ» ص ۱ میں، «عٓسٓقٓ» الشوریٰ ۲ میں، «قٓ» ق ۱ میں اور «نٓ» القلم ۱ میں آیا ہے علاوہ ازیں «الٓمّٓ» ضمیمه ۳ میں اور «حٰمٓ» ضمیمه ۲۱۸ میں ہے۔

۱۸۰۔ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ (۷ بار) بھلا تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے۔

Will you not receive admonition?

یونس ۳۔ ہود ۲۴ و ۳۰۔ النحل ۱۷۔ المؤمنون ۸۵۔ الصآفات ۱۵۵ اور الجاثیۃ ۲۳ جبکہ «افلا تذکرون» الانعام ۸۰ و السجدۃ ٤ میں، «قلیلا ما تذکرون» الاعراف ۳۔ النمل ٦۲ و الحآقۃ ٤۲ میں اور «قلیلا ما تذکرون» المؤمن ۵۸ میں آیا ھے علاوہ ازیں «افلا تعقلون» ضمیمہ ۳۱ میں، «افلا تتقون» ضمیمہ ۱٦۵ میں «اغیر اللّٰہ» ضمیمہ ۸٦٦ میں اور «لعلکم تذکرون» ضمیمہ ۱۵۷ میں ھے۔

۱۸۱۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ (۵ بار)

اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کے طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے نہ ہوتی۔

Had it not been for a word that went forth before from your Lord.

یونس ۱۹۔ ہود ۱۱۰۔ طٰہٰ ۱۲۹۔ حم السجدۃ ٤۵ اور الشوریٰ ۱٤ جبکہ «ولولا کلمةُ الفصل» الشوریٰ ۲۱ میں، «کلمة ربّك» الانعام ۱۱۵۔ الاعراف ۱۳۷۔ یونس ۳۳ و ۹٦۔ ہود ۱۱۹ اور المؤمن ٦ میں، «کلمةُ العذاب» الزمر ۱۹ و ۷۱ میں، «وکلمةُ اللّٰہ» التوبۃ ٤۰ میں، «کلمةَ الذین کفروا» التوبۃ ٤۰ میں، «کلمة الکفر» التوبۃ ۷٤ میں، «ولقد سبقت کلمتنا» الصآفات ۱۷۱ میں، «انّ الذین سبقت لھم منّا الحسنیٰ» الانبیآء ۱۰۱ میں اور «من رّبك» البقرۃ ۱٤۷ و ۱٤۹۔ آل عمران ٦۰۔ المآئدۃ ٦٤، ٦۷ و ٦۸۔ الانعام ۱۰٦ و ۱۱٤۔ یونس ۹٤۔ ہود ۱۷۔ الرعد ۱ و ۱۹۔ النحل ۱۰۲۔ الاسرآء ۲۸ و ۸۷۔ الکہف ۸۲۔ طٰہٰ ٤۷۔ الحج ۵٤۔ القصص ۳۲، ٤٦ و ۸٦۔ العنکبوت ۱۰۔ السجدۃ ۳۔ الاحزاب ۲۔ سبا ٦۔ الدخان ٦ و ۵۷۔ القلم ۱۹ اور النّبا ۳٦ میں آیا ھے علاوہ ازیں «ولولا فضل اللّٰہ علیکم ورحمتہ» ضمیمہ ۱۲۳ میں، «فلولا فضل اللّٰہ علیکم» ضمیمہ ۹٦۹ میں، «ولو کرہ الکافرون» ضمیمہ ٦۲۷ میں، «ولولا دفع اللّٰہ الناس» ضمیمہ ۹۷۲ میں، «لولآ انزل علیہ» ضمیمہ ۱۳۷ میں، «لولآ انزل علیہ آیة من ربہ» ضمیمہ ۸۸۰ میں، «لولآ ارسلت الینا رسولا» ضمیمہ ۹۷۱ میں، «قد جآء تکم بیّنة من ربکم» ضمیمہ ۹٦۱ میں اور «من ربھم» ضمیمہ ۸٤۳ میں ھے۔

۱۸۲۔ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰىهُ (۵ بار) کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر) نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔

Or do they say, "He forged it"?

یونس ۳۸۔ ہود ۱۳ و ۳۵۔ السجدۃ ۳ اور الاحقاف ۸ جبکہ «اَم یقولون افترٰی» الشوریٰ ۲٤ میں، «ام یقولون بہٖ جنة» المؤمنون ۷۰ میں، «ام یقولون شاعر» الطور ۳۰ میں، «ام یقولون تقوّلہ» الطور ۳۳ میں اور «ام یقولون نحن جمیع مّنتصر» القمر ٤٤ میں، «ام تقولون علی اللّٰہ» البقرۃ ۸۰ میں اور «ام تقولون اِنّ ابراھیم» البقرۃ ۱٤۰ میں آیا ھے علاوہ ازیں «اِفترآءً علیہ» الانعام ۱۳۸ میں اور «اِفترآءً علی اللّٰہ» الانعام ۱٤۰ میں، «بل افتراہ» الانبیآء ۵ میں، «اِن ھٰذا الّا افك اِفتراہ» الفرقان ٤ میں، «ما ھٰذا الّا سحر مفتریً» القصص ۳٦ میں اور «ما ھٰذا الّا افكٌ مّفتریً» سبا ٤۳ میں آیا ھے نیز «قل اِنِ افتریتہٗ» ہود ۳۵ و الاحقاف ۸ میں اور «قد افترینا علی اللّٰہ کذبا» الاعراف ۸۹ میں ھے علاوہ ازیں «ام حسبتم» ضمیمہ ۸٦۷ میں، «ام لھم شرك فی السمٰوات» ضمیمہ ۹۳۱ میں، «ام لم تنذ رھم» ضمیمہ ۱۰۱۷ میں اور «امّن ھٰذا الذی» ضمیمہ ۹۱۳ میں، «یقولون» ضمیمہ ۷۸٦ میں، «ویقولون» ضمیمہ ۷۸۷ میں، «سیقولون» ضمیمہ ٤۹۸ میں، «ما کانوا

یفترون » ضمیمه ۱۳۹ میں، « یفترون علی الله الکذب » ضمیمه ۲٤۷ میں اور « و من اظلم مّمن افترٰی » ضمیمه ۱۳۸ میں هے.

۱۸۳ـ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ (٦ بار) اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟

They say: "When will this promise come to pass.

یونس ٤٨ ـ الانبیآء ٣٨ ـ النمل ٧١ ـ سبا ٢٩ ـ یٰسٓ ٤٨ اور الملك ٢٥ جبکه « ویقُولُوْن متٰی هذا الفتحُ » السجدة ٢٨ میں، « ویقولون متٰی هو ـ » الاسرآء ٥١ میں اور « متٰی نصر الله ـ » البقرة ٢١٤ میں آیا هے علاوه ازیں « ویقولون » ضمیمه ٧٨٧ میں، « سیقولون » ضمیمه ٤٩٨ میں، « انّ وعد الله حق » ضمیمه ١٨٤ میں، « وعده » ضمیمه ٧١٥ میں اور « وعَدالله » ضمیمه ٢٩٣ میں نیز « ان کنتم صادقین » ضمیمه ٢٠ میں هے.

۱۸٤ـ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ (٨ بار) بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے ۔

That Allah's promise is assuredly true.

یونس ٥٥ ـ الروم ٦٠ ـ لقمان ٣٣ ـ فاطر ٥ ـ المؤمن ٥٥ و ٧٧ ـ الجاثیة ٣٢ اور الاحقاف ١٧ جبکه « اَنّ وعد الله حق » الکهف ٢١ و القصص ١٣ میں، « انّ الله وعدَکم وعد الحق » ابراهیم ٢٢ میں اور « وانّ وعدك الحق » هود ٤٥ میں، « وعد الله ـ لا یخلف الله وعده » الروم ٦ اور « وعد الله ـ لا یخلف الله المیعاد » الزمر ٢٠ میں ، « واقترب الحق » الانبیآء ٩٧ میں، « وعد الله حقًا » النسآء ١٢٢ ـ یونس ٤ و لقمان ٩ میں، « وعدًا علیه حقًا » التوبة ١١١ و النحل ٣٨ میں، « ماوعدنا ربنا حقا » اور « ما وعد ربکم حقا » الاعراف ٤٤ میں، « وعد ربّی حقا » الکهف ٩٨ میں، « ثم صدقنا هم الوعد » الانبیآء ٩ میں اور « الحمد لله الذی صدقنا وعده » الزمر ٧٤ میں، « فاذا جآء وعدُ الاخرة » الاسرآء ٧ و ١٠٤ میں، « وعد الصّدق الذی » الاحقاف ١٥ میں، « وعدکم الله » الفتح ٢٠ میں، « وعدًا حسنا » طه ٨٦ و القصص ٦١ میں، « وعدًا علینا » الانبیآء ١٠٤ میں اور « وعدًا مّسئولا » الفرقان ١٦ میں آیا هے علاوه ازیں « ویقولون متی هذا الوعد » ضمیمه ١٨٣ میں، « وعَدَ الله » ضمیمه ٢٩٣ میں اور « وعده » ضمیمه ٧١٥ میں هے.

۱۸٥ـ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٦ بار) اور وہی چیز انھیں آگھیرے گی جسکا وہ مذاق اُڑا رہے ہیں۔

And they will be completely encircled by that which they used to mock at !

هود ٨ ـ النحل ٣٤ ـ الزمر ٤٨ ـ المؤمن ٨٣ ـ الجاثیة ٣٣ اور الاحقاف ٢٦ جبکه « وحاق بآل فرعون سوءُ العذاب » المؤمن ٤٥ میں، « فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزءون » الانعام ١٠ و الانبیآء ٤١ میں، « ماکانوا به یستهزءون » الانعام ٥ و الشعرآء ٦ میں، « الّا کانوا به یستهزءون » الحجر ١١ ـ یٰسٓ ٣٠ و الزخرف ٧ میں اور « وکانوا بها یستهزءون » الروم ١٠ میں نیز « کنتم تستهزءون » التوبة ٦٥ میں، « انما نحن مستهزءون » البقرة ١٤ میں اور « انّا کفیناك المستهزءین » الحجر ٩٥ میں، « ما کانوا به مؤمنین » الشعرآء ١٩٩ میں اور « بما کانوا به یشرکون » الروم ٣٥ میں آیا هے علاوه ازیں « ما کانوا یعملون » ضمیمه ١٢٩ میں، « بما کانوا یعملُون » ضمیمه ١٥٢ میں، « لوکانوا یعلمون » ضمیمه ٤٦ میں، « ما کانوا یفترون » ضمیمه ١٣٩ میں، « ما کانوا یکسبون » ضمیمه ٥٨١ میں، « بما کانوا یکسبون » ضمیمه ١٥٥ میں، « بما کانوا یفسقون » ضمیمه ٢٢٧ میں اور « وما کانوا مهتدین » ضمیمه ١٠١٠ میں هے.

۱۸۶۔ قَالُوا يَا أَبَانَا (۵ بار) اُنہوں نے کہا اے ہمارے والد۔

They said: "O our father!

یوسف ۱۱، ۱۷، ۶۳، ۶۵ اور ۹۷ جبکہ « فقولوا یاَبانا » یوسف ۸۱ میں آیا ھے علاوہ ازیں « وقولوا » ضمیمہ ۸۲۳ میں، « یآ ابت » ضمیمہ ۲۶۶ میں، « یا بُنیّ » ضمیمہ ۳۸۷ میں نیز « یایها الذین آمنوا » اور تفصیلی معلومات ضمیمہ ٤٧ میں ھیں۔

۱۸۷۔ حَتّٰى حِينٍ (٦ بار) کچھ عرصہ تک۔

For a time.

یوسف ۳۵۔ المؤمنون ۲۵ و ٥٤۔ الصافات ۱۷٤ و ۱۷۸ اور الذاریات ٤٣ جبکہ « حین تقوم » الشعرآء ۲۱۸ و الطور ٤٨ میں نیز « حتّٰی اذا جآء وھا » ضمیمہ ۷٦۳ میں، « حتّٰی یلقوا یومهم الذی » ضمیمہ ۷٦٤ میں، « حتّٰی یروا العذاب الالیم » ضمیمہ ۷٤٩ میں اور « ومتاعٌ الیٰ حین » ضمیمہ ٦٥١ میں ھے۔

۱۸۸۔ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ (۵ بار) اے سرداروں!

O you chiefs!

یوسف ٤٣۔ النمل ۲۹، ۳۲ و ۳۸ اور القصص ۳۸ جبکہ « قال الملا الذین استکبروا » ضمیمہ ٦٦٤ میں آیا ھے علاوہ ازیں « یایها الذین آمنوا » اور مزید معلومات ضمیمہ ٤٧ میں، « یایها الذین آمنوا اتقوا اللّٰہ » ضمیمہ ۹۳ میں اور « یآ یُّھَا الَّذِین آمنوا اتقوا اللّٰہ وذروا ما بقی من الربٰوا » ضمیمہ ۷۷۱ میں، « یایها الذین آمنوا لا تتخذوا » ضمیمہ ۷۷۰ میں، « یایها الناس » ضمیمہ ۱٦ میں اور « یایها الناس اتقوا ربکم » ضمیمہ ۸۰۲ میں، « یایها النبی » ضمیمہ ۱۷٦ میں اور « یایها النبی جاھد الکفار » ضمیمہ ۸۰۳ میں، « یا ابانا » ضمیمہ ۱۸٦ میں، « یا قوم » ضمیمہ ۱۰٤٤ میں اور « قال یا قوم » ضمیمہ ۳۷٤ میں، « یا ابت » ضمیمہ ۲٦٦ میں، « یا بنی آدم » ضمیمہ ۳٦۳ میں، « یا بنی اسرآئیل » ضمیمہ ۳٦٤ میں اور « یا بنی اسرآئیل اذکروا » ضمیمہ ۸۰٤ میں، « یا بُنیّ » ضمیمہ ۳۸۷ میں اور « یا مریم » ضمیمہ ٦٦۱ میں ھے۔

۱۸۹۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ (۵ بار) اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔

He has subjected the sun and the moon (to his Law).

الرعد ۲۔ العنکبوت ٦۱۔ لقمان ۲۹۔ فاطر ۱۳ اور الزمر ٥ جبکہ « وسخّرَ لکمُ الشمْسَ والْقَمَر » ابراھیم ۳۳ میں، « وسخّرلکم الفلك » اور « وسخرّ لکم الانھار » ابراھیم ۳۲ میں نیز « وسخّرلکم الّیل والنّھار » ابراھیم ۳۳ و النحل ۱۲ میں آیا ھے علاوہ ازیں « والشمس والقمر ط » ضمیمہ ۳۱۱ میں ھے۔

۱۹۰۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ (٦ بار) جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔

(Allah) Does enlarge, or grant by (strict) measure,
the sustenance (which He gives).

الرعد ۲٦۔ الاسرآء ۳۰۔ الروم ۳۷۔ سبا ۳٦۔ الزمر ٥۲ اور الشوریٰ ۱۲ جبکہ « یبْسُطُ الرِّزق لمنْ یّشآءُ مِنْ عبادِہٖ ویقدرُ » القصص ۸۲ میں اور « یبسط الرِّزق لمن یشآء من عبادہ ویقد رله » العنکبوت ٦۲ وسبا ۳۹ میں، « واللّٰہ یقبض ویبسط » البقرۃ ۲٤٥ میں، « لا یقد رعلیٰ شیء » النحل ۷٥ و ۷٦ میں اور « اَلّا یقد رون علیٰ شیء » الحدید ۲۹ میں، « لا یقد رون علی شیء ممّا کسبوا » البقرۃ ۲٦٤ میں اور « لا یقد رون ممّا کسبوا

علیٰ شیء» ابراهیم ۱۸ میں آیا ہے علاوہ ازیں « یغفر لمن یّشآء ویعذّب من یّشآء» ضمیمہ ۳۹۲ میں ، « إنّ اللّٰه علی کلّ شیء قدیر» ضمیمہ ۱۵ میں، «واللّٰه علی کلّ شیءٍ قدیر» ضمیمہ ۹٦ میں، «وهو علیٰ کلّ شیءٍ قدیر» ضمیمہ ۱۳٤ میں اور «وكان اللّٰه علیٰ كلّ شیء قدیرا» ضمیمہ ٤۹۱ میں ہے۔

۱۹۱۔ فَكَيْفَ كَانَ (۱۰ بار)

پس کیسی تھی۔

Then how (terrible) was.

الرعد ۳۲ ـ الحج ٤٤ ـ سبا ٤٥ ـ فاطر ٢٦ ـ المؤمن ٥ ـ القمر ١٦ ، ١٨ ، ٢١ و ٣٠ اور الملك ١٨ جبکہ «فكيف كان نكير» ضمیمہ ۷۸۰ میں، «فكيف كان عذابی ونذر» ضمیمہ ۱۰۱٤ میں، «انظر كيف» ضمیمہ ۱۲۰ میں، «فانظر كيف» ضمیمہ ۱٦۷ میں، «فینظروا كيف كان» ضمیمہ ۲۲۸ میں، «فا نظروا كيف كان» ضمیمہ ۹۰۳ میں، «كيف كان عاقبة المكذّبين» ضمیمہ ۳۰۱ میں اور «كيف يشآء» ضمیمہ ۷۸۱ میں ہے۔

۱۹۲۔ أَوَلَمْ يَرَوْا (۱۲ بار)

کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟

See they not that.

الرعد ٤١ ـ النحل ٤٨ ـ الاسرآء ٩٩ ـ الشعرآء ٧ ـ العنكبوت ١٩ و ٦٧ ـ الروم ٣٧ ـ السجدة ٢٧ ـ يٰسٓ ٧١ ـ حم السجدة ١٥ ـ الاحقاف ٣٣ اور الملك ١٩ جبکہ «افلم یروا» سبا ۹ میں، «اولم یر الذين كفروا» الانبیآء ۳۰ میں اور «اولم یرالانسان» يٰسٓ ۷۷ میں، «اولم ينظروا» الاعراف ۱۸۵ میں، «افلم ينظروا» قٓ ٦ میں، «اولا یرون» التوبة ۱۲٦ میں اور «افلا یرون» طه ۸۹ و الانبیآء ٤٤ میں ہے علاوہ ازیں «اولم تؤمن» البقرة ۲٦۰ میں ، «اولم يهد للذين يرثون الارض» الاعراف ۱۰۰ میں، «اولم يهد لهم» السجدة ۲٦ میں اور «افلم يهد لهم» طه ۱۲۸ میں، «اولم يتفكروا» الاعراف ۱۸٤ و الروم ۸ میں، «اولم يكفروا» القصص ٤۸ میں، «اولم يعلموا» الزمر ۵۲ میں، «الم يعلموا» التوبة ٦۳ ، ۷۸ و ۱۰٤ میں اور «اولا يعلمون» البقرة ۷۷ میں ہے نیز «الم یروا» ضمیمہ ۱۳٦ میں، «الم تر» ضمیمہ ۸۰ میں، «وان یروا» ضمیمہ ۱٤۰ میں ، «افلم يسيروا» ضمیمہ ۱۰۳۲ میں ، «فلم يستجيبوا لهم» ضمیمہ ۱۰۵۷ میں اور «فإن لّم تفعلوا» ضمیمہ ۱۰۵۸ میں ہے۔

۱۹۳۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱۲ بار)

اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔

And He is Exalted in power, full of Wisdom.

ابراهيم ٤ ـ النحل ٦٠ ـ العنكبوت ٤٢ ـ الروم ٢٧ ـ لقمان ٩ ـ فاطر ٢ ـ الجاثية ٣٧ ـ الحديد ١ ـ الحشر ١ و ٢٤ ـ الصف ١ اور الجمعة ٣ جبکہ «وهو العزيز العليم» النمل ۷۸ میں، «وهو العزيز الرحيم» الروم ۵ میں اور «وهو العزيز الغفور» الملك ۲ میں ہے نیز «لآ اله الّا هو العزيز الحكيم» آل عمران ٦ و ۱۸ میں، «وانّ اللّٰه لهو العزيز الحكيم» آل عمران ٦۲ میں، «بل هو اللّٰه العزيز الحكيم» سبا ۲۷ میں، «إنّه هو العزيز الحكيم» العنكبوت ۲٦ میں اور «انّه هو العزيز الرحيم» الدخان ٤۲ میں آیا ہے علاوہ ازیں «وهو الحق» البقرة ۹۱ ـ الانعام ٦٦ و محمد ۲ میں، «وهو ربنا وربكم» البقرة ۱۳۹ میں، «وهو خير النّاصرين» آل عمران ۱۵۰ میں، «وهو خيرُ الفاصلين» الانعام ۵۷ میں، «وهو خير الحاكمين» الاعراف ۸۷ ـ یونس ۱۰۹ و یوسف ۸۰ میں اور «وهو خير الرازقين» المؤمنون ۷۲ و سبا ۳۹ میں، «وهو معهم» النسآء ۱۰۸ میں، «إلّا هو معهم»

المحادلة ۷ میں ، « واللّٰہ معکم » محمد ۳۵ میں اور « وھو معکم » الحدید ٤ میں، « وھو خادعھم » النسآء ۱٤۲ میں، « وھو یطعم ولا یطعم » الانعام ۱٤ میں اور « والذی ھو یطعمنی » الشعرآء ۷۹ میں، « وھو القاھر فوق عبادہ » الانعام ۱۸ و ٦۱ میں، « وھو الحکیم الخبیر » الانعام ۱۸ و ۷۳ و سبا ۱ میں، « وھو الحکیم العلیم » الزخرف ۸٤ میں اور « وھو العلیم الحکیم » التحریم ۲ میں، « اِنَّہٗ ھو العلیم الحکیم » یوسف ۸۳ و ۱۰۰ میں اور « اِنَّہ ھو الحکیم العلیم » الذاریات ۳۰ میں، « وھو اسرع الحاسبین » الانعام ٦۲ میں اور « وھو سریع الحساب » الرعد ٤۱ میں، « وھو علیٰ کلّ شیءٍ وّکیل » الانعام ۱۰۲ و الزمر ٦۲ میں، « وھو یدرک الابصار » الانعام ۱۰۳ میں، « وھو اللطیف الخبیر » الانعام ۱۰۳ و الملک ۱٤ میں، « وھو ولیّھم » الانعام ۱۲۷ میں اور « فھو ولیّھم » النحل ٦۳ میں، « وھو ربُّ کلّ شیء » الانعام ۱٦٤ میں، « وھو ربّ العرش العظیم » التوبة ۱۲۹ میں ، « لا الہ الّا ھو ربّ العرش العظیم » النمل ۲٦ میں اور « وانَّہٗ ھو ربّ الشّعرٰی » النجم ٤۹ میں، « وھو فضّلکم علی العالمین » الاعراف ۱٤۰ میں، « وھو یتولّی الصّالحین » الاعراف ۱۹٦ میں اور « وھو الولیّ الحمید » الشورٰی ۲۸ میں ، « وھو الغفور الرّحیم » یونس ۱۰۷ و الاحقاف ۸ میں، « وھو الرّحیم الغفور » سبا ۲ میں، « وھو العزیز الغفور » الملک ۲ میں اور « وھو الغفور الودود » البروج ۱٤ میں، « وھو ارحم الرّحمین » یوسف ٦٤ و ۹۲ میں، « وھو شدید المحال » الرعد ۱۳ میں، « وھو الواحد القھّار » الرعد ۱٦ میں، « وھو یجیر ولا یجار علیہ » المؤمنون ۸۸ میں، « وھو اللّٰہ لآ الہ الّا ھو ط » القصص ۷۰ میں، « وھو اھون علیہ » الروم ۲۷ میں، « وھو العلیم القدیر » الروم ٥٤ میں، « وھو الفتّاح العلیم » سبا ۲٦ میں، « وھو الخلّاق العلیم » یٰسٓ ۸۱ میں اور « انّ ربّک ھو الخلّاق العلیم » الحجر ۸٦ میں، « وھو الحکیم العلیم » الزخرف ۸٤ میں، « وھو العلیم الحکیم » التحریم ۲ میں، « انَّہٗ ھو العلیم الحکیم » یوسف ۸۳ و ۱۰۰ میں اور « انّہ ھو الحکیم العلیم » الذاریات ۳۰ میں، « وھو یھدی السّبیل » الاحزاب ٤ میں، « وھو اعلم بما یفعلون » الزمر ۷۰ میں، « وھو خلقکم اوّل مرّة » حم السجدة ۲۱ میں، « وھو یحی الموتٰی » الشورٰی ۹ میں، « وھو السّمیع البصیر » الشورٰی ۱۱ میں اور « انّہٗ ھو السّمیع البصیر » الاسرآء ۱ میں، وھو القویّ العزیز » الشورٰی ۱۹ میں اور « انّ ربّک ھو القویّ العزیز » ھود ٦٦ میں، وھو واقع بھم » الشورٰی ۲۲ میں، « وھو الولیّ الحمید » الشورٰی ۲۸ میں، « وھو علی جمعھم اذا یشآء قدیر » الشورٰی ۲۹ میں اور « وھو علیم بذات الصدور » الحدید ٦ میں ہے علاوہ ازیں « واللّٰہ عزیز حکیم » ضمیمه ۷٦ میں، « انک انت العزیزالحکیم » ضمیمه ۷۳۱ میں اور « انّ اللّٰہ لقویّ عزیز » ضمیمه ٥٥۲ میں، « واللّٰہ علیم حکیم » ضمیمه ۱۱۹ میں ، « وھو السّمیع العلیم » ضمیمه ٥٥ میں، « وھو علی کل شیءٍ قدیر » ضمیمه ۱۳٤ میں، « وھو مؤمن » ضمیمه ٤۱۰ میں، « وھو العلیّ العظیم » ضمیمه ٥٦۹ میں، « وھو اللطیف الخبیر » ضمیمه ٦٤٤ میں، « وھو بکل شیء علیم » ضمیمه ۷٥٤ میں اور « وھو اعلم بالمھتدین » ضمیمه ۷۰۱ میں، « وھو الذی انشاَ جنّٰت » ضمیمه ٦۸۸ میں، « ھو الذی خلقکم » ضمیمه ٤٦٦ میں، « ھو الذی یریکم » ضمیمه ۷٤۰ میں، « ھو الذی ارسل رسولہ » ضمیمه ۷٤۲ میں، « ھو الحق » ضمیمه ۳۰۲ میں اور « ھو خیر » ضمیمه ۱۰٥٤ میں ہے جبکہ « اِنّہ ھو السّمیع العلیم » ضمیمه ۱۷٥ میں، « اِنّہ ھو التوّاب الرّحیم » ضمیمه ٤۲٦ میں، « انّہ ھو الغفور الرحیم » ضمیمه ۳۷۲ میں، « فھو خیر لکم » ضمیمه ۱۰٥۲ میں، « لآ الہ الّا ھو ط » ضمیمه ٥۹ میں، « قل ھو ط » ضمیمه ۸٥٤ میں، « انّ ربّک ھو اعلم » ضمیمه ۱٥۳ میں، « ان ھو الّا ذکر للعالمین » ضمیمه ٤۲۰ میں، « وما ھو بمزحزحہٖ » ضمیمه ۹۲۰ میں اور « فانّ اللّٰہ ھو الغنیّ الحمید » ضمیمه ٥۸۲ میں ہے۔

۱۹۴۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (۱۲ بار) اوران کافروں نے کہا۔
And the Unbelievers said.

ابراهیم ۱۳ ۔ الفرقان ٤ و ۳۲ ۔ النمل ٦٧ ۔ العنکبوت ۱۲ ۔ سبا ۳، ۷، ۳۱ و ٤۳ ۔ حم السجدة ۲٦ و ۲۹ اور الاحقاف ۱۱ جبکه «وقال الذین آمنوا» الشوریٰ ٤٥ میں، «وقال الذی آمن» المؤمن ۳۰ و ۳۸ میں اور «وقال الشیطان» ابراهیم ۲۲ میں هے علاوه ازیں «قال الذین کفروا» مریم ۷۳ ۔ یٰسٓ ٤۷ و الاحقاف ۷ میں، «فقال الذین کفروا» المآئدة ۱۱۰ میں، «وقال الملأ الذین کفروا» الاعراف ۹۰ میں، «قال الملأ الذین کفروا» الاعراف ٦٦ میں اور «فقال الملأ الذین کفروا» هود ۲۷ و المؤمنون ۲٤ میں، «لقال الذین کفروا» الانعام ۷ میں، «ویقولُ الذین کفروا» الرعد ۷ ، ۲۷ و ٤۳ میں اور «ویقول الذین آمنوا» المآئدة ۵۳ و محمد ۲۰ میں، «یقول الذین کفروا» الانعام ۲۵ میں، «لیقولنّ الذین کفروا» هود ۷ و الروم ۵۸ میں، «لقد کفر الذین قالوا» المآئدة ۱۷ ، ۷۲ و ۷۳ میں اور «فیقول الذین ظلموا» ابراهیم ٤٤ میں آیا هے نیز «قال الذین» ضمیمه ۷۳٤ میں، «قال الذین استکبروا» ضمیمه ۱۰٤۵ میں، «قال الملأ الذین استکبروا» ضمیمه ٦٦٤ میں، «قال الکافرون» ضمیمه ۳۱٦ میں، «قال الله» ضمیمه ۷۳۵ میں، «وقال موسٰی» ضمیمه ۲٦۷ میں ، «وقال فرعون» ضمیمه ۵۸٤ میں ، «انّ الذین کفروا» ضمیمه ۷ میں اور «والذین کفروا» ضمیمه ۲۵ میں هے.

۱۹۵۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ (۱۰ بار) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے۔
Seest you not that Allah.

ابراهیم ۱۹ ۔ الحج ۱۸، ٦۳ و ٦۵ ۔ النور ٤۱ و ٤۳ ۔ لقمان ۲۹ ۔ فاطر ۲۷ ۔ الزمر ۲۱ اور المجادلة ۷ جبکه «الم ترَ» ضمیمه ۸۰ میں، «الم تر الی الذین» ضمیمه ۸۱ میں، «الم یروا» ضمیمه ۱۳٦ میں ، «ولوترٰی» ضمیمه ۱٤۲ میں اور «وترٰی» ضمیمه ۹۷۸ میں هے.

۱۹٦۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ (٦ بار) عنقریب ان کو (اس کا انجام) معلوم ہوجائے گا۔
Soon will knowledge (undeceive them).

الحجر ۳ و ۹٦ ۔ العنکبوت ٦٦ ۔ الصآفات ۱۷۰ ۔ المؤمن ۷۰ اور الزخرف ۸۹ جبکه «وسوف یعلمون» الفرقان ٤۲ میں، «فسیعلمون» مریم ۷۵ و الجن ۲٤ میں، «فیعلمون» البقرة ۲٦ اور «سیعلمون» القمر ۲٦ ۔ النبا ٤ و ۵ میں آیا هے علاوه ازیں «فسوف تعلمون» ضمیمه ۱۵٦ میں اور «فسوف نؤتیه اجرًا عظیما» ضمیمه ۹٤۳ میں هے.

۱۹۷۔ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ (۹ بار) اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں۔
With Allah, another god.

الحجر ۹٦ ۔ الاسرآء ۲۲ و ۳۹ ۔ المؤمنون ۱۱۷ ۔ الفرقان ٦۸ ۔ الشعرآء ۲۱۳ ۔ القصص ۸۸ ۔ قٓ ۲٦ اور الذاریات ۵۱ جبکه «مع الله آلهة اخرٰی» الانعام ۱۹ میں، «مع الله احدا» الجن ۱۸ میں، «مع الرّسول سبیلا» الفرقان ۲۷ میں، «وآخر سیّئًا» التوبة ۱۰۲ میں اور «خلقًا آخر» المؤمنون ۱٤ میں آیا هے علاوه ازیں «انّ الله مع الصابرین» ضمیمه ۷۳۷ میں اور «ءاِلٰهٌ مع الله» ضمیمه ۲۱۱ میں هے.

۱۹۸۔ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٤ بار)

اللہ کے فضل سے (معاش) تلاش کرو تا کہ اس کا شکر کرو۔

That you may seek (thus) of the bounty of Allah and that you may be grateful.

النحل ١٤ ـ القصص ٧٣ ـ الروم ٤٦ اور الجاثية ١٢ جبکہ «لتبتغوا من فضلهٖ ولعلّكُم تشكرون» فاطر ١٢ میں اور «ولعلكم تشكرون» البقرة ١٨٥ میں، «وابتغآؤكم من فضلهٖ» الروم ٢٣ میں، «لتبتغوا من فضلهٖ ط» الاسرآء ٦٦ میں اور «لتبتغوا فضلًا من ربكم» الاسرآء ١٢ میں، «تبتغون عرض الحيٰوة الدنيا» النسآء ٩٤ میں، «تبتغِي مرضات ازواجك» التحريم ١ میں اور «اَن تبتغىَ نفقًا فى الارض» الانعام ٣٥ میں آیا ھے علاوہ ازیں «بمآ آتاهم اللّٰه من فضلهٖ» آل عمران ١٧٠ و ١٨٠ میں، «ما آتاهم اللّٰه من فضلهٖ» النسآء ٣٧ و ٥٤ میں، «لئن آ تانا من فضلهٖ» التوبة ٧٥ میں، «فلما آتاهم من فضلهٖ» التوبة ٧٦ میں اور «سيؤتينا اللّٰه من فضلهٖ ورسوله» التوبة ٥٩ میں، «ويزيدُ هم من فضلهٖ» النسآء ١٧٣ و الشورىٰ ٢٦ میں اور «ويزيدَ هم من فضله» النور ٣٨ و فاطر ٣٠ میں، «يغنيكم اللّٰه من فضلهٖ» التوبة ٢٨ میں، «يغنِهم اللّٰه من فضلهٖ» النور ٣٢ میں اور «يغنيهم اللّٰه من فضلهٖ» النور ٣٣ میں آیا ھے نیز «اَن ينزّل اللّٰه من فضلهٖ» البقرة ٩٠ میں، «وسئلوا اللّٰه من فضله» النسآء ٣٢ میں، «وما نقموا الّا اَن اغناهم اللّٰه ورسوله من فضلهٖ» التوبة ٧٤ میں، «ليجزىَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضلهٖ» الروم ٤٥ میں اور «الّذى احلّنا دار المقامة من فضله» فاطر ٣٥ میں جبکہ «يبتغون فضلا من اللّٰه ورضوانا» ضمیمہ ٥٩٢ میں «ولولا فضل اللّٰه عليكم ورحمته» ضمیمہ ١٢٣ میں اور «لعلكم تشكرون» ضمیمہ ٣٢ میں ھے۔

۱۹۹۔ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٦ بار) مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

But most of them understand not.

النحل ٧٥ و ١٠١ ـ الانبيآء ٢٤ ـ النمل ٦١ ـ لقمان ٢٥ اور الزمر ٢٩ جبکہ «بلْ اكثرهم لايؤمنون» البقرة ١٠٠ میں، «بلْ اكثرهم لا يعقلون» العنكبوت ٦٣ میں، «واكثرهم لا يعقلون» المآئدة ١٠٣ میں اور «اكثرهم لا يعقلون» الحجرات ٤ میں آیا ھے علاوہ ازیں «ولكنّ اكثرهم لا يعلمون» ضمیمہ ١٤٣ میں، «ولكنّ اكثر النّاس لا يعلمون» ضمیمہ ١٧٢ میں، «وما كان اكثرهم مؤمنين» ضمیمہ ٢٠٥ میں اور «لا يعلمون» ضمیمہ ٨٢٨ میں ھے۔

۲۰۰۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٥ بار)

اس میں ان لوگوں کے لئے دلیلیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔

Surely in this are signs for those who believe.

النحل ٧٩ ـ النمل ٨٦ ـ العنكبوت ٢٤ ـ الروم ٣٧ اور الزمر ٥٢ جبکہ «انّ فى ذٰلكم لاٰيٰتٍ لقومٍ يؤمنون» الانعام ٩٩ میں اور «انّ فى ذلك لرحمة وّذكرىٰ لقوم يؤمنون» العنكبوت ٥١ میں، «انّ فى ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين» البقرة ٢٤٨ و آل عمران ٤٩ میں، «انّ فى ذلك لآية للمؤمنين» الحجر ٧٧ و العنكبوت ٤٤ میں اور «انّ فى السمٰوات والارض لآيات للمؤمنين» الجاثية ٣ میں آیا ھے خیال رھے کہ «انّ فى ذلك لآية لّقوم يؤمنون» کہیں نہیں ھے علاوہ ازیں «انّ فى ذلك لآيات لّقوم يسمعون» يونس ٦٧ و الروم ٢٣ میں اور «انّ فى ذلك لآية لقوم يسمعون» النحل ٦٥ میں، «انّ فى ذلك لآيات لقوم يتفكّرون» الرعد ٣ ـ الروم ٢١ ـ

الزمر ٤٢ و الجاثیۃ ١٣ میں اور « اِنّ فی ذلك لآیة لقومٍ یتفکّرون » النحل ١١ و ٦٩ میں، « انّ فی ذلك لآیات لّقوم یعقلون » الرعد ٤ ۔ النحل ١٢ و الروم ٢٤ میں، « انّ فی ذلك لآیة لقوم یعقلون » النحل ٦٧ میں اور « وتصریف الرّیاح والسّحاب المُسخّر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون » البقرة ١٦٤ میں، « انّ فی ذلك لآیات لّکل صبّار شکور » ابراهیم ٥ ۔ لقمان ٣١ ۔ سبا ١٩ و الشوریٰ ٣٣ میں، « انّ فی ذلك لآیات للمتوسّمین » الحجر ٧٥ میں، « انّ فی ذلك لآیات لّاولی النّهٰی » طه ٥٤ و ١٢٨ میں، « انّ فی ذلك لآیات وان کنّا لمبتلین » المؤمنون ٣٠ میں، « انّ فی ذلك لآیاتٍ للعالمین » الروم ٢٢ میں اور « انّ فی ذلك لآیاتٍ ط افلا یسمعون » السجدة ٢٦ میں آیا هے نیز « انّ فی ذلك لآیات » ضمیمه ٢٢٥ میں اور « انّ فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون » ضمیمه ٩٢٣ میں، « انّ فی ذلك لآیة » ضمیمه ٢٢٤ میں اور « انّ فی ذلك لایة ط وما کان اکثرهم مؤمنین » ضمیمه ٢٠٥ میں، « لقوم یؤمنون » ضمیمه ٣٥٥ میں، « لقوم یوقنون » ضمیمه ٣٥٢ میں، « لقوم یعقلون » ضمیمه ٣٥٣ میں، « لقوم یعلمون » ضمیمه ٣٥٤ میں اور « لقوم یتفکرون » ضمیمه ٣٥٦ میں هے.

۲۰۱۔ وَاذْکُرْ فِی الْکِتٰبِ (٥ بار) اور اس کتاب (قرآن) میں ذکر کیجئے۔

Relate in the Book.

مریم ١٦، ٤١، ٥١، ٥٤ اور ٥٦ خیال رهے که تمام مواقع صرف سورة مریم (سولهویں پاره) میں آئے هیں جبکه « واذکر ربك » آل عمران ٤١ ۔ الاعراف ٢٠٥ و الکهف ٢٤ میں، « واذکر اسم ربك » المزمل ٨ و الدهر ٢٥ میں اور « وَذَکَرَ اسم ربّهٖ » الاعلی ١٥ میں، « واذا ذکرت ربك فی القرآن » الاسرآء ٤٦ میں، « واذا ذکر اللّٰه » الزمر ٤٥ میں، « اذا ذکر اللّٰه » الانفال ٢ و الحج ٣٥ میں اور « واذا ذکر الذین من دونه » الزمر ٤٥ میں آیا هے نیز « واذکر عبدنا » صٓ ١٧ و ٤١ میں، « واذکر عبادنا » صٓ ٤٥ میں، « واذکر اسماعیل » صٓ ٤٨ میں، « واذکر اخا عاد » الاحقاف ٢١ میں اور « واذکرن ما یتلٰی فی بیوتکنّ » الاحزاب ٣٤ میں آیا هے علاوه ازیں « واذکروا اسم اللّٰه علیه » المآئدة ٤ میں، « ممّا ذکر اسم اللّٰه علیه » الانعام ١١٨ و ١١٩ میں، « ممّا لم یذکر اسم اللّٰه علیه » الانعام ١٢١ میں، « لا یذکرون اسم اللّٰه علیها » الانعام ١٣٨ میں، « فاذکروا اسم اللّٰه علیها » الحج ٣٦ میں، « ویذکروا اسم اللّٰه فی ایّام مّعلومات » الحج ٢٨ میں اور « لیذکروا اسم اللّٰه علیٰ ما رزقهم من بهیمة الانعام » الحج ٣٤ میں آیا هے جبکه « فی الکتاب » البقرة ١٥٩ و ١٧٦ ۔ النسآء ١٢٧ و ١٤٠ ۔ الانعام ٣٨ ۔ الاسرآء ٤ و ٥٨ اور الاحزاب ٦ میں نیز « اذکروا نعمة اللّٰه علیکم » ضمیمه ٧٨ میں، « واذکروا اللّٰه » ضمیمه ٤٧٧ میں ، « فذکّر » ضمیمه ٤٧٨ میں، « وذکریٰ للمؤمنین » ضمیمه ٤٨٠ میں، « عن ذکر اللّٰه » ضمیمه ٤٧٩ میں، « فلمّا نسوا ما ذکّروا بهٖ » ضمیمه ٦٨٧ میں اور « فی کتاب اللّٰه » ضمیمه ٨٢٧ میں هے.

۲۰۲۔ وَکَمْ اَهْلَکْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ (٣ بار) اورہم ان سے پہلے (بہت سے گروہوں کو) ہلاک کر چکے ہیں۔

And how many (coutless) genertions before them have we destroyed.

مریم ٧٤ و ٩٨ اور قٓ ٣٦ جبکه « کَمْ اَهْلَکنا مِن قبْلهم من قرنٍ » الانعام ٦ و صٓ ٣ میں، « کم اهلکنا قبلهم من القرون » طه ١٢٨ و یٰسٓ ٣١ میں، « کم اهلکنا من قبلهم من القرون » السجدة ٢٦ میں، « وکم هلکنا من القرون » الاسرآء ١٧ میں، « وکم اهلکنا من قریة » القصص ٥٨ میں، « وکم من قریة اهلکناها » الاعراف ٤ میں اور « وکم قصمنا من قریة » الانبیآء ١١ میں هے علاوه ازیں « ومآ اهلکنا من قریة » الحجر ٤ و الشعرآء ٢٠٨ میں، « ولقد اهلکنا القرون » یونس ١٣ میں، « من بعد مآ اهلکنا القرون » القصص ٤٣ میں،

« قد اهلك من قبله من القرون » القصص ۷۸ میں، « ولقد اهلكنا ما حولكم » الاحقاف ۲۷ میں اور « ولقد اهلكنا اشیاعكم » القمر ۵۱ میں نیز « فلولا كان من القرون » هود ۱۱٦ میں، « فاهلكته » آل عمران ۱۱۷ میں، « اهلكتهم » الاعراف ۱۵۵ میں اور « اهلكت » البلد ٦ میں آیا هے علاوه ازیں « فاهلكنا هم بذنوبهم » ضمیمه ۷۰۳ میں، « الذين من قبلهم » ضمیمه ۷۹۳ میں اور « وكاين من قرية » ضمیمه ۱۱۲ میں هے۔

۲۰۳۔ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى (۵ بار) بہتر اور باقی رہنے والا۔

Best and most abiding.

طٰه ۷۳ و ۱۳۱ ۔ القصص ٦۰ ۔ الشورٰی ۳٦ اور الاعلیٰ ۱۷ جبكه « اشدّ عذابا وّابقٰى » طٰه ۷۱ میں، « اشدّ وابقٰى » طٰه ۱۲۷ میں اور « وثمود فمآ ابقٰى » النجم ۵۱ میں هے۔

۲۰٤۔ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ (٦ بار) ایک دوسرے پر

And some would have lorded it over others.

المومنون ۹۱ ۔ الصآفات ۲۷ و ۵۰ ۔ صٓ ۲٤ ۔ الطور ۲۵ اور القلم ۳۰ جبكه « بعضُكم علىٰ بعض » النور ۵۸ میں، « بعضَهم علىٰ بعض » البقرة ۲۵۳ ۔ النسآء ۳٤ و الاسرآء ۲۱ میں، « بعضَكم علىٰ بعض » النسآء ۳۲ و النحل ۷۱ میں ، « بعضُهم اِلىٰ بعضٍ » البقرة ۷٦ ۔ الانعام ۱۱۲ ۔ التوبة ۱۲۷ و سبا ۳۱ میں، « بعضُكم الىٰ بعض » النسآء ۲۱ میں، « بعضُنا علىٰ بعض » صٓ ۲۲ میں، « بعضَها علىٰ بعض » الرعد ٤ میں، « بعضَهٗ علىٰ بعض » الانفال ۳۷ میں اور « بعضَ النّبيّن علىٰ بعض » الاسرآء ۵۵ میں آیا هے علاوه ازیں « بعضُهم من بعض » التوبة ٦۷ میں، « بعضُكم من بعض » آل عمران ۱۹۵ و النسآء ۲۵ میں اور « بعضُها من بعض » آل عمران ۳٤ میں، « ورفع بعضهم درجات » البقرة ۲۵۳ میں، « ورفع بعضكم فوق بعض » الانعام ۱٦۵ میں، « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » الزخرف ۳۲ میں، « بعضها فوق بعض » النور ٤۰ میں اور « بعضهم فوق بعض » الزخرف ۳۲ میں، « بعضكم بأس بعض » الانعام ٦۵ میں، « وما بعضُهم بتابعٍ قبلة بعض » البقرة ۱٤۵ میں، « بعضَهم ببعض » البقرة ۲۵۱ ۔ الانعام ۵۳ و الحج ٤۰ میں، « بعضُكم ببعض » العنكبوت ۲۵ میں، « بعضَكم ببعض » محمد ٤ میں، « بعضُنا ببعض » الانعام ۱۲۸ میں اور « بعضنا بعضا » آل عمران ٦٤ میں آیا هے جبكه « بعضُهم اولیآء بعض » ضمیمه ۱۲۸ میں، « بعضُكم بعضا » ضمیمه ۷۳۹ میں اور « بَعضَ الذى » ضمیمه ۷۱۳ میں هے۔

۲۰۵۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (۸ بار)

بیشک اس میں عبرت ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔

Surely, in this is a Sign: but most of them do not believe.

الشعرآء ۸، ٦۷، ۱۰۳، ۱۲۱، ۱۳۹، ۱۵۸، ۱۷٤ اور ۱۹۰ خیال رهے كه تمام مواقع صرف سورة الشعرآء (انیسویں پاره) میں هیں جبكه « انّ فى ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين » البقرة ۲٤۸ و آل عمران ٤۹ میں اور « انّ فى ذلك لآية للمؤمنين » الحجر ۷۷ و العنكبوت ٤٤ میں، « انّ فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة » هود ۱۰۳ میں، « انّ فى ذلك لآية لقوم يتفكرون » النحل ۱۱ و ٦۹ میں، « انّ فى ذلك لآية لقوم يذّكرون » النحل ۱۳ میں، « انّ فى ذلك لآية لقوم يسمعون » النحل ٦۵ میں، « انّ فى ذلك لآية لقوم يعقلون »

النحل ٦٧ میں، «انّ فی ذلك لآیة لقوم یعلمون» النمل ٥٢ میں اور «انّ فی ذلك لآیة لکل عبد مّنیب» سبا ۹ میں ھے علاوہ ازیں «وما یؤمن اکثرھم باللّٰہ» یوسف ١٠٦ میں، «کان اکثرھم مشرکین» الروم ٤٢ میں، «اکثرھم بھم مؤمنون» سبا ٤١ میں اور «وما کانوا مؤمنین» الاعراف ٧٢ میں آیا ھے نیز «انّ فی ذلك لآیة» ضمیمہ ٢٢٤ میں، «انّ فی ذلك لآیات» ضمیمہ ٢٢٥ میں، «انّ فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون» و تفصیلی معلومات ضمیمہ ٢٠٠ میں، «وما کان من المشرکین» ضمیمہ ٥٤ میں، «وما کان اللّٰہ» ضمیمہ ٨٣٤ میں اور «وما کان لنفس» ضمیمہ ٨٩٨ میں، «وما کانوا» و مزید معلومات ضمیمہ ١٠١٠ میں، «ولکنّ اکثرھم لا یعلمون» ضمیمہ ١٤٣ میں، «ولکنّ اکثر الناس لا یعلمون» ضمیمہ ١٧٢ میں اور «بل اکثرھم لا یعلمون» ضمیمہ ١٩٩ میں ھے۔

۲۰۶۔ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (٨ بار) اور بیشک تمہارا رب، غالب (اور) مہربان ہے۔

And surely, your Lord is He, the Exalted in Might, Most Merciful.

الشعرآء ٩، ٦٨، ١٠٤، ١٢٢، ١٤٠، ١٥٩، ١٧٥ اور ١٩١ خیال رھے کہ تمام مواقع صرف سورۃ الشعرآء (انیسویں پارہ) میں آئے ھیں جبکہ «وانّ ربّك لذو مغفرۃ للنّاس علی ظلمھم» الرعد ٦ میں، «وانّ ربك ھو یحشرھم» الحجر ٢٥ میں اور «وانّ ربك لیحکم بینھم یوم القیامۃ» النحل ١٢٤ میں، «وھو العزیز الرّحیم» الروم ٥ میں، «وتوکل علی العزیز الرحیم» الشعرآء ٢١٧ میں، «تنزیل العزیز الرحیم» یٰسٓ ٥ میں اور «انّه ھو العزیز الرحیم» الدخان ٤٢ میں آیا ھے علاوہ ازیں «انّ ربك» ضمیمہ ٤٥١ میں، «انّ ربّی» ضمیمہ ٤٥٠ میں اور «وربّك» ضمیمہ ٤٥٢ میں، «واللّٰہ عزیز حکیم» ضمیمہ ٧٦ میں، «واللّٰہ علیم حکیم» ضمیمہ ١١٩ میں، «وھو العزیز الحکیم» ضمیمہ ١٩٣ میں اور «انك انت العزیز الحکیم» ضمیمہ ٧٣١ میں ھے۔

۲۰۷۔ اَلَا تَتَّقُوْنَ (٦ بار) کیا تم ڈرتے نہیں؟

Will you not fear (Allah)?

الشعرآء ١٠٦، ١٢٤، ١٤٢، ١٦١ و ١٧٧ اور الصّافات ١٢٤ خیال رھے کہ سوائے ایك کے تمام مواقع صرف سورۃ الشعرآء (انیسویں پارے) میں آئے ھیں جبکہ «اَلا یتقون» الشعرآء ١١ میں اور «وھم لا یتقون» الانفال ٥٦ میں ھے علاوہ ازیں «اَلآ انّھم ھم المفسدون» البقرۃ ١٢ میں، «اَلآ انّھم ھم السّفھاء» البقرۃ ١٣ میں، «اَلآ انّھم یثنون صدورھم» ھود ٥ میں، «اَلآ انّھم من افکھم لیقولون» الصآفات ١٥١ میں، «اَلآ انّھم فی مریۃ من لقآء ربھم» حم السجدۃ ٥٤ میں اور «اَلآ انّھم ھم الکاذبون» المجادلۃ ١٨ میں، «اَلآ انّھا قربۃ لھم» التوبۃ ٩٩ میں اور «اَلآ انّه بکل شیء مّحیط» حم السجدۃ ٥٤ میں، «اَلآ انّ نصر اللّٰہ قریب» البقرۃ ٢١٤ میں، «اَلآ انّ للّٰہ ما فی السمٰوٰت والارض» یونس ٥٥ و النور ٦٤ میں اور «اَلآ انّ للّٰہ من فی السمٰوٰت ومن فی الارض» یونس ٦٦ میں، «اَلآ انّ وعد اللّٰہ حق» یونس ٥٥ میں، «اَلآ انّ اولیآء اللّٰہ» یونس ٦٢ میں، اَلآ انّ عادًا کفروا ربھم» ھود ٦٠ میں اور «اَلآ انّ ثمود کفروا ربّھم» ھود ٦٨ میں، «اَلآ انّ اللّٰہ ھو الغفور الرحیم» الشورٰی ٥ میں، «اَلآ انّ الذین یمارون فی الساعۃ» الشورٰی ١٨ میں، «اَلآ انّ الظّٰلمین» الشورٰی ٤٥ میں، «اَلآ انّ حزب الشّیطان» المجادلۃ ١٩ میں اور «اَلآ انّ حزب اللّٰہ» المجادلۃ ٢٢ میں، «اَلا سآء ما یزرون» الانعام ٣١ و النحل ٢٥ میں اور «اَلا سآء ما یحکمون» النحل ٥٩ میں، «اَلا له الحکم» الانعام ٦٢ میں اور «اَلا له الخلق والامر» الاعراف ٥٤ میں، «اَلا انّما طآئرھم عند اللّٰہ» الاعراف ١٣١ میں، «اَلا تقاتلون» التوبۃ ١٣ میں، «اَلا فی الفتنۃ سقطوا» التوبۃ ٤٩ میں، «اَلا حین یستغشون ثیابھم» ھود ٥ میں، «اَلا یوم یأتیھم» ھود ٨ میں،

« آلا لعنة الله » ہود ۱۸ میں، « آلا بُعدا لِعادٍ قوم ھود » ہود ۶۰ میں، « آلا بُعدًا لّثمود » ہود ۶۸ میں اور « آلا بُعدالّمدین کما بعدت ثمود » ہود ۹۵ میں، « آلا ترون آنّی اوفی الکیل » یوسف ۵۹ میں، « آلا تحبّون آن یّغفر اللہ لکم » النور ۲۲ میں، « آلا تستمعون » الشعرآء ۲۵ میں، « آلا تأکلون » الصآفات ۹۱ و الذاریات ۲۷ میں، « آلا للہ الدّین الخالص » الزمر ۳ میں، « آلا ذلك ھو الخسران المبین » الزمر ۱۵ میں، « آلآ الی اللہ تصیر الامور » الشورٰی ۵۳ میں ، « آلا یعلم من خلق » الملك ۱۴ میں اور « افلا یعلم » العادیات ۹ میں آیا ھے نیز « افلا تتّقون » ضمیمہ ۱۶۵ میں، « افلا تعقلون » ضمیمہ ۳۱ میں اور « لعلّھم یتقون » ضمیمہ ۶۳ میں ھے۔

۲۰۸۔ اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ (۶ بار) میں تمہارے لئے امانت دار رسول ہوں۔

I am to you a Messenger worthy of all trust.

الشعرآء ۱۰۷، ۱۲۵، ۱۴۳، ۱۶۲ و ۱۷۸ اور الدخان ۱۸ خیال رھے کہ سوائے ایك کے تمام مواقع صرف سورۃ الشعرآء (انیسویں پارہ) میں آئے ھیں جبکہ « وانا لکم ناصحٌ امین » الاعراف ۶۸ میں، « اِنھم کانوا قومًا عمین » الاعراف ۶۴ میں، « ورسولٌ مبین » الزخرف ۲۹ میں، « رسولٌ مبین » الدخان ۱۳ میں، « رسولٌ کریم » الدخان ۱۷ میں اور « رسولٍ کریم » الحآقة ۴۰ و التکویر ۱۹ میں نیز « رسولُ اللہ » ضمیمہ ۳۴۰ میں ھے۔

۲۰۹۔ وَمَآ اَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (۵ بار)

اور میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا ' میرا صلہ تو بس ربُّ العالمین کے ذمّہ ہے۔

No reward do I ask of you for it: my reward is only from the Lord of the Worlds.

الشعرآء ۱۰۹، ۱۲۷، ۱۴۵، ۱۶۴ اور ۱۸۰ خیال رھے کہ تمام مواقع صرف سورۃ الشعرآء (انیسویں پارہ) میں آئے ھیں جبکہ « ویا قوم لآ اسئلکم علیه مالا ط ان اجری الّا علی اللہ » ھود ۲۹ میں، « یا قوم لآ اسئلکم علیه اجرا ط ان اجری الّا علی الذی فطرنی ط » ھود ۵۱ میں، « قل لّآ اسئلکم علیه اجرا » الانعام ۹۰ و الشورٰی ۲۳ میں، « اِتّبعوا من لّا یسئلکم اجرا » یٰسٓ ۲۱ میں، « آن اسئلك » ھود ۴۷ میں اور صرف « علیه اجرا » الکھف ۷۷ میں ھے علاوہ ازیں « فما سألتکم من اجر ط ان اجری الّا علی اللہ » یونس ۷۲ میں، « قل مآ سألتکم من اجر فھو لکم ان اجری الّا علی اللہ » سبا ۴۷ میں، « وما تسئلھم علیه من اجر » یوسف ۱۰۴ میں، « ام تسئلھم اجرا » الطور ۴۰ و القلم ۴۶ میں اور « قل مآ اسئلکم علیه من اجر » الفرقان ۵۷ و صٓ ۸۶ میں آیا ھے نیز « ولئن سألتھم » ضمیمہ ۱۷۷ میں، « لھم اجرھم عند ربھم » ضمیمہ ۷۳۸ میں، « الحمد للہ ربّ العالمین » ضمیمہ ۲ میں اور « ربّ العالمین » ضمیمہ ۵۶۶ میں ھے۔

۲۱۰۔ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ (۵ بار) مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے۔

Except those who believe, work righteousness.

الشعرآء ۲۲۷ ۔ صٓ ۲۴ ۔ الانشقاق ۲۵ ۔ التین ۶ اور العصر ۳ جبکہ « الّا الذین صبروا وعملو الصالحات » ھود ۱۱ میں اور « الّا الذین صبروا وما یلقّاھا » حمٓ السجدۃ ۳۵ میں نیز « الّا الذین کفروا » المؤمن ۴ میں آیا ھے علاوہ ازیں « اِلّا الذین تابوا » ضمیمہ ۵۷ میں ، « والذین آمنوا وعملوا الصالحات » ضمیمہ ۴۲ میں، « انّ الذین آمنوا وعملوا الصالحات » ضمیمہ ۹۲ میں، « الذین آمنوا وعملوا الصالحات » ضمیمہ ۲۸۶ میں ، « انّ الذین کفروا » ضمیمہ ۷ میں، « یاَیّھا الذین آمنوا » ضمیمہ ۴۷ میں اور « اِلّا عباد اللہ المخلصین » ضمیمہ ۲۱۶ میں ھے۔

۲۱۱- ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ (۵ بار) تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟

(Can there be another) god besides Allah?

النمل ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣ اور ٦٤ خیال رہے کہ تمام مواقع صرف سورة النمل (انیسویں پارہ) میں اور مُسلسل پانچ آیات جبکہ «ومن یّقل مِنهم اِنّی اِلٰهٌ من دونه» الانبیآء ۲۹ میں ہے علاوہ ازیں «ما لکم من الٰهٍ غیره» ضمیمه ۱٦۳ میں، «من الٰهٍ غیر اللّٰه» ضمیمه ۹۳۷ میں، «اَغیر اللّٰه» ضمیمه ۸٦٦ میں، «مع اللّٰه الٰهًا آخر» ضمیمه ۱۹۷ میں اور «انّ اللّٰه مع الصّابرین» ضمیمه ۷۳۷ میں ہے۔

۲۱۲- مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (۸ بار) جو تم کرتے رہے ہو۔

Which you have earned by your deeds.

النمل ۹۰ - العنکبوت ۵۵ - یٰسٓ ۵٤ - الصآفات ۳۹ - الجاثیة ۲۸ و ۲۹ - الطور ۱٦ اور التحریم ۷ جبکه «امّا ذا کنتم تعملون» النمل ۸٤ میں، «ما کنتم تکنزون» التوبة ۳۵ میں اور «ما کنتم تکسبون» الزمر ۲٤ میں نیز «بما کنتم تعملون» ضمیمه ۱۳۰ میں اور «ما کانوا یعملون» ضمیمه ۱۲۹ میں ہے۔

۲۱۳- وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ (۵ بار) اور جس دن قیامت قائم ہوگی۔

On the Day that the Hour will be established.

الروم ۱۲، ۱٤ و ۵۵ - المؤمن ٤٦ اور الجاثیة ۲۷ جبکه «حتّٰی اذا جآء تهم السّاعة بغتة» الانعام ۳۱ میں، «حتی تأتیهم السّاعة بغتة» الحج ۵۵ میں، «اَوتأتیهم السّاعة بغتة» یوسف ۱۰۷ میں، «هل ینظرون الّا الساعة ان تأتیهم بغتة» الزخرف ٦٦ میں اور «فهل ینظرون الّا السّاعة ان تاتیهم بغتة» محمد ۱۸ میں ہے علاوہ ازیں «لا تأتیکم الّا بغتة» الاعراف ۱۸۷ میں، «بل تأتیهم بغتة» الانبیآء ٤۰ میں اور «لا تأتینا السّاعة» سبا ۳ میں نیز «بغتة وّهم لا یشعرون» ضمیمه ۱٦۸ میں ہے۔

۲۱٤- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ (۱۱ بار) اور اسی کی نشانیوں میں سے۔

Among His Signs in this.

الروم ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲٤، ۲۵ و ٤٦ - حم السجدة ۳۷ و ۳۹ اور الشورٰی ۲۹ و ۳۲ خیال رہے که ابتدائی سات مواقع الروم، (اکیسویں پارہ) میں شامل ہیں جبکه «ویریکم آیاته» البقرة ۷۳ و المؤمن ۸۱ میں، «لیریکم من آیاته» لقمان ۳۱ میں اور «هو الذی یریکم آیاتهٖ» المؤمن ۱۳ میں، «یتلوا علیهم آیاتهٖ» آل عمران ۱٦٤ و الجمعة ۲ میں، «اَو کذّب بآیاتهٖ» الانعام ۲۱ - الاعراف ۳۷ و یونس ۱۷ میں اور «وآیاتهٖ» التوبة ٦۵ و الجاثیة ٦ میں نیز «کذلك یبیّن اللّٰه لکم آیاتهٖ» ضمیمه ۲۷٦ میں ہے۔

۲۱۵- صَيْحَةً وَّاحِدَةً (۵ بار) ایک نہایت زوردار آواز۔

Single mighty Blast.

یٰسٓ ۲۹، ٤۹ و ۵۳ - صٓ ۱۵ اور القمر ۳۱ جبکه «زجرة واحدة» الصآفات ۱۹ و النازعات ۱۳ میں، «نفخة وّاحدة» الحآقة ۱۳ میں اور «فدُکّتا دکّة واحدة» الحآقة ۱٤ میں نیز «ان کانت الّا صیحة واحدة» ضمیمه ۱۰٤۱ میں ہے۔

۲۱٦۔ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ (٤ بار) سوائے اللہ کے خالص بندوں کے۔

But the sincere (and devoted) Servants of Allah.

الصافات ٤٠، ٧٤، ١٢٨ اور ١٦٠ خیال رہے کہ تمام مواقع صرف الصافات (٢٣ ویں پارے) میں آئے ہیں جبکہ « لکنّا عباد اللّٰه المخلصین » الصافات ١٦٩ میں، « الّا عبادك منهم المخلصین » الحجر ٤٠ و صٓ ٨٣ میں اور « إنّه من عبادنا المخلصین » یوسف ٢٤ میں آیا ہے علاوہ ازیں « عبدًا للّٰه » النساء ١٧٢ میں، « عبدُ اللّٰه » مریم ٣٠ و الجن ١٩ میں، « عبادَ اللّٰه » الدخان ١٨ و الدھر ٦ میں، « وعبادُ الرحمٰن » الفرقان ٦٣ میں اور « عبادُ الرّحمٰن » الزخرف ١٩ میں نیز « إلّا الذین آمنوا وعملوا الصّالحات » ضمیمہ ٢١٠ میں، « الّا بالحق » ضمیمہ ٨٤٨ میں اور « إنّه من عبادنا المؤمنین » ضمیمہ ٢٧٥ میں ہے۔

۲۱۷۔ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ (٥ بار) ہم نیکی کرنیوالوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔

Thus indeed do we reward those who do right.

الصافات ٨٠، ١٠٥، ١٢١ و ١٣١ اور المرسلات ٤٤ خیال رہے کہ سوائے ایك کے تمام مواقع الصافات (٢٣ ویں سپارے) میں آئے ہیں جبکہ « كذلك نجزی الْمُحسنین » الصافات ١١٠ میں، « وذلك جزآء المحسنین » المائدة ٨٥ میں اور « ذلك جزآء المحسنین » الزمر ٣٤ میں، « وذلك جزآء من تزکّٰی » طه ٧٦ میں، « هل جزآء الاحسان الّا الاحسان » الرحمٰن ٦٠ میں، « إنّ اللّٰه یجزی المتصدّقین » یوسف ٨٨ میں اور « كذلك یجزی اللّٰه المتقین » النحل ٣١ میں آیا ہے علاوہ ازیں « وكذلك نجزی المحسنین » ضمیمہ ١٠٥١ میں، « كذلك نجزی القوم المجرمین » ضمیمہ ٤٣٣ میں، « كذلك یبین اللّٰه لكم آیاته » ضمیمہ ٢٧٦ میں، « وكذلك نفصل الآیات » ضمیمہ ٣٥١ میں، « كذلك كذّب الذین من قبلهم » ضمیمہ ٣٨٨ میں، « كذلك قال الذین » ضمیمہ ٧٦٨ میں اور « وذلك جزآء الظّٰلمین » ضمیمہ ٧٧٤ میں نیز « سیجزون » اور « ولنجزینّهم » ضمیمہ ٩٧٩ میں ہے۔

۲۱۸۔ حٰمٓ (٧ بار) حا۔ میم۔

Ha , Meem .

المؤمن ١ ۔ حم السجدة ١ ۔ الشوریٰ ١ ۔ الزخرف ١ ۔ الدخان ١ ۔ الجاثیة ١ اور الاحقاف ١ جبکہ « الٓمّٓصٓ » الاعراف ١ میں، « الٓمّٓرٰ » الرعد ١ میں، « كٓهٰیٰعٓصٓ » مریم ١ میں، « طٰهٰ » طه ١ میں، « طٰسٓمّٓ » الشعرآء ١ و القصص ١ میں، « طٰسٓ » النمل ١ میں، « یٰسٓ » یٰسٓ ١ میں، « صٓ » ص ١ میں، « عٓسٓقٓ » الشوریٰ ٢ میں، « قٓ » ق ١ میں اور « نٓ » القلم ١ میں آیا ہے علاوہ ازیں « الٓمّٓ » ضمیمہ ٣ میں اور « الٓرٰ » ضمیمہ ١٧٩ میں ہے۔

۲۱۹۔ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (٦ بار) پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔

But is there any that remembereth ?

القمر ١٥، ١٧، ٢٢، ٣٢، ٤٠ اور ٥١ خیال رہے کہ تمام مواقع صرف سورة القمر، (ستائیسویں پارہ) میں آئے ہیں جبکہ « فهل انتم مسلمون » ضمیمہ ١٠٠٦ میں، « هل ینظرون » ضمیمہ ٦٨ میں، « هل ینظرون إلّا ان یّأتیهم اللّٰه » ضمیمہ ٨٦٢ میں اور « هل ادلكم » ضمیمہ ٤٧٤ میں ہے۔

۲۲۰۔ عَذَابِیْ وَنُذُرِ (٦ بار) میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا۔

My Chastisement and My Warning.

القمر ١٦، ١٨، ٢١، ٣٠، ٣٧ اور ٣٩ خیال رهے که تمام مواقع صرف سورة القمر، (ستائیسویں پاره) میں آئے هیں جبکه «فکیف کان عذابی ونذر» ضمیمه ٧٨٠ میں هے.

۲۲۱۔ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ (٣١ بار) تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

Then which of the favours of your Lord will you deny ?

الرحمٰن ١٣، ١٦، ١٨، ٢١، ٢٣، ٢٥، ٢٨، ٣٠، ٣٢، ٣٤، ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤٢، ٤٥، ٤٧، ٤٩، ٥١، ٥٣، ٥٥، ٥٧، ٥٩، ٦١، ٦٣، ٦٥، ٦٧، ٦٩، ٧١، ٧٣، ٧٥ اور ٧٧ خیال رهے که تمام مواقع صرف سورة الرحمٰن (ستائیسویں پاره) میں آئے هیں جبکه «فبایّ الآءِ ربّك تتمارٰی» النّجم ٥٥ میں، «فبایّ حدیث بعده یؤمنون» الاعراف ١٨٥ و المرسلات ٥٠ میں، «فبایّ حدیث بعد الله وآیاته یؤمنون» الجاثیة ٦ میں اور «فایّ آیاتِ الله تنکرون» المؤمن ٨١ میں آیا هے علاوه ازیں «فایُّ الفریقین» الانعام ٨١ میں اور «ایُّ الفریقین» مریم ٧٣ میں، «ایُّ شيءٍ اکبر شهادة» الانعام ١٩ میں، «ایُّ الحزبین» الکهف ١٢ میں، «ایّ منقلب ینقلبون» الشعرآء ٢٢٧ میں، «بایّ ارضٍ تموت» لقمان ٣٤ میں اور «بایّ ذنبٍ قتلت» التکویر ٩ میں، «لایّ یومٍ اُجّلت» المرسلات ١٢ میں، «من ایّ شيءٍ خلقه» عبس ١٨ میں اور «فیٓ ایّ صورةٍ» الانفطار ٨ میں هے نیز «الّذی کنتم به تکذّبون» ضمیمه ٣١٩ میں اور «فکذّبوه» ضمیمه ٦٢٥ میں هے.

۲۲۲۔ فَلَآ اُقْسِمُ (٥ بار) پس مجھے قسم ہے۔

Furthermore I call to witness.

الواقعة ٧٥۔ الحاقة ٣٨۔ المعارج ٤٠۔ التکویر ١٥ اور الانشقاق ١٦ جبکه «لآ اُقسمُ» القیامة ١ و البلد ١ میں اور «ولآ اُقسمُ» القیامة ٢ میں آیا هے نیز «واقسموا» ضمیمه ٦٠٥ میں هے.

۲۲۳۔ وَیْلٌ یَّوْمَئِذٍ لِّلْمُکَذِّبِیْنَ (١١ بار) اس روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔

Ah woe, that Day, to the Rejecters of Truth!.

المرسلات ١٥، ١٩، ٢٤، ٢٨، ٣٤، ٣٧، ٤٠، ٤٥، ٤٧، ٤٩ اور المطففین ١٠ خیال رهے که سوائے ایك کے تمام مواقع سورة المرسلات میں هیں جبکه «فویلٌ یّومئذٍ لّلمکذّبین» الطور ١١ میں، «ویل لّکلّ افّاكٍ اثیم» الجاثیة ٧ میں، «ویل للمطففین» المطففین ١ میں، «ویل لکلّ همزة لّمزة» الهمزة ١ میں اور «ولکم الویل ممّا تصفون» الانبیآء ١٨ میں آیا هے علاوه ازیں «فویل لّلّذین کفروا» ضمیمه ٥١٦ میں اور «قالوا یاویلنا» ضمیمه ٣٩١ میں هے.

۲۲۴۔ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً (٢٠ بار) بیشک اس میں عبرت ہے۔

In this is a symbol.

البقرة ٢٤٨۔ آل عمران ٤٩۔ هود ١٠٣۔ الحجر ٧٧۔ النحل ١١، ١٣، ٦٥، ٦٧ و ٦٩۔ الشعرآء ٨، ٦٧، ١٠٣، ١٢١، ١٣٩، ١٥٨، ١٧٤ و ١٩٠۔ النمل ٥٢۔ العنکبوت ٤٤ اور سبا ٩ جبکه «انّ فی ذلك لعبرة» آل عمران ١٣۔ النور ٤٤ والنازعات ٢٦ میں، «انّ فی هٰذا لبلاغًا» الانبیآء ١٠٦ میں، «انّ فی ذلك لرحمة»

العنکبوت ۵۱ میں اور « انّ فی ذلك لذکرٰی » الزمر ۲۱ و قٓ ۳۷ میں آیا ہے علاوہ ازیں « فی ذلك ان ارادوا اصلاحا » البقرة ۲۲۸ میں، « وفی ذلك فلیتنافس المتنافسون » المطففین ۲۶ میں اور « وفی ذلکم بلآء من ربکم عظیم » البقرة ۴۹ ۔ الاعراف ۱۴۱ و ابراھیم ۶ میں نیز « انّ فی ذلك لآیات » ضمیمہ ۲۲۵ میں، « انّ فی ذلك لآیٰت لقوم یؤمنون » ضمیمہ ۲۰۰ میں اور « انّ فی ذلك لآیٰت لقوم یتفکرون » ضمیمہ ۹۲۳ میں ھے.

۲۲۵۔ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ (۲۴ بار) بیشک اس میں ان لوگوں کیلئے دلیلیں ہیں۔

Surely in this are signs.

یونس ۶۷ ۔ الرعد ۳ و ۴ ۔ ابراھیم ۵ ۔ الحجر ۷۵ ۔ النحل ۱۲ و ۷۹ ۔ طٰهٰ ۵۴ و ۱۲۸ ۔ المؤمنون ۳۰ ۔ النمل ۸۶ ۔ العنکبوت ۲۴ ۔ الروم ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۳۷ ۔ لقمان ۳۱ ۔ السجدة ۲۶ ۔ سبا ۱۹ ۔ الزمر ۴۲ و ۵۲ ۔ الشورٰی ۳۳ اور الجاثیة ۱۳ جبکہ « انّ فی ذلکم لآیات » الانعام ۹۹ میں نیز « انّ فی ذلك لآیةً » ضمیمہ ۲۲۴ میں، « انّ فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون » ضمیمہ ۲۰۰ میں اور « انّ فی ذلك لآیٰت لقوم یتفکرون » ضمیمہ ۹۲۳ میں ھے.

۲۲۶۔ اَلَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ (۳ بار) جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا۔

Who has made the earth (your couch.)

البقرة ۲۲ ۔ طٰهٰ ۵۳ اور الزخرف ۱۰ جبکہ « اَللّٰہ الذی جعل لکم الارض » المؤمن ۶۴ میں اور « ھو الذی جعل لکم الارض » الملك ۱۵ میں آیا ھے علاوہ ازیں « واللّٰہ جعل لکُم الارض » نوح ۱۹ میں، « وھو الذی جعلکم خلآئف الارض » الانعام ۱۶۵ میں، « ھو الذی جعلکم خلآئف فی الارض » فاطر ۳۹ میں اور « ثم جعلناکم خلآئف فی الارض » یونس ۱۴ میں ھے نیز « اللّٰہ الذی » ضمیمہ ۴۵۷ میں، « ھو الذی خلقکم » ضمیمہ ۴۶۶ میں، « وھو الذی انشأ جنّٰت » ضمیمہ ۶۸۸ میں، « ھو الذی یریکم » ضمیمہ ۷۴۰ میں، « ھو الذی ارسل رسوله » ضمیمہ ۷۴۲ میں، « تبارك الذی » ضمیمہ ۷۷۸ میں اور « ان ربکم اللّٰہ الذی » ضمیمہ ۱۰۴۶ میں ھے.

۲۲۷۔ بِمَا کَانُوْا یَفْسُقُوْنَ (۵ بار) بسبب اس کے نافرمانیاں کرتے تھے۔

For that they infringed (Our command) repeatedly.

البقرة ۵۹ ۔ الانعام ۴۹ ۔ الاعراف ۱۶۳ و ۱۶۵ اور العنکبوت ۳۴ جبکہ « بما کانوا یکذبون » البقرة ۱۰ میں اور « وبما کانوا یکذبون » التوبة ۷۷ میں، « بما کانوا یصنعون » المآئدة ۱۴ و النحل ۱۱۲ میں اور « ما کانوا یصنعون » المآئدة ۶۳ میں، « بما کانوا یکتمون » المآئدة ۶۱ میں، « بما کانوا یکفرون » الانعام ۷۰ ۔ یونس ۴ و ۷۰ میں اور « بانھم کانوا یکفرون » البقرة ۶۱ و آل عمران ۱۱۲ میں، « بما کانوا یقترفون » الانعام ۱۲۰ میں اور « بما کانوا یفترون » الانعام ۱۳۸ میں، « بما کانوا یمکرون » الانعام ۱۲۴ میں، « بما کانوا یصدفون » الانعام ۱۵۷ میں، « بما کانوا یفعلون » الانعام ۱۵۹ و ھود ۳۶ میں، « بما کانوا بآیاتنا یظلمون » الاعراف ۹ میں اور « بما کانوا بآیاتنا یجحدون » حم السجدة ۲۸ میں، « بما کانوا یظلمون » الاعراف ۱۶۲ میں، « بما کانوا فیه یمترون » الحجر ۶۳ میں، « بما کانوا یفسدون » النحل ۸۸ میں اور « بما کانوا به یشرکون » الروم ۳۵ میں آیا ھے علاوہ ازیں « بما عصوا وّکانوا یعتدون » البقرة ۶۱ ۔ آل عمران ۱۱۲ و المآئدة

۷۸ میں اور « وبما کنتم تفسقون » الاحقاف ۲۰ میں نیز « بما کانوا یکسبون » ضمیمه ۱۵۵ میں، « ما کانوا یکسبون » ضمیمه ۵۸۱ میں، « بما کانوا یعملون » ضمیمه ۱۵۲ میں، « ما کانوا یعملون » ضمیمه ۱۲۹ میں، « ما کانوا یفترون » ضمیمه ۱۳۹ میں، « ما کانوا به یستهزء ون » ضمیمه ۱۸۵ میں، « وما کانوا مهتدین » ضمیمه ۱۰۱۰ میں، « بما کنتم تعملون » ضمیمه ٦٧٥ میں اور « بما کنتم تکفرون » ضمیمه ۷٤۸ میں ھے۔

۲۲۸- فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ (۵ بار)

پس دیکھیں، کہ جولوگ ان سے پہلے گذرے ہیں، ان کا انجام کیا ہو۔

And see what was the end of those before them?

یوسف ۱۰۹ - الروم ۹ - فاطر ٤٤ - المؤمن ۸۲ اور محمد ۱۰ جبکه « کانُوا مِن قبلهم » کیساته المؤمن ۲۱ میں ھے علاوه ازیں « فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل » الروم ٤٢ میں، « ثم کان عاقبة الذین » الروم ۱۰ میں، « اولم ینظروا » الاعراف ۱۸۵ میں اور « افلم ینظروا » قٓ ٦ میں، « فینظرَ » الاعراف ۱۲۹ میں، « لننظرَ » یونس ١٤ میں ، « فلیَنظرُ » الکهف ۱۹ و الحج ۱۵ میں اور « فلینظُر الانسان » عبس ٢٤ و الطارق ٥ میں ھے نیز « أُنظر کیف » ضمیمه ۱۲۰ میں، « فانظر کیف » ضمیمه ۱٦۷ میں، « فا نظروا کیف کان » ضمیمه ۹۰۳ میں، « کیف کان عاقبة المکذبین » ضمیمه ۳۰۱ میں، « فکیف کان » ضمیمه ۱۹۱ میں، « فکیف کان نکیر » ضمیمه ۷۸۰ میں، « فکیف کان عذابی ونذر » ضمیمه ۱۰۱٤ میں اور « کیف یشآء » ضمیمه ۷۸۱ میں ھے۔

۲۲۹- يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ (٦ بار)

وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔

Allah creates what He wills.

آل عمران ٤٧ - المآئدة ۱۷ - القصص ٦٨ - الروم ٥٤ - الزمر ٤ اور الشورٰی ٤٩ جبکه « یخلُقُ الله ما یشآء » النور ٤٥ میں، « یفعل ما یشآء » آل عمران ٤٠ و الحج ۱۸ میں، « ویفعل لله ما یشآء » ابراهیم ۲۷ میں، « یمحُوا الله ما یشآء » الرعد ۳۹ میں، « من بعدکم ما یشآء » الانعام ۱۳۳ میں، « یعملون له ما یشآء » سبا ۱۳ میں، « یزید فی الخلق ما یشآء » فاطر ۱ میں، « ولکن یّنزّل بقد رٍ مّا یشآء » الشورٰی ۲۷ میں، « فیوحی باذنه ما یشآء » الشورٰی ٥١ میں اور « وعلّمه ممّا یشآء » البقرة ۲٥۱ میں علاوه ازیں « ویخلق ما لا تعملون » النحل ۸ میں، « افمن یّخلق کمن لّا یخلق » النحل ۱۷ میں اور « یخلق بنات » الزخرف ۱٦ میں، « ما لا یخلق شیئا وّهم یخلقون » الاعراف ۱۹۱ میں اور « لا یخلقون شیئًا وّهم یخلقون » النحل ۲۰ و الفرقان ۳ میں آیا ھے نیز « ماشآء الله » و تفصیلی معلومات ضمیمه ۱٥٤ میں ھے۔

۲۳۰- الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ (۷ بار) جولوگ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال چکے۔

It is they who have lost their own souls.

الانعام ۱۲ و ۲۰ - الاعراف ۹ - هود ۲۱ - المؤمنون ۱۰۳ - الزمر ۱۵ اور الشورٰی ٤٥ جبکه « قد خسروا انفسهم » الاعراف ٥٣ میں، « قد خسر الذین » الانعام ۳۱ و ۱٤۰ و یونس ٤٥ میں، « وخسر هنالك المبطلون » المؤمن ۷۸ میں اور « وخسر هنالك الکافرون » المؤمن ۸۵ میں آیا ھے علاوه ازیں « فقد خسر خسرانا مّبینا » النسآء ۱۱۹ میں، « ذلك هو الخسران المبین » الحج ۱۱ و الزمر ۱۵ میں ، « خسر الدنیا والآخرة » الحج ۱۱ میں اور « یومئذٍ یّخسر المبطلون » الجاثیة ۲۷ میں نیز « اولٓئك هم الخسرون » ضمیمه ٤٦۱ میں ھے۔

﴿ خوشخبری ﴾

الحمدللہ یہ ضمیمے نئی ترتیب واضافی معلومات سے مزین کر کے اس نسخہ میں شامل کیے گئے ہیں جبکہ اس سلسلہ کی اگلی کاوش ''القرآنُ الکریم مع تفصیل المتشابہات '' کے عنوان سے زیرِ تالیف ہے جس میں اب تک الحمدللہ ۱۱۰۰ سے زائد ضمیمے یکجا کیے جاچکے ہیں اور مزید تلاش بھی جاری ہے۔ خیال رہے کہ '' القرآنُ الکریم مع تشریح المتشابہات '' میں شامل ۲۳۰ ضمیموں میں افائدہ عام کے لئے حسب مواقع اُن ضمیموں کے حوالے بھی شامل کردیے گئے ہیں جنھیں آپ ان شآء اللہ تعالیٰ بہت جلد ''القرآن الکریم مع تفصیل المتشابہات '' میں ملاحظہ کرسکیں گے۔ دعا فرمایئے کہ اللہ ربّ العزت فدوی قاری محمد سلیم رفیق کی اس کوشش کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور '' القرآنُ الکریم مع تفصیل المتشابہات '' جلد از جلد طباعت کے مراحل طے کرکے پوری دنیا کے طلباء ، حفاظ، علمآء واہلِ علم حضرات کے لئے انتہائی نافع، باعث استفادہ وحصولِ علم کا ذریعہ بن سکے نیز اللہ تعالیٰ اسے میرے لئے، میرے والدین اور میرے تمام اساتذہ کرام خصوصًا حضرت قاری حافظ کریم الدّین رحمہُ اللہ اور ان کے فرزندِ ارجمند ''قرآنی کمپیوٹر '' حضرت قاری عبدالحلیم نوّر اللہ مرقدہٗ کیلئے، میرے برادرِ نسبتی حافظ عبدالمتعال فرزند ''قرآنی کمپیوٹر '' حضرت قاری عبدالحلیم نوّر اللہ مرقدہ ، میرے ہونہار فرزند حافظ محمد سعد سلیم اور حافظ محمد حسن سلیم ، میرے باکمال فرزندِ روحانی حافظ محمد عثمان اور دیگر تمام معاونین کے لئے اپنی رضا وخوشنودی کا باعث، جنت الفردوس الاعلیٰ کے حصول اور اپنے دیدار کا سبب، حضورِ اکرم ﷺ کی شفاعت اور پوری امّت کی مغفرت وبخشش کا ذریعہ بنائے آمین۔

وصلّی اللہ تعالیٰ علی خیرِ خلقهِ ونورِ عرشهٖ سیّدنا ونبیّنا ومولانا محمّد وّ علیٰ آلہ واصحابه واهل بیتهٖ اجمعین برحمتک یا ارحم الرّٰحمین۔

مصحّحین

۱۔ شیخ القراء حضرت مولانا حافظ قاری رحیم بخش پانی پتی رحمہُ اللہ مہتمم مدرسہ تعلیم القرآن خیر المدارس ملتان۔
۲۔ مولانا قاری محمد طاہر رحیمی رحمہُ اللہ مہتمم شعبہ تجوید وقراءت واستاذ حدیث مدرسہ قاسم العلوم ملتان۔
۳۔ مولانا عزیز الرحمٰن صاحب دار العلوم کراچی۔
۴۔ قاری محمد اسحاق صاحب مدرسہ تعلیم القرآن، مسجد سراجاں ملتان۔
۵۔ مولانا حافظ قاری محمد یعقوب صاحب مہتمم شعبہ تجوید مدرسہ تعلیم ابرار ملتان۔
۶۔ مولانا حافظ قاری امین اشرف صاحب کلیۃ القرآن جامعہ اسلامیہ مدینہ منوّرہ۔
۷۔ حافظ قاری عبدالرؤف بن عبدالواحد صاحب فاضل عبیدیہ بھوپال کراچی۔
۸۔ حافظ قاری سید معین الدین صاحب مارٹن روڈ کراچی۔

تصدیق

میں نے مدرسہ حفظ القرآن اسلم روڈ کی طرف سے شائع ہونے والے قرآن مجید کے متن کر پروف پڑھے ہیں بحمداللہ اس میں آیات کے الفاظ واعراب میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ فقط حافظ محمد ابراھیم فیضی رجسٹرڈ پروف ریڈر، محکمہ اوقاف، کراچی۔

ناشر: الحافظ پبلیشرز مدرسہ حفظ القرآن اسلم روڈ عقب جامع مسجد عیدگاہ جامع کلاتھ مارکیٹ۔ ایم اے جناح روڈ کراچی ۷۴۲۰۰

Al Hafiz Publisher Madarsa-e-Hifzil Quran Asalm Road ,Near Jama Masjid Eid Gah M .A .Jinnah Road. Karachi, 74200 Pakistan.

Email: Hafiz_Hasansaleem@yahoo.com

MOB : 0092-0321-3899820 Phone: 0092-021-32733617,0092-021-36069281

دُعَاءِ خَتمِ القُرآن

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ ۝ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِكُلِّ حَرْفٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ حَلَاوَةً وَّبِكُلِّ جُزْءٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ جَزَآءً اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِالْاَلِفِ اُلْفَةً وَّبِالْبَاءِ بَرَكَةً وَّبِالتَّاءِ تَوْبَةً وَّبِالثَّاءِ ثَوَابًا وَّبِالْجِيْمِ جَمَالًا وَّبِالْحَاءِ حِكْمَةً وَّبِالْخَاءِ خَيْرًا وَّبِالدَّالِ دَلِيْلًا وَّبِالذَّالِ ذَكَآءً وَّبِالرَّآءِ رَحْمَةً وَّبِالزَّاءِ زَكٰوةً وَّبِالسِّيْنِ سَعَادَةً وَّبِالشِّيْنِ شِفَآءً وَّبِالصَّادِ صِدْقًا وَّبِالضَّادِ ضِيَآءً وَّبِالطَّاءِ طَرَاوَةً وَّبِالظَّاءِ ظَفَرًا وَّبِالْعَيْنِ عِلْمًا وَّبِالْغَيْنِ غِنًى وَّبِالْفَآءِ فَلَاحًا وَّبِالْقَافِ قُرْبَةً وَّبِالْكَافِ كَرَامَةً وَّبِاللَّامِ لُطْفًا وَّبِالْمِيْمِ مَوْعِظَةً وَّبِالنُّوْنِ نُوْرًا وَّبِالْوَاوِ وُصْلَةً وَّبِالْهَآءِ هِدَايَةً وَّبِالْيَاءِ يَقِيْنًا اَللّٰهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ۝ وَارْفَعْنَا بِالْاٰيٰتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝ وَ تَقَبَّلْ مِنَّا قِرَآءَتَنَا وَتَجَاوَزْ عَنَّا مَا كَانَ فِيْ تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ مِنْ خَطَاٍ اَوْ نِسْيَانٍ اَوْ سَهْوٍ لَفْظِيٍّ فِيْ تَحْرِيْفِ كَلِمَةٍ عَنْ مَّوَاضِعِهَآ اَوْ تَقْدِيْمٍ اَوْ تَاْخِيْرٍ اَوْ زِيَادَةٍ اَوْ نُقْصَانٍ اَوْ تَاْوِيْلٍ عَلٰى غَيْرِ مَآ اَنْزَلْتَهٗ عَلَيْهِ اَوْ رَيْبٍ اَوْ شَكٍّ اَوْ سَهْوٍ اَوْ سُوْٓءِ اَدَاءٍ اَوْ تَعْجِيْلٍ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ اَوْ كَسْلٍ اَوْ سُرْعَةٍ اَوْ زَيْغِ لِسَانٍ اَوْ وَقْفٍ بِغَيْرِ وُقُوْفٍ اَوْ اِدْغَامٍ بِغَيْرِ مُدْغَمٍ اَوْ اِظْهَارٍ بِغَيْرِ بَيَانٍ اَوْ مَدٍّ اَوْ تَشْدِيْدٍ اَوْ هَمْزَةٍ اَوْ جَزْمٍ اَوْ اِعْرَابٍ بِغَيْرِ مَا كُتِبَ اَوْ قِلَّةِ رَغْبَةٍ وَّرَهْبَةٍ عِنْدَ اٰيَاتِ الرَّحْمَةِ وَاٰيَاتِ الْعَذَابِ فَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا وَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ قُلُوْبَنَا بِالْقُرْاٰنِ وَزَيِّنْ اَخْلَاقَنَا بِالْقُرْاٰنِ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْاٰنِ وَاَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ بِالْقُرْاٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْاٰنَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِيْنًا وَّفِي الْقَبْرِ مُوْنِسًا وَّعَلَى الصِّرَاطِ نُوْرًا وَّفِي الْجَنَّةِ رَفِيْقًا وَّمِنَ النَّارِ سِتْرًا وَّحِجَابًا وَّاِلَى الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا دَلِيْلًا فَاكْتُبْنَا عَلَى التَّمَامِ وَارْزُقْنَا اَدَآءً بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَحُبَّ الْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ وَالْبِشَارَةِ مِنَ الْاِيْمَانِ ۝ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖٓ اَجْمَعِيْنَ ط وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ۝

رُموزِ اوقاف قرآنِ مجید

ہر ایک زبان کے اہلِ زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھر جاتے ہیں کہیں نہیں ٹھہرتے۔ کہیں کم ٹھہرتے ہیں کہیں زیادہ۔ اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآنِ مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے اسی لئے اہلِ علم نے اسکے ٹھرنے نہ ٹھرنے کی علامتیں مقرر کردی ہیں جن کو رُموزِ اوقاف قرآنِ مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآنِ مجید کی تلاوت کرنے والے ان رُموز کو ملحوظ رکھیں۔ اور وہ یہ ہیں:

○ جہاں بات پُوری ہو جاتی ہے، وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت میں گول ۃ ہے جو بہ صورت ۃ لکھی جاتی ہے اور یہ وقفِ تام کی علامت ہے یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اب ۃ تو نہیں لکھی جاتی، چھوٹا سا حلقہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو آیت کہتے ہیں۔

م یہ علامت وقفِ لازم کی ہے۔ اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ اسکی مثال اُردو میں یوں سمجھنی چاہیے کے مثلاً کسی کو یہ کہنا ہو کہ اٹھو، مت بیٹھو۔ جس میں اُٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہی ہے۔ تو اُٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے۔ اگر ٹھہرا نہ جائے تو اُٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا جس میں اُٹھنے کی نہی اور بیٹھنے کے اُمر کا احتمال ہے اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔

ط وقفِ مطلق کی علامت ہے اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔

ج وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔

ز علامت وقف مجوّز کی ہے۔ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔

ص علامت وقف مرخّص کی ہے۔ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ ص پر ملا کر پڑھنا ز کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے

صلے الوصل اولیٰ کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔

ق قیل علیہ الوقف کا خُلاصہ ہے۔ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔

صل قد یُوصل کی علامت ہے یعنی یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے کبھی نہیں۔ لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔

قف یہ لفظ قِف ہے جسکے معنی ہیں ٹھہر جاؤ۔ اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔

س یا سکتہ سکتہ کی علامت ہے۔ یہاں کسی قدر ٹھہر جانا چاہئے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔

وقفة لمبے سکتہ کی علامت ہے۔ یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہئے لیکن سانس نہ توڑے۔ سکتہ اور وقفہ میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے اور وقفہ میں زیادہ۔

لا لا کے معنیٰ نہیں کے ہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اُوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہئے۔ آیت کے اُوپر ہو تو اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے، بعض کے نزدیک نہ ٹھہرنا چاہیے لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ وقف اسی جگہ نہیں چاہئے جہاں عبارت کے اندر لکھا ہو۔

ك کذٰلک کی علامت ہے، یعنی جو رمز پہلے ہے وہی یہاں سمجھی جائے۔

∴ ∴ یہ تین نقاط والے دو دو وقف قریب قریب آتے ہیں۔ ان کو معانقہ کہتے ہیں۔ کبھی اس کو مختصر کر کے مع لکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں وقف گویا معانقہ کر رہے ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھہرنا چاہئے دوسرے پر نہیں۔ ہاں وقف کرنے میں رموز کی قوت و ضعف کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔

عرضِ مؤلف

بسم اللہِ الرَّحمٰنِ الرَّحِیم

تمام تعریفیں اس وحدہٗ لاشریک ولایزل ہی کو سزاوار ہیں کہ جس نے حاملِ قرآن ، سرکارِ دوسرا ، شافعِ روزِ جزا ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے ایک ادنیٰ امتی یعنی مجھ حقیر و ناچیز کو نہ صرف یہ کہ اپنے کلام کی ترویج و اشاعت کی رغبت اور شوق عطا فرمایا بلکہ اپنے بندوں کے دل میں موجود ''ترغیب حفظِ قرآن'' کی چنگاری کو بھڑکانے میں ممد و معاون ہونے کی ''عظیم فکر'' کا شرف بھی بخشا۔

اس فکرِ عظیم کو عملی جامع پہنانے کی عرصہ دراز سے دلی خواہش اور تمنا تھی کہ عاشقین حفظ کلامُ اللہ کے لئے جامع انداز میں متوقع متشابہات کہ جو باعث ہوتے ہیں ان کے حفظ میں دشواری پیدا کرنے کے ، کی نشاندہی کردی جائے تاکہ وہ نہ صرف کہ گم گشتہ راہ ہونے سے محفوظ رہیں بلکہ دستگیری و رہبری کا وسیلہ بنیں، دیگر بندگان ربّ العالمین کی توجہ اس مقدس و متبرک سمت مبذول کرانے کا اس سلسلہ میں کتنے ہی نقوش نے پردہ تصور میں جنم لیے لیکن کوئی بھی نقش حتمی فیصلہ پر منتج نہ ہوسکا۔ یہاں تک کہ بیت جانے والی قمری صدی کے سالِ آخر (۱۴۰۰ھ) کے اوائل کی ساعات سعید میں میرے محسن اور میرے رفیق ، اخبار جنگ کے ایگزیکٹو ایڈیٹر جناب حافظ محمود احمد مدنی اور میرے لائق فائق داماد و ہونہار فرزندِ روحانی ، عزیزم قاری سلیم رفیق صاحب سلمہ کو جو ترغیبِ حفظِ قرآن کی مساعی حمیدہ میں میرے ہم فکر بھی ہیں، کے باہمی غور و خوض سے بتوفیقِ ایزدی ...... انتہائی پرکشش ، مؤثر ، نفع بخش اور میری دانست میں سہل ترین راہ ہموار ہوئی ...... کہ متوقع متشابہات کو زیرِ سطور لاکر حواشی پر ہی ان کے جوابات درج کئے جائیں تاکہ طالب کی تشنگی فوری طور پر فرو کی جاسکے اور اسے اس کے لئے کسی ماہر کی تلاش میں سرگرداں و پریشان نہ ہونا پڑے۔

بعونِ رب آج سے قریباً تین برس قبل یعنی ۱۹ جمادی الاول ۱۴۰۰ھ بروز یکشنبہ اس کٹھن مگر مقدس مہم کا بیڑا اٹھانے کی توفیقِ سعید عطا ہوئی۔ جب کہ اس سلسلے میں عزیزم قاری سلیم رفیق سلمہ کی مساعی جمیلہ اور عرق ریزی نے میرے لئے سونے پر سہاگہ کا کام دیا کہ جنھوں نے شب و روز اپنے آپ کو میرے ساتھ متشابہات کی ان گنت گتھیوں کو سلجھانے میں پورے عرصے ہمہ تن مصروف رکھا۔ بصورتِ دیگر بندہ اپنے آپ کو اس سمندر ناپیدا کنار کے عبور کرنے کا اہل نہ سمجھتا تھا۔ متشابہات کی گتھیوں کو سلجھانے کے پیشِ نظر اس نگارش میں مندرجہ ذیل نکات ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے:

۱۔ متشابہات القرآن کی لغت پر مشتمل اس نسخہ میں عرب و عجم دونوں خطوں کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے اعداد عربی زبان میں رکھے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ عربی میں چار کو ٤ پانچ کو ٥ اور سات کو ۷ لکھا جاتا ہے جب کہ دیگر اعداد اردو زبان کے مماثل ہیں۔

۲۔ حوالہ کے لئے حاشیہ پر سورۃ کا نام اور متعلقہ آیت نمبر درج کرتے ہوئے سعی کی گئی ہے کہ ''زبان'' کا استعمال حتی الامکان کم از کم ہو۔ مثلاً الانفال ٥٠ (سورۃ الانفال کی پچاسویں آیت) اور سورۃ فاطر ٤ (سورۃ فاطر کی چوتھی آیت) کے لئے درج کیا گیا ہے۔ اس طرح نہ صرف حفظ کے طلباء کی توجہ تلاوت سے نہ ہٹنے پائے گی بلکہ عام قاری بھی نہایت سہولت کے ساتھ اس نسخہ میں اپنی تلاوت جاری رکھ سکے گا۔ پھر یہی نہیں بلکہ عرب و عجم کے عام مزاج کے مطابق ہر صفحہ کو پندرہ سطور پر مشتمل رکھتے ہوئے التزام کیا گیا ہے کہ اس کا اختتام گول آیت پر ہو۔ علاوہ ازیں خیال رکھا گیا ہے کہ حوالہ کے لئے ''رکوع'' کے بجائے آیت کا استعمال ہو کیوں کہ خطہ عرب میں ''رکوع'' کا یہ تخیل موجود نہیں ہے۔

۳۔ ہر ممکنہ متشابہ (تقریباً ساڑھے سات ہزار) کے الفاظ کے اوپر ایک خط کشید کرتے ہوئے اس کے آخری کنارے کے نیچے ترتیب وار نمبروں کا اندراج کردیا گیا ہے اور پھر انہیں نمبروں یعنی اشارات کی مناسبت سے متعلقہ صفحہ کے حاشیہ پر تقریباً تمام ممکنہ متشابہات کے مواقع تحریر کردیئے گئے ہیں مثلاً صفحہ ۲۲۳ پر ﴿ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ ﴾ کے اوپر ایک لائن لگائی گئی ہے اور اس کے آخری کنارے کے نیچے ''۱'' موجود ہے اب اس نمبر ''۱'' کے حوالے سے متعلق حاشیہ پر آپ کو ۱۔ الانعام ۳۸ درج ملے گا یعنی یہ الفاظ سورۃ الانعام کی آیت نمبر ۳۸ میں بھی شامل ہیں۔

۴۔ ہر وہ متشابہ کہ جس کا ٹکراؤ دیگر تین مواقع پر ہوتا ہو اس کی تفصیل متعلقہ حواشی پر درج ہے۔ لیکن چار سے زائد بار ہونے کی صورت میں جب کہ حروف اور اعراب بالکل ہو بہو ہوں ' کے لئے ۲۳۰ اعداد پر مشتمل ایک ضمیمہ ترتیب دیا گیا ہے جو کہ متن قرآن کریم کے اختتام پر منسلک ہے۔ اس ضمیمہ میں بڑے سے بڑا اشمار ﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا ﴾ (۸۹ بار) بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کے لئے حواشی پر آپ کو دیکھئے ضمیمہ ٤٧ درج ملے گا جب آپ قرآن کریم کے آخر میں ضمیمہ ٤٧ نکالیں گے تو اس میں دلچسپ اور چونکا دینے والی معلومات بھی دیکھیں گے مثلاً مذکورہ بالا ضمیمہ ٤٧ میں آپ ﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اُوتوا الكتاب ﴾ النسآء ٤٧ میں ، ﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ هادوا ﴾ الجمعة ٦ میں اور ﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوْا ﴾ التحريم ٧ میں ہے ' درج پائیں گے...... گویا کہ پورے قرآن کریم میں ﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اُوتوا الكتاب ﴾ ، ﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ هادوا ﴾ اور ﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوْا ﴾ صرف ایک ایک بار آیا ہے۔

۵۔ ہر وہ متشابہ کہ جس کا ٹکراؤ اگر چہ چار سے زائد مقامات پر ہوتا ہو لیکن کسی حرف یا اعراب کا فرق موجود ہو تو پھر اسے ضمیمہ کی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا بلکہ اس کے تمام حوالے آپ متعلقہ حواشی پر ہی موجود پائیں گے۔

٦۔ خیال رہے کہ بعض الفاظ اگر چہ قرآن مجید میں جابجا موجود ہیں لیکن اکثر قریب قریب ہونے کی وجہ سے متشابہ کا زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ لہٰذا بایں صورت صرف ان ہی مواقع کو بیان کیا گیا ہے مثلاً سورۃ الاعراف کی آیت ۱٤۹ اور ۱۵۰ کی ابتدا " ولمّا " سے ہو رہی ہے۔ لہٰذا وہاں بطور متشابہ ان دونوں ہی کو بیان کیا گیا ہے جب کہ قرآن مجید میں دیگر کئی آیات کی ابتداء بھی اسی لفظ سے ہو رہی ہے اسی طرح اگر کسی آیت میں کوئی لفظ ایک سے زائد بار شامل ہے تو اس کی نشاندہی کا عام طور پر لحاظ رکھا گیا ہے۔

۷۔ صرف عام حفاظ ہی نہیں بلکہ منتہی درجہ پر فائز حفاظ قرآن بھی دوران تلاوت بھٹک جاتے ہیں اور سہو کا شکار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا پہنچتے ہیں اس بھٹکنے کی کئی وجوہ ہیں۔ مثلاً:

(الف) چند آیات ترتیب قرآنی کے خلاف تلاوت کی عادت ہو جیسے اکثر حضرات سونے سے قبل آیت الکرسی اور پھر فوراً بعد سورۃ البقرۃ کی آخری دو آیات پڑھا کرتے ہیں۔ اگر وہ ترتیب وار تلاوت کر رہے ہوں تو بے دھیانی میں اسی انداز پر تلاوت کر جاتے ہیں۔ ایسے بھٹکنے کو حفظ قرآن کی اصطلاح میں متشابہ لگنا نہیں کہا جاتا کیونکہ اس کا شکار احساس ہوتے ہی خود بخود صحیح تلاوت کی ترتیب پر بہ آسانی لوٹ آتا ہے۔

(ب) بعض اوقات صرف ایک لفظ کی مماثلت سے بھی حافظ قرآن بھٹک سکتا ہے۔ اس بھٹکنے کو اگر چہ متشابہ لگنا ہی کہا جائے گا لیکن یہ صورت شاذ ہی پیش آتی ہے اور اگر پیش آجائے تو زیادہ پریشانی کا باعث نہیں ہوتی۔ اسی لئے اس کاوش کو عمومی طور پر مرکبات تک ہی محدود رکھا گیا ہے۔

(ج) بھٹکنے کی بڑی وجہ یعنی متشابہ لگنے کا اصل سبب چند ایک جیسے یا ملتے جلتے مجموعہ الفاظ کا قرآن پاک میں ایک سے زائد بار موجود ہونا ہی ہے۔ اگر آپ دوران تلاوت ایسی صورت سے دوچار ہو جائیں تو جب تک صحیح شمار (گویا کہ تشخیص مرض) یعنی کون سا متشابہ کہاں کہاں ٹکراتا ہے ' سے پوری طرح آگاہ نہ ہوں ' یقیناً سخت الجھن اور اعصابی تناؤ کا شکار ہوں گے اور محتاج ہوں گے کسی دوسرے حافظ کی مدد کے یا قرآن پاک کھول کر دیکھنے کے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ آپ کی وقتی تشفی کے اسباب و علل ہیں ورنہ ایک سوال آپ کے ذہن میں بار بار چٹکیاں لیتا رہے گا کہ آخر مجھے متشابہ لگا کن الفاظ کی تکرار کی بنا پر اور میں جا پہنچا کس مقام پر؟ لہٰذا اس کے جواب کے حصول کے لئے اس نگارش " القرآنُ الکریم مع تشریح المتشابہات " سے ضرور رہبری حاصل کیجئے۔ جب آپ کو اس کا جواب میسر آجائے گا تو پھر یقیناً آپ اسے ذہن میں رکھ کر تلاوت کریں گے اور اگر بالفرض محال غلط پڑھ بھی گئے تو فوراً اصل جگہ پر لوٹ آئیں گے۔ لیکن پھر بھی یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ حفظ تلاوتِ کلام اللہ میں باعتبار وجہ ظاہری...... مرکزیت " آپ کی توجہ کا غایت درجہ ہونا " اور باعتبار وجہ باطنی ...... " اللہ تبارک وتعالیٰ کی نظر رحمت " ہے۔

ایک کارآمد مشورہ:

کسی متشابہ کے متوقع مقامات کا علم ہونے پر بھی اگر آپ اس کے دام میں آجاتے ہوں تو پھر درپیش متشابہ آیت (مثلاً کسی سورۃ کی آیت نمبر۱۲) کو ماقبل (اس سورۃ کی آیت نمبر۱۱) اور مابعد (یعنی اس سورۃ کی آیت نمبر۱۳) کے وسط میں لاکر اس کا پوری تندہی سے خوب ورد کیجئے یہاں تک کہ عبارت کا تسلسل اور ربط آپ کے لاشعور میں سما جائے۔ یقین کیجئے کہ جس متشابہ یا غلطی پر بھی آپ نے یہ عمل کرلیا، ان شاء اللہ العزیز اس متشابہ یا غلطی کو آپ سیل رواں بن کر مانند خس وخاشاک بہا کرلے جائیں گے۔

خیال رہے کہ یہ نگارش ''القران الکریم مع تشریح المتشابہات'' نہ صرف یہ کہ دوران حفظ قرآن کریم آپ کے حفظ میں سہولت بہم پہنچانے یا بعدہ ''حفظ میں کمال پیدا کرنے اور چار چاند لگانے کے لئے'' مؤثر ہے بلکہ علماء کرام کی ہمہ وقتی ضرورت یعنی ہم مفہوم وہم معانی آیات کی تلاش میں بھی بے حد ممد ومعاون ہے۔

اچھے حافظ بننے کے شوقین حضرات کے لئے ایک ہمدردانہ نصیحت:

کسی پارہ یا سورۃ کو مشکل نہ کردانیئے بلکہ بھولنے کے خوف کو دل سے نکالتے ہوئے کامل دلچسپی، سچی لگن، مکمل توجہ، دل جمعی، یاد ہونے کا یقین اور کلام الٰہی پر نگاہ محبت کے ساتھ سعی پیہم میں لگے رہیئے، یہاں تک کہ اس نعمت عظمٰی میں آپ کو لذت وکیف محسوس ہونے لگے بس پھر کیا ہے! آپ کی اس پرعزم طلب کے صدقے اور طفیل خدائے ذوالعطاء بہت جلد پورے قرآن پاک سے آپ کے قلب کو مزین ومنور فرماتے ہوئے آپ کی زبان پر جاری وساری فرمادیں گے۔ کہ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ دوران تلاوت نہ کوئی جھجک ہوگی اور نہ کوئی رکاوٹ.......... ذرا آزما کر تو دیکھئے!!

ہاں البتہ متشابہات آڑے آئیں تو پھر یہ نگارش موجود ہے، اس سے ضرور استفادہ فرمایئے۔ خیال رہے کہ حفظ کے لئے ہمیشہ ایک ہی طرز کا چھاپہ یا نقش، زیر مطالعہ رکھئے.......... تاکہ زبان کے ساتھ ساتھ آپ کی نظر بھی اس پر جم سکے اور ذہن پر زیادہ بہتر طور پر ثبت ہوسکے۔

طریقہ تلاش متشابہ:

جب آپ کسی متشابہ کو سمجھنے کے خواہاں اور طلب گار ہوں تو اللہ کا نام لے کر ''القرآن الکریم مع تشریح المتشابہات'' درپیش متشابہ کے موقع پر کھولئے اور وہاں اشاریہ (نمبر۔) کے ذریعے متعلقہ حاشیہ تک رسائی حاصل کرلیجئے۔ اب یہاں یا تو مکمل تفصیل بابت متشابہ موجود ہوگی یا پھر اوراق ضمیمہ کا حوالہ دیا گیا ہوگا۔ بہر دو صورت ان شاء اللہ العزیز آپ تفصیل سے آگاہی حاصل کرکے اطمینان قلب کی انمول لذت سے لطف اندوز ہوں گے اور پھر بار بار اس عمل اور مطالعہ سے، بہت جلد متشابہات پر عبور حاصل کرلیں گے۔

آخر میں استدعا ہے کہ یہ ''کاوش'' اگر آپ کو پسند آئے تو دعا گو ہوئیے اس کے مقبول درگاہ رب العزت ہونے کے، تاکہ سبب بن سکے مجھ ناچیز، پدرم واستاذم قبلہ حافظ کریم الدین نور اللہ مرقدہ، معاونین خاص قاری سلیم رفیق وفرزندمن حافظ عبدالمتعال سلمھما اللہ تعالیٰ ودیگر تمام معاونین اور ان کے والدین اور اساتذہ کی مغفرت کا کہ جنھوں نے دامے، درمے، سخنے کسی انداز میں بھی اس کار خیر میں حصہ لیا یا آئندہ لینے کی تمنا خواہش رکھتے ہیں۔

ایک ضروری گزارش:

اس کاوش کو مفید عام بنانے کی مقدور بھر کوشش کی گئی ہے لیکن پھر بھی انسان خطا ونسیان کا پتلا ہے۔ لہٰذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بات اصلاح طلب سامنے آئے تو مطلع فرما کر ممنون فرمائیں۔ پیشگی شکریہ!

راقم الحروف
خادم القرآن
''قرآنی کمپیوٹر'' قاری عبدالحلیم عفی عنہٗ
نگراں مدرسہ حفظ القرآن، اسلم روڈ، کراچی ۔ ۷۴۲۰۰

المرقوم: ۲۶ جمادی الاول ۱۴۰۳ھ
مطابق ۱۲ مارچ ۱۹۸۳
یوم السبت

''قرآنی کمپیوٹر'' حضرت قاری عبدالحلیم نوّراللہ مرقدہ

مشہور و معروف اور '' قرآنی کمپیوٹر '' کے لقب سے پکاری جانے والی منفرد شخصیت حضرت قاری عبدالحلیم نوّراللہ مرقدہ مہتمم مدرسہ حفظ القرآن اسلم روڈ کراچی نے ۱۹۴۲ء کے وسط میں پنجاب کھوڑ تحصیل شہر دہلی کے ایک مذہبی اور علمی گھرانے کی مقدس فضا میں آنکھ کھولی، آپ کے والد ماجد جناب حافظ کریم الدین اعلیٰ علّیین مقامہ' اگرچہ ماہر معلّم قرآن کے ساتھ ساتھ ایک مستند یونانی طبیب بھی تھے لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی کلام اللہ کے سکھانے پر مرکوز رکھی۔ ۱۹۲۷ء میں محترم جناب حافظ کریم الدین اعلیٰ علّیین مقامہٗ ' نے مدرسہ حفظ القرآن کے نام سے شہر دہلی میں ایک مدرسہ کی داغ بیل ڈالی اور یہ سلسلہ بحمد اللہ تقسیم ہند کے بعد کراچی کے محلہ عیدگاہ راجہ مینشن ' اسلم روڈ پر جگہ کی تبدیلی کے ساتھ تادم آخر (جنوری ۱۹۷۲ء) جاری و ساری رہا۔ قاری عبدالحلیم نوّراللہ مرقدہ نے کراچی ہی میں اپنے والد محترم حضرت شیخ الحفاظ حافظ کریم الدّین اعلیٰ علّیین مقامہٗ ، کی نگرانی میں قریبًا ساڑھے دس برس کی عمر میں حفظِ قرآن کی تکمیل کی۔ حفظ قرآن پر قدرے عبور ہونے کے بعد تجوید کی مزید مشق اور یادداشت میں اضافہ کے لئے شیخ القراء حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی المہاجر مدنی قدس سرہ کی خدمتِ اقدس میں کچھ عرصہ گزارا ' بعدازاں انہوں نے اپنے مدرسہ (مدرسہ حفظ القرآن) میں طلباء کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کی طرف توجہ دی اور بی اے (سال اوّل) پی ٹی سی ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ کا کورس مکمل کیا۔ اگرچہ موصوف سرکاری اسکول میں دس سال تک دنیاوی علوم سکھانے پر مامور بھی رہے لیکن قرآن پاک کی محبت میں ایسے وارفتہ تھے کہ پھر بعد انتقال پدر خدمت قرآن کو ہی مستقل طور پر اپنا اوڑھنا بچھونا بنالیا اور شب و روز اس کی ترویج و اشاعت میں اپنے آپ کو منہمک کردیا۔ یادگار پدر ' مدرسہ حفظ القرآن میں نہ صرف یہ کہ آپ نے طالبانِ کلامِ الٰہی کی حتّی الامکان تشنگی دور کرنے کی سعی کی بلکہ متنِ قرآن پر مبنی ایک منفرد فن کے موجد ہونے کا شرف بھی حاصل کیا۔

آپ کو قرآن کریم سے انتہائی شغف اور تعلق تھا۔ قرآنِ کریم انتہائی پختہ یاد تھا۔ پورے قرآن کریم میں شاید ہی کوئی غلطی آتی ہو۔ متشابہات قرآن پر مکمل اور حیرت انگیز دسترس حاصل تھی۔ قرآنِ کریم کے جس نسخہ میں انہوں نے حفظ کیا تھا اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک صفحہ آپ کے ذہن میں نقش تھا۔ قرآنِ کریم کا وہ نسخہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔

قرآنِ کریم میں کتنی سورتیں اور کتنی آیات ہیں۔ یہ تو اکثر قراء کو یاد ہوتی ہیں۔ لیکن حضرت قاری صاحب نوّراللہ مرقدہ کا کمال یہ تھا کہ آپ کو نہ صرف قرآنِ کریم کی ہر آیت کا نمبر یاد تھا بلکہ ہر سورۃ ' ہر رکوع' ہر صفحہ اور ہر پارے میں کتنی آیات ہیں اور ان آیات میں ہر آیت کے کتنے اجزاء ہیں یہ باتیں بھی ازبر تھیں۔ قاری صاحب نوّراللہ مرقدہ اپنی اس مہارتِ کاملہ کا جگہ جگہ مظاہرہ کیا کرتے تھے اور سننے والے عش عش کر اٹھتے تھے اور قرآنِ کریم کے اس معجزے پر ورطہ حیرت میں پڑ جاتے تھے کہ اس زمانے میں بھی کمال کا حافظہ رکھنے والے موجود ہیں۔ کوئی شخص آپ کے زیر استعمال قرآنِ کریم کا صفحہ نمبر بتاتا تو آپ فوراً جواب دیتے کہ اس صفحہ کا پہلا حرف یہ ہے۔ آیت نمبر یہ ہے۔ اسی طرح آیت کا حوالہ نمبر کے ساتھ دینے پر فوراً آیت کی تلاوت کردیتے تھے اور پچھلی آیات بھی ان کے نمبرات کے ساتھ مسلسل روانی سے بتادیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پارہ 'صفحہ 'رکوع' آیت یا آیت کا کوئی جزو اپنے دل میں سوچ لیں تو اسے بھی چند سوالات کی مدد سے اخذ فرمالیتے تھے۔ مزید برآں یہ کہ انہیں سال پیدائش اور سال وفات بتائی جاتی تو اس کے مطابق عدد والی آیت فوراً بتلا دیتے تھے جو ایک اور نایاب کمال اور حیرت انگیز حافظہ کی علامت تھی۔

یہ آپ کا ایک معمولی مظاہرہ ہوتا تھا۔ باقی عجیب و غریب انداز سے مظاہرہ کرتے تھے اور سننے والوں کی زبان سے آپ کے صحیح جوابات سن کر بے ساختہ سبحان اللہ ' ماشاء اللہ اور الحمد للہ کے الفاظ نکل پڑتے۔ سعودی عرب عمرے کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں بڑے بڑے علماء کرام کی محفلوں میں اپنے علم و فن کا مظاہرہ کیا تو وہ بھی حیران رہ گئے کہ قرآنِ کریم پر اس قدر عبور بھی ہو سکتا ہے۔ خصوصًا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الشیخ علی عبدالرحمن الحذیفی مدظلہ تو بہت مسرور ہوئے اور آپ کو بہت دعاؤں سے نوازا اور اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنے صاحبزادوں کو قاری صاحبؒ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے درخواست کی کہ آپ ان کے لئے دعا فرمائیں۔

قاری صاحب نور اللہ مرقدہ اور فدوی قاری سلیم رفیق عفا اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مشترکہ خواہش تھی کہ کسی طرح دوسرے حفاظ و قراء بھی اپنے اندر یہ کمال پیدا کرلیں اس کے لئے قاری صاحب موصوف نے حفاظ قرآن کی ایک بڑی مشکل حل کرنے کی طرف توجہ فرمائی اور "متشابہات القرآن" پر نئے انداز اور جدید اسلوب میں قلم اٹھایا۔ حضرات حفاظ کی اصطلاح میں "متشابہ" ایسی آیت وغیرہ کو کہتے ہیں جو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بعینہ یا اس کے قریب قریب آئی ہو۔ جب کہ حضرات فقہا و محدثین کے نزدیک اس کا دوسرا مفہوم ہے۔

"متشابہات القرآن" کے موضوع پر اگرچہ بعض کتابیں موجود ہیں لیکن حفاظ کو اس میں یہ دشواری پیش آتی ہے کہ تلاوت کے وقت اس کتاب کا ساتھ رکھنا ممکن نہیں ہوتا' بالخصوص جبکہ قرآن کریم میں دیکھ کر تلاوت کی جا رہی ہو تو یہ دشواری اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ قاری صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے شاگرد رشید و داماد فدوی قاری سلیم رفیق غفر اللہ تعالیٰ عنہ کی معاونت سے برسوں کی عرق ریزی کے بعد اپنی زندگی بھر کے تجربات کو "القرآن الکریم مع تشریح المتشابہات" کے نام سے مرتب کیا ہے جو دوران حفظ اور حفظ کرنے کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ بہترین مدد و معاون ثابت ہوگا۔ اس قرآن کریم میں ہر صفحہ کے حاشیہ پر اس صفحہ پر موجود متوقع متشابہات کے تمام حوالے 'یعنی فلاں آیت یا فلاں الفاظ قرآن کریم میں کہاں کہاں اور کتنی مرتبہ آئے ہیں' درج ہیں اور ہر وہ آیت یا ٹکڑا جو ہو بہو اعراب اور حروف کے ساتھ پورے قرآن کریم میں کم از کم پانچ مرتبہ آیا ہے اسے اردو انگریزی ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کے آخر میں ضمیمہ کے عنوان سے یکجا کر دیا ہے' نیز حفظِ قرآن کریم کو آسان اور پختہ کرنے کے لئے متعلقہ صفحہ پر اور خصوصاً ضمیمہ میں ان آیات کو جو ذرا سی تبدیلی کے ساتھ صرف ایک یا چند بار آئی ہیں یا صرف ایک سورۃ یا پارہ میں موجود ہیں علیحدہ لکھ دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ حفظ کے طلبہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں بلکہ حفاظ کرام بھی اس کی مدد و راہ نمائی سے متشابہات سے بچ کر بلا جھجک تراویح میں قرآن پاک سنا سکیں۔

عربی ایڈیشن: چونکہ یہ محنت کسی ایک ملک وقوم کے لئے خاص نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لئے ہے اس لئے الحمد للہ اس کا عربی ایڈیشن "القرآنُ الکریم مع ذکر المتشابہات" کے نام سے بھی شائع کیا گیا ہے جس کا عربی ترجمہ حضرت ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمہ اللہ نے سفرِ حج کے دوران مقامات مقدسہ اور حرمین شریفین میں بڑی عرق ریزی کے ساتھ کیا اور جسے الحمد للہ مجھے امام خانہ کعبہ الشیخ عبد الرحمٰن السدیس اور ائمہ مسجد نبوی ﷺ، الشیخ عبد الرحمٰن الحذیفی، الشیخ ابراہیم الاخضر، الشیخ قاری محمد ایوب، الشیخ عبد المحسن القاسم اور الشیخ عبد الباری الثبیتی صاحبان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور انہوں نے اسے بے حد پسند فرمایا الحمد للہ بعد ازاں اس قرآن کریم کو مسجد نبوی ﷺ کی لائبریری میں رکھا گیا اور تعریفی سند عطا کی گئی۔

اس کے علاوہ قاری صاحبؒ نے ناظرہ قرآن کریم کے حصول کو سہل بنانے کے لئے تین ماہ میں قرآن کریم سکھانے والا کورس (جدید نورانی قاعدہ) الدّروس الحلیمیہ (جس کا عربی ترجمہ الشیخ سعید احمد عنایت اللہ مدرسہ صولتیہ مکۃ مکرّمۃ نے کیا۔ اس کاوش کو بھی مسجد نبوی ﷺ کی لائبریری میں رکھنے کے سعادت نصیب ہوئی ۔) ترتیب دیا۔ دین کی بنیادی معلومات پر مشتمل معلومات پر مشتمل تعلیم الاسلام سوال وجواب کی شکل میں چھ کیسٹوں میں تیار کی نیز جدید سائنٹفک طریقہ سے قرآن سیکھنے اور اس کی اصلاح کے لئے ہر لفظ کے بعد وقفوں کے ساتھ تعلیمی ریکارڈنگ "آیئے قرآن شریف پڑھنا سیکھیں" کی چونسٹھ کیسٹس میں ریکارڈ کرنے کی سعادت بھی انہیں حاصل ہوئی۔

حضرت قاری عبد الحلیم نور اللہ مرقدہ ایک باکمال شخصیت تھے آپ کے علم وفن کی تعریف وتوصیف میں مختلف مکاتب فکر کے تمام جید علماء حضرات فرماتے ہیں کہ آپ قاری صاحب نور اللہ مرقدہ بے شک حفظ کلام الٰہی کی تاریخ میں منفرد' یکتا اور بے مثال شخصیت تھے۔ آپ ۸ صفر المظفر ۱۴۱۷ھ مطابق ۲۵ جون ۱۹۹۶ کو ۵۴ سال کی عمر میں مختصر علالت کے بعد اس دار فانی کو چھوڑ کر عالم جاودانی کی طرف منتقل ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ (اللّٰھمّ اغفرلہ وارحمہ والحقہ بالرفیق الاعلیٰ)

از: قاری محمد سلیم رفیق عفا اللہ تعالیٰ عنہ (مؤلف تفصیل المتشابہات)

فرزند روحانی و معاون قرآنی کمپیوٹر قاری عبد الحلیم نور اللہ مرقدہٗ

دو ماہ میں قرآنِ کریم سکھانے والا

جدید نورانی قاعدہ

قرآنِ کریم کی ابتداء سے قبل عام طور پر ''نورانی قاعِدہ'' کا مشورہ دیا جاتا ہے لیکن آپ ذرا ''نورانی قاعدہ'' کا موازنہ ایک نئے انداز پر مؤلفِ تالیف

'' القرآنُ الکریم مع تشریحِ المتشابہات ''

کی ترتیب شدہ چالیس اسباق پر مشتمل جدید کاوش

الدُّرُوسُ الحَلِیمِیّۃ

سے تو کر کے دیکھیئے ۔ اِن شاءاللہ فیصلہ کرنے میں آپ کو زیادہ دیر نہیں لگے گی۔

الدُّرُوسُ الحَلِیمِیّۃ : قرآنِ کریم کے الفاظ کا ایک طور پر جامع ترین خلاصہ ہے جس سے آپ خواہ نئے سیکھنے والے ہوں ، ناظرہ قرآنِ کریم پڑھ چکے ہوں یا حافظِ قرآن، اپنی اپنی جگہ بہت کم وقت میں بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں۔

یہی وہ مجموعہء اسباق ہیں جن کے سیکھ لینے کے بعد آپ انشاءاللہ العزیز قرآنِ پاک کی ہر جگہ سے تلاوت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دراصل وجہ اس کی یہ ہے کہ اِعراب کی مشق کے ساتھ ساتھ اس میں نہ صرف وہ تمام الفاظ موجود ہیں جو کہ دس یا پندرہ سے زائد مرتبہ قرآنِ پاک میں شامل ہیں بلکہ باعتبارِ تلاوت مشکل تراکیب پر مبنی تقریباً تمام الفاظِ قرآن کو سمندر در کوزہ کے مصداق یک جا کر دیا گیا ہے۔

ناشر: الحافظ پبلیشرز مدرسہ حفظ القرآن اسلم روڈ عقب جامع مسجد عیدگاہ جامع کلاتھ مارکیٹ۔ایم اے جناح روڈ کراچی ۷۴۲۰۰
Al Hafiz Publisher Madarsa-e-Hifzil Quran Asalm Road ,Near Jama Masjid Eid Gah M .A .Jinnah Road. Karachi, 74200 Pakistan.
Email: Hafiz_Hasansaleem@yahoo.com
MOB : 0092-0321-3899820 Phone: 0092-021-32733617,0092-021-36069281

قرآن مجید کی سورتوں کی فہرست